



نَقَارِسُ الْفَقَه

علمی و فقہی مباحث و مضامین کا مجموعہ

جلد اول

مؤلف

حضرت مولانا ہفتی محمد شعیب الشخان حسنافتائی ڈاکٹر ہم
بانی دہشم الجادعۃ الاسلامیۃ مسیح الجلوم، بنگلور

مَكْتَبَتُ مَسِيحِ الْأَمَّةِ لِلْوَبَنَہِ وَسِنْگَلَور

مَدِیْنَۃِ

لَهَبَرْ

مُحْفَظَةٌ جَمِيعِ الْحَقُوقِ



نَامَّ كِتَابٍ : نَفَرْسُ الْفَقْمَ جَلْدَهُ اول

مَوْلِفُ : حَضْرَتُ مَوْلَانَا مُهَمَّةً مُحَمَّد شَعِيبُ اللَّهِ خَان حَنَافَتَاهِي دَهْبَرَ كَبِيرٍ

بِالْمَدِينَةِ الْمُكَ�بِرَةِ الْمَسْلَمِيَّةِ مَسْيَحِ الْكَوْمِ بِرَسْتَهُز
وَعَلَيْهِ الْمَرْسَأُ إِلَيْهِ الْمَطْرَقُ وَالْمَسْبِعُ وَالْمَعْلِمُ تَأْلِيمُ ظَاهِرِ عَلَيْهِ وَرَفِيقُهُ شَهَادَتُهُ

صَحْفَاتٌ ٥٢٦ :

تَارِيخُ طَبَاعَتٍ : رَبِّ الْرَّجَب ١٤٣٨

نَاثِرٌ : مَكْتَبَتُ مَسْيَحِ الْأَمَّةِ لِدِينِ يَهُودَةِ وَيَهُودَلَّوْرَ

مُوبَائلُ ثُبُرٍ : 9036701512 / 09634830797

اَيْ مَيْل : maktabahmaseehulummat@gmail.com

نفائس الفقه (جلد اول)

پرائیک اجمانی نظر

فہرست

صفحہ	عناوین
۲۰	اللہ فریض از حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم
۲۳	مفہدیت
جانش اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری - صورتیں اور احکام	
۵۵	شیرز کے ذریعے سرمایہ کاری کی شرعی حقیقت
۵۵	کمپنی سرمایہ کاری کی دو صورتیں
۵۶	پہلی صورت کا حکم
۵۶	”شیر“، شرکت کی کونی قسم ہے؟
۵۸	شرکتِ مفاوضہ یا عنان؟
۶۰	ایک شہبے کا جواب
۶۳	سرمایہ کاری کی دوسری صورت کا حکم
۶۳	اپنے حصے پر مالکانہ تصرف؟
۶۵	کمپنیوں کی قسمیں اور ان کے احکام
۶۵	حرام کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا حکم

۶۵	حلال کار و باروالي کمپنیوں میں سرمایہ کاری
۶۸	سود میں ملوث کمپنیوں میں شرکت
۷۲	مال مخلوط بالحرام کا حکم
۷۳	سود کو صدقہ کر دے
۷۷	ڈپچر (Debenture) کے ذریعہ سرمایہ کاری
۷۸	ڈپچر سے شیئر کی طرف
۸۰	شیئر (Share) کی شرعی حیثیت
۸۰	کیا شیئر مخصوص ایک حق ہے؟
۸۱	بانڈ (Bond) کی حقیقت و حیثیت
۸۳	شیئرز کی خرید و فروخت
۸۲	پہلی شرط: کمپنی حرام کار و بار نہ کرتی ہو
۸۲	دوسری شرط: قیمت میں کمی بیشی نہ ہو
۸۶	قیمت میں کمی بیشی کے جواز کی صورت
۸۷	تیسرا اور چوتھی شرط
۸۷	بنخے سے پہلے شیئرز کی بیع
۸۹	دلال یا وکیل کی بیع کا حکم
۹۰	شیئرز اور سٹہ بازی
۹۱	شیئر کارہن
۹۲	بانڈز کی خرید و فروخت
۹۷	باونڈز کارہن

احکام زکاۃ۔ جدید حالات کی روشنی میں

۱۰۱	محور اول: اموال زکاۃ اور ان پر وجوب زکات کی شرائط
۱۰۲	شرائطِ وجوب زکاۃ
۱۰۳	پہلی شرط: ملکِ تام
۱۰۴	خرید کردہ غیر مقبول مال پر زکاۃ
۱۰۵	پیشی ادا کردہ قیمت پر زکاۃ
۱۰۶	اڈوانس یا ڈپوزٹ پر زکاۃ
۱۰۹	مارٹ گج {MORTGAGE} پر دی ہوئی رقم پر زکاۃ
۱۱۰	مدرس میں جمع شدہ رقم پر زکاۃ
۱۱۱	مال حرام پر زکاۃ ہے؟
۱۱۳	مال مخلوط بالحرام پر زکاۃ
۱۱۶	دین کی اقسام اور ان پر زکاۃ کی تفصیل
۱۱۹	کیا ممالک دین پر دین کی زکاۃ واجب قرار دی جاسکتی ہے؟
۱۲۱	پراویڈنٹ فنڈ {PF} پر زکاۃ
۱۲۷	دوسری شرط: نماء لعینی نامی ہونا
۱۲۸	نمائے تقدیری کی دوستی میں
۱۲۹	تیسرا شرط: حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہونا
۱۲۹	حاجتِ اصلیہ کی تعریف
۱۳۰	حاجاتِ اصلیہ پر زمانہ کا اثر
۱۳۲	چوتھی شرط: دین سے محفوظ ہونا

۱۳۲	کیا طویل الاجل قرض مانع زکاۃ ہے؟
۱۳۸	کمپنی کے اٹاٹھ پر زکاۃ
۱۳۶	ہیرے اور جواہرات پر زکاۃ
۱۳۸	زکات کس نرخ پر ہوگی؟
۱۴۰	کمپنی کے حصوں میں (شیرز) پر زکاۃ
۱۴۲	بونڈز پر زکاۃ کا حکم
۱۴۳	محور ثالث نصاب زکاۃ
۱۴۳	چاندی اور سونے میں سے کون سا نصاب اصل ہے؟
۱۴۵	محور ثالث مصارف زکاۃ
۱۴۵	مدِّ زکاۃ سے فیس کی وصولی
۱۴۶	مدارس کے سفراء کی حیثیت
۱۴۷	زکاۃ کی وصولی پر کمیشن
۱۴۹	زکاۃ کا حساب لکھنے والوں کی تخلوہ زکوۃ سے
۱۴۹	صرف زکاۃ فی سبیل اللہ
۱۴۹	پہلا قول
۱۵۱	دوسرा قول
۱۵۲	حضر حقیقی یا اضافی
۱۵۵	فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ ہے
۱۵۶	تفسیر میں اقوال سلف سے ہٹ کر کوئی قول اختیار کرنا جائز نہیں
۱۵۸	فی سبیل اللہ کا دائرہ

۱۶۰	فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط
۱۶۱	مصارف زکاۃ اور قیاس
۱۶۲	ایک شبہ کا جواب
۱۶۵	مصارفِ زکاۃ کے بارے میں ایک اہم استفتاء
۱۶۶	سوال نامہ فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور
۱۷۵	الجواب و منہ الحق والصواب
	حرام کاروبار کے لیے املاک کا اجراہ
۱۸۹	سوال
۱۹۱	حرام کا مous کی اعانت ناجائز ہے
۱۹۱	قرآن و حدیث سے دلائل
۱۹۲	سودی کاروبار کے تعاون کی حرمت
۱۹۳	مسئلے کیوضاحت
۱۹۴	حضراتِ فقہا کے اقوال
۱۹۶	امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق
۱۹۶	”جواز“ کی روایت
۱۹۷	”جواز“ کے معنی کیا ہیں؟
۲۰۲	”جواز“ کے حدود و شرائط
۲۰۳	”جواز“ کی پہلی شرط
۲۰۵	تنبیہ

۲۰۵	”جواز“ کی دوسری شرط
۲۰۶	ایک شبہ کا جواب
۲۰۹	”جواز“ کی تیسرا شرط
۲۱۰	”جواز“ کی چوتھی شرط
۲۱۳	خلاصہ تحقیق
۲۱۴	لفظ ”مکروہ“ کے معنی
۲۱۵	اصل سوالات کا جواب

مروجہ انشورنس پالیسی اور اسلام

۲۲۱	انشورنس کی حقیقت
۲۲۲	انشورنس کی مختلف صورتیں
۲۲۲	انشورنس میں سودا اور سود کی شرعی تعریف
۲۲۵	ذاتی ضروریات اور کار و باری ضروریات پر سودی قرض
۲۳۰	انشورنس میں دو طرح کا سودی معاملہ ہے
۲۳۱	انشورنس میں قمار اور قمار کی تعریف
۲۳۳	ایک شبہ کا جواب
۲۳۵	انشورنس کے مصالح اور حکم شرعی میں ترمیم کا مسئلہ
۲۳۵	انشورنس میں مفاسد
۲۳۶	انشورنس کی مختلف صورتوں میں فرق ہے یا نہیں؟
۲۳۷	لائف انشورنس کا حکم

۲۳۸	ہندوستان کے موجودہ حالات میں لاک انسورنس
۲۳۹	املاک کا انسورنس
۲۴۰	بعض علماء کی غلط فہمی
۲۴۲	ذمے دار یوں کا انسورنس
۲۴۵	میڈیکل انسورنس
۲۴۶	کاغذات کا بیمه
۲۴۷	انسورنس میں سود لیے بغیر شرکت کا حکم
۲۴۹	ربایا امداد؟
۲۵۰	دارالحرب میں سود کا مسئلہ
۲۵۳	ایک اہم مسئلہ
۲۵۵	نجی کمپنیوں اور حکومتی اداروں میں فرق
۲۵۶	ایک علمی مغالطہ
۲۵۹	انسورنس کے سود کے مصارف
۲۶۲	ایک قابل توجہ امر
۲۶۲	انسورنس کی تبادل شرعی شکل

عورت کی نماز-حدیث اور فقہ کی روشنی میں

۲۶۵	البَقْرِيطَا
۲۶۷	دیباچہ
۲۶۹	تمہید
۲۷۱	فصل اول—مرد و عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت احادیث رسول

۲۷۱	پہلی حدیث
۲۷۳	دوسری حدیث
۲۷۵	تیسرا حدیث
۲۷۶	چوتھی حدیث
۲۷۷	پانچویں حدیث
۲۷۸	چھٹی حدیث
۲۷۹	ساتویں حدیث
۲۸۰	آٹھویں حدیث
۲۸۱	آثار صحابہ کرام
۲۸۲	۱- حضرت علیؓ کا اثر
۲۸۳	۲- حضرت اُم درداءؓ کا اثر
۲۸۵	۳- حضرت علیؓ کا ارشاد
۲۸۶	۴- حضرت عائشہؓ کا اثر
۲۸۷	۵- حضرت ام سلمہؓ کا اثر
۲۸۸	۶- حضرت ام سلمہؓ کا دوسرا اثر
۲۸۹	۷- حضرت ابن عباسؓ کا اثر
۲۹۰	۸- حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا اثر
۲۹۱	انتباہ
۲۹۲	۹- حضرت ابن عمرؓ کا اثر
۲۹۳	۱۰- حضرت ابن عباسؓ کا اثر

۲۹۰	۱۱-حضرت انس <small>رض</small> کا اثر
۲۹۱	۱۲-حضرت ابن مسعود <small>رض</small> کا اثر
۲۹۲	اقوال تابعین عظام
۲۹۲	حضرت مجاهد رحمۃ اللہ کا قول
۲۹۳	حضرت حسن بصری و حضرت قادہ رحمۃ اللہ کا قول
۲۹۳	حضرت عطاء رحمۃ اللہ کا فرمان
۲۹۳	حضرت عطاء رحمۃ اللہ کا دوسرا قول
۲۹۴	حضرت عطاء رحمۃ اللہ کا ایک اور قول
۲۹۵	حضرت ابراہیم بن خنی رحمۃ اللہ کا بیان
۲۹۵	حضرت ابراہیم بن خنی رحمۃ اللہ کا دوسرا قول
۲۹۵	حضرت مجاهد رحمۃ اللہ کا قول
۲۹۶	امام زہری رحمۃ اللہ کا فرمان
۲۹۶	حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ و سعید بن المسیب رحمۃ اللہ کا قول
۲۹۶	حضرت ابراہیم بن خنی رحمۃ اللہ کا ارشاد
۲۹۶	حضرت خالد بن جلان رحمۃ اللہ کا بیان
۲۹۷	احادیث و آثار کا مقصد
۲۹۸	عورت کے سجدے کی کیفیت اور اس کی حکمت
۲۹۸	عورت کو سبحان اللہ کہنے سے منع کرنے کی وجہ
۳۰۰	عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کے حکم کی مصلحت
۳۰۰	عورت کی آخری صفات افضل کیوں؟

۳۰۱	امام شافعی کا زریں ارشاد
۳۰۲	ایک ضروری وضاحت
۳۰۳	حضرات علماء کا ادراک و فہم
۳۰۴	ایک حقیقت
۳۰۵	عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے بارے میں دیگر ائمہ کا مسلک
۳۰۶	شافعی مسلک
۳۰۷	ماکلی مسلک
۳۰۸	حنبلی مسلک
۳۰۹	عورت کی نماز کا طریقہ
۳۱۰	تکبیر تحریک میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ
۳۱۱	ہاتھ باندھنے کا طریقہ
۳۱۲	رکوع کا طریقہ
۳۱۳	سجدہ کا طریقہ
۳۱۴	بیٹھنے کا طریقہ
۳۱۵	مولانا ایوب صاحب ندوی بھٹکلی کے شبہ کا جواب
۳۱۶	عورت کی نماز کے دیگر احکام
۳۱۷	ستر عورت
۳۱۸	ہاتھ کو آستین سے نہ نکالے
۳۱۹	قرأت آہستہ کرے

۳۱۹	فخر کی نماز جلدی پڑھ لے
۳۲۰	بضرورت تالی بجا سکتی ہے
۳۲۱	عورتیں جماعت نہ کریں
۳۲۱	عورتیں مسجد میں حاضر نہ ہوں
۳۲۵	عورت امامت نہ کرے
۳۲۷	امام عورت آگے نہ کھڑی ہو
۳۲۷	عورت پر اذان و اقامت نہیں ہے
۳۲۸	عورت پر جمعہ کی نمازوں نہیں
۳۲۹	عورت پر عید کی نمازوں نہیں
۳۳۱	عورت صاف میں تنہا کھڑی ہو سکتی ہے
۳۳۲	چند شبہات اور اس کے جوابات
۳۳۲	پہلا شبہ اور اس کا جواب
۳۳۳	دوسرਾ شبہ اور اس کا جواب
۳۳۶	ضییمہ: جناب رفیق احمد سلفی اڈیٹر ماہنامہ "التوعیہ" کے نام ایک خط

تشريع اسلامی میں عرف و عادت کا مقام

۳۲۸	"عرف" کی حقیقت اور فرمیں
۳۲۶	"عرف" لغت و اصطلاح میں
۳۵۱	عادت کے معنی اور تعریف
۳۵۲	کیا عرف و عادت میں فرق ہے؟
۳۵۵	عرف اور اجماع میں فرق

۳۵۷	عرف کی فتیمیں
۳۵۷	عرفِ قوی و عملی کی تعریف
۳۵۸	عرفِ عام و عرفِ خاص کی تعریف
۳۵۸	عرفِ صحیح اور عرفِ فاسد کی تعریف
۳۵۹	عرف و عادت کا اعتبار
۳۵۹	عرف کے معتبر ہونے کے شرعی دلائل
۳۶۱	ایک شہبے کا جواب
۳۶۶	عرفِ قوی احکام شرعیہ میں معتبر ہے
۳۶۸	ابن قدامہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے ”المغنى“ میں لکھا ہے
۳۶۸	کیا عرفِ عملی معتبر ہے؟
۳۷۰	عرفِ عام معتبر ہے یا نہیں؟
۳۷۱	عرفِ خاص کا اعتبار ہے یا نہیں؟
۳۷۳	عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں
۳۷۶	عرف اگر نص عام کے معارض ہوتا؟
۳۷۸	عرف اگر نص خاص سے ملکراۓ تو؟
۳۸۹	کیا عرف پرمنی احکام، تغیر عرف سے بدل جاتے ہیں؟
۳۸۲	عرف اگر قیاس کے مخالف ہوتا؟
۳۸۳	قواعدِ عامہ کی خلاف ورزی کی صورت میں عرف کا حکم
۳۸۵	عرف و عادت سے متعلق قواعدِ قفہیہ

۳۹۲	اقوال فقہاء اور عرف میں تعارض
۳۹۳	عرف اور ظاہر الروایتیہ میں تعارض
۳۹۶	عرف کی ایک مسلک سے مخالفت اور دوسرے سے موافقت ہوتا ہے؟
۳۹۷	کیا نئے عرف کی اتباع واجب ہے؟

مکانة العرف والعادة في التشريع الإسلامي

۴۰۳	المحور الاول — فى بيان حقيقة العرف واقسامها
۴۰۴	العرف فى اللغة والاصطلاح
۴۰۵	العادة فى اللغة والاصطلاح
۴۰۶	الفرق بين العرف والعادة
۴۰۸	هل بين العرف والاجماع فرق؟
۴۱۰	انواع العرف والعادة
۴۱۰	العرف القولى والعملى
۴۱۱	العرف العام والخاص
۴۱۲	العرف الصحيح والفالسد
۴۱۳	المحور الثانى — فى بيان اعتبار العرف والعادة
۴۱۳	العدلة الشرعية على اعتبار العرف
۴۱۹	هل العرف القولى معتبر فى الاحكام الشرعية
۴۲۱	هل العرف العملى معتبرا م لا؟
۴۲۲	اعتبار العرف العام

٢٢٦	المحور الثالث — في بيان شرائط اعتبار العرف ومنهاج العمل فيما إذا تعارضت العدلة الشرعية
٢٢٦	شرائط اعتبار العرف
٢٢٨	العرف اذا اعارضه النص العام
٢٣٠	العرف اذا اعارضه النص الخاص
٢٣٠	هل الاحكام المبنية على العرف تتغير بتغيير العرف؟
٢٣٣	العرف اذا اخالفه القياس
٢٣٥	العرف اذا اعارضه القواعد العامة الشرعية
٢٣٧	المحور الرابع - في بيان قواعد الفقهية التي تتعلق بالعرف
٢٣٥	المحور الخامس - في تعارض العرف مع اقوال الفقهاء
٢٣٥	حكم العرف اذا اخالف الظاهر الرواية
٢٣٦	العرف اذا اخالف مذهبها فقيها ووافق آخر
٢٣٨	هل اتباع العرف الحادث واجب؟
٢٥١	تنزيل مسالك الائمة في اعتبار العرف

عرف الزهرة في تحقيق مسح الرقبة

٢٥٧	النَّفَرِيَّ
٢٥٨	مقدمة
٢٦١	فصل
٢٦١	مذاهب ائمه
٢٦٢	بدعت ہونے کا قول ضعیف ہے

۳۶۳	علامہ نوی رحیم اللہ پر علماء کا انکار
۳۶۸	گردن کا مسح سنت ہے یا مستحب؟
۳۷۱	فصل
۳۷۱	پہلی دلیل
۳۷۱	اس حدیث سے علمانے استدلال کیا
۳۷۲	یہ حدیث موضوع نہیں
۳۷۳	ضعیف کہنے والوں کی دلیل
۳۷۴	لیث بن ابی سلیم کی تضعیف کا جواب
۳۷۶	لیث بن ابی سلیم
۳۷۸	تد لیس کی تعریف
۳۸۰	علمت تد لیس کا جواب
۳۸۱	علامہ نوی رحیم اللہ پر نقد
۳۸۱	جرح مقدم ہے یا تعدیل
۳۸۳	علمت اختلاط و تغیر کا جواب
۳۸۵	کعب بن عمر و صحابی ہیں
۳۸۶	صرف کی توثیق
۳۸۷	طلحہ کی توثیق
۳۸۸	طبرانی کی سند
۳۸۹	دوسری دلیل
۳۹۰	اس حدیث پر دواعتز اضافات

۳۹۱	پہلے اعتراض کا جواب
۳۹۵	دوسرا اعتراض کا جواب اول
۳۹۶	ایک استدلال پر نظر
۳۹۷	دوسرا اعتراض کا جواب ثانی
۵۰۱	دوسرا اعتراض کا جواب ثالث
۵۰۲	زیادتِ ثقہ کی فحی بحث
۵۰۳	انتباہ
۵۰۵	تیسرا دلیل
۵۰۵	قفا کے معنی
۵۰۶	یہ مرسل حکمی ہے
۵۰۷	تحقیق رجال
۵۱۱	حاصل بحث
۵۱۱	صاحب عون المعبود کارو
۵۱۲	فضائل میں ضعیف مقبول ہے
۵۱۳	ضعیف پر عمل کے شرائط
۵۱۶	اسباغ فی الوضوء
۵۱۸	مسح رقبہ پر ایک اور استدلال
۵۲۰	روايات موضوعة في الباب
۵۲۳	كيفیت مسح رقبہ

الْفَرِطُ

حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم
 (مفتی دارالعلوم دیوبند)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاۃ والسلام على سید الانبیاء
 والمرسلین، وعلى الہ وصحبہ أجمعین وعلى من تبعهم بیاحسان إلى
 يوم الدین ، وبعد!

فقہی مسائل کے بغیر مسلمان کے لیے اسلامی زندگی گذارنا مشکل ہے، ہر
 مسلمان کو اسلامی زندگی گذارنے کے لیے قدم قدم پر مسائل کی ضرورت پیش آتی
 ہے، اس ترقی یافتہ دور میں بے شمار نئی ایجادات نے بہت سے شعبوں میں نئے نئے
 مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان سب فقہی مسائل کا جاننا خیر کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”من یردالله بہ خیراً یفقھہ فی الدین“ یعنی جس شخص کے حق میں اللہ
 تعالیٰ کوئی بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اسے دینی سمجھا اور مسائل سے واقفیت کی نعمت
 سے نواز دیتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، اپنے علاقے میں

اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ فتویٰ نویسی میں بھی شہرت یافتہ ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ بہت سارے ضروری، کارآمد، جدید مسائل کو ”نفائس الفقہ“، میں اکٹھا کر دیا ہے، یہ چار جلدیوں^(۱) میں ہے۔ میں اپنی عدیم الفرستی کے باعث بالاستعاب ان کا مطالعہ نہ کر سکا، صرف بعض بعض مقامات پہلی جلد کے دیکھے، ماشاء اللہ موصوف نے مسائل کو تحقیق کے ساتھ اور بسط و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور دلائل میں کتب فتاویٰ کی عبارت مع حوالہ دے کر کتاب کی زینت و ثقافت میں اضافہ کر دیا ہے۔

دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی موصوف کی کوششوں کو اور ان کی کتاب ”نفائس الفقہ“ کو طلبہ و اساتذہ اور عوام میں مقبولیتِ تامة عطا فرمائے اور موصوف کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

حبيب الرحمن خیر آبادی عفی اللہ عنہ

کمیٰ صفر ۱۴۳۶ھ

°

(۱) یہ تقریظ اُس وقت کی ہے، جب کہ ”نفائس الفقہ“ کی صرف چار جلدیں منتظرِ عام پر آئی تھیں؛ اب الحمد للہ اس کی پانچویں جلد طبع ہو چکی ہے اور آگے بھی کام جاری ہے۔ (ناشر)

مَقْدِشٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُفَلَّصٌ

دین اسلام خدائے بزرگ و برتر کا وہ آخری وابدی دین ہے، جو کل کائنات انسانی کی صلاح و فلاح، رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو ہر طرح سے کامل و مکمل، جامع و ہمہ گیر ہے اور جو تاقیامت آنے والی نسل انسانی کے سارے مسائل و حوانج کے لیے ایک بہترین اور معقول و سکون افرا دستور زندگانی ہے۔ ضرورتیں خواہ جیسی بھی ہوں، ملکی و ملی، معاشرتی و سماجی، تعلیمی و تربیتی، عائلوں و اقتصادی، معاشی و معادی، عباداتی و معاملاتی، زنانہ و مردانہ، والدانہ و طفلانہ، استاذانہ و شاگردانہ، اندروں خانہ و بیرونی خانہ۔ الغرض خالق و مخلوق کے سارے حقوق کا صحیح و جامع حل کسی کے پاس ہے؛ تو بس وہ خدائے وحدہ لا شریک کا یہی ہدایت نامہ ہے، جو دین اسلام سے موسم ہے۔

اسلام کے دو بنیادی مآخذ

اس دین کے دو اصل اجزاء ہیں، جس سے مل کر یہ دین، ”دین“ کہلاتا ہے: ایک حصہ خدا کی تعلیمات و ہدایات، احکام و فرائیں کا ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور ایک آقا نے نام دار محمد عربی حسانی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی،

گفتاری و کرداری، سکوئی و تقریری تشریحات و ارشادات کا ہے، جو احادیث و سنن کے نام سے جانے پہنچانے جاتے ہیں۔ خود نبی کریم ﷺ نے اس کی صراحت فرمائی ہے:

”ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسيكتم بهما كتاب
الله وسنة رسوله.“^(۱)

(میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کم را نہیں ہو سکتے: قرآن کریم اور میری سنت۔) معلوم ہوا کہ ہماری ہدایت و سعادت کے لیے یہی دو چیزیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ نبی دو جہاں کے قابلِ احترام شاگردانِ رشید و صاحبانِ جاں ثارنے اپنے ہر مسئلے کا حل ان ہی سے تلاش ہے۔

عہدِ نبوی میں صحابہ کا طریقہ کار

جب تک ذاتِ نبوت جلوہ افروز رہی صحابہؐ کرام بہ راہِ راست اس سے فیض حاصل کرتے رہے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

(۱) سأَلَ رجُلٌ النَّبِيَّ حَلَّى لِلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ أَشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَكَتْحُلُّ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ!^(۲)

(ایک آدمی نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ میری آنکھ میں درد ہے تو کیا میں روزہ کی حالت میں سرمه لگا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں!)

(۱) المشکاة: ۳۱

(۲) الترمذی: ۷۲۶

(۲) سئل حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الظهور ماء و الحل ميته. (۱)

(آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔)

(۳) سئل حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن موائلة الحائض فقال: وَاكْلُهَا. (۲)
 (آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے حائضہ عورت کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ کھاؤ۔)

معلوم ہوا کہ جب تک آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحابہ کے درمیان جلوہ افروز رہے، صحابہ آپ حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے علمی سمندر سے بلا واسطہ فیض حاصل کرتے تھے۔

عہدِ نبوی کے بعد صحابہ کا طریقہ کار لیکن آفتابِ نبوت کے غروب ہونے کے بعد خلافتِ راشدہ کے اوائل ہی میں صحابہ کو بے شمار مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ مثلاً: نو مسلموں کا حلقة بے گوشِ اسلام ہونا اور پھر عرب و جنم کے اختلاط و میل ملáp کے نتیجے میں نئے جزئی و فروعی مسائل، نیز ترقی و تمدن، تہذیب و معاشرت کے نت نئے اسلوب، ایران و روم، عراق و مصر، شام اور وہاں کی جدید اشیا، معاملات و کاروبار کے نئے تقاضے، نیز ارتداد و زندقة، قتل

(۱) أبو داود: ۳۱، الترمذی: ۲۹

(۲) الترمذی: ۱۳۳

وبغافت، قذف وسرقة کے خمیازے میں حدود و قصاص کے پیش آمدہ جدید طرز و اطوار وغیرہ اور بھی بہت سے نئے مسائل و جدید تقاضے پیش آگئے تھے۔

ہر پیش آور دہ مسئلے کا حل صحابہ اولاً قرآن سے تلاش کرتے تھے اور اس میں اگر نہ ملتا، تو سنت نبی اور افعال نبی میں ڈھونڈتے تھے، اس میں بھی نہ ملتا؛ تو اصحاب علم وہم اکٹھا ہوتے اور بحث و تجھیص، تحقیق و تدقیق کے بعد، قرآن و سنت میں موجودہ منصوص احکام پر نئے مسائل کا انطباق کرتے اور اس کے بعد اس کا حکم بیان کرتے۔ جیسے آپ ﷺ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمين کے منصب کے لیے تمام صحابہ کا اجماعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق ؓ کا انتخاب فرمانا، حضرت عمر ؓ کے زمانے خلافت میں بیس رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع کر لینا، حضرت عثمان ؓ کے دور خلافت میں جماعت کی اذان ثانی پر اتفاق کر لینا وغیرہ اس کی نظائریں ہیں۔

جس مسئلے کا حکم اس اجماع و اتفاق کے نتیجے میں مستنبط ہو، اس کو قانون اسلامی میں ”اجماعی مسئلہ“ اور اس اتفاق کو ”اجماع“ کہتے ہیں۔ اور جمیع فقهاء و محدثین اہل سنت والجماعت کے نزدیک ”اجماع“، بھی احکام شرعیہ کی مستقل دلیل ہے۔

”اجماع“ کی تعریف

فقہاء نے ”اجماع“ کی مختلف الفاظ و عبارات میں الگ الگ تعریفیں ذکر کی ہیں: مثلاً:

صاحب نور الانوار: شیخ احمد معروف ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وفي الشريعة اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد“

في عصر واحد على أمر قولي أو فعلي“^(۱)

(اجماع: اصطلاح شریعت میں امتِ محمدیہ کے نیک و صالح مجتهدین کا ایک زمانے میں کسی قولی یا فعلی مسئلے پر اتفاق کر لینے کا نام ہے۔)

أصول فقه کی مشہور کتاب: ”أصول الشاشی“ میں ہے:

”إجماع هذه الأمة بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم“

في فروع الدين.“^(۲)

(امتِ محمدیہ کا (یعنی امتِ محمدیہ کے اصحاب علم و فضل کا) بعد زمانہ نبوتِ دین کے فروعی مسائل میں اتفاق و اجماع کر لینا۔)

اور سب سے زیادہ جامع تعریف عبدالوہاب خلاف نے اپنی لا جواب کتاب:

”علم أصول الفقه“ میں فرمائی ہے۔

چنان چہ وہ فرماتے ہیں:

”الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين“

في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعی

في واقعة.“^(۳)

(”اجماع“ نام ہے امتِ محمدیہ میں سے اہل حل و عقد (علماء انہم) کا

بعد وفاتِ رسول کسی زمانے میں کسی واقعہ کے حکم پر اتفاق کرنے کا۔)

الغرض ان تمام مذکورہ تعریفات و تصریحات سے اتنا ثابت ہو گیا کہ کسی زمانے

میں کسی واقعہ و حادثے کے شرعی حکم پر اگر اس دور کے سارے فقهاء و اکابر علماء مجمع ہو

(۱) نور الأنوار: ۲۲۳

(۲) أصول الشاشي: ۷۸

(۳) علم أصول الفقه: ۲۲

جائیں، تو اس کو ”اجماع“ کہتے ہیں۔

”اجماع“ کی جھیت قرآن و حدیث سے

اجماع کے جھت و دلیل ہونے کی دلیل قرآن و حدیث میں بھی وارد ہے۔

قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلََّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ طَوَّسَاتُ مَصِيرًا﴾ (النساء: ١١٥)

(جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور جو اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا؛ تو ہم اس کو اس طرف لے جائیں گے؛ جدھروہ خود پھر گیا اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے۔)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”قال العلماء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾

دلیل على صحة القول بالإجماع.“ (۱)

(علامہ فرمایا کہ اس آیت میں اجماع کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔)

نیز حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

»لا تجتمع أمتی على ضلالٍ.« (۲)

(میری امت گم را ہی پر اتفاق و اجماع نہیں کر سکتی۔)

(۱) القرطبي: ۵/۷۳۸

(۲) الترمذی: ۲/۳۹، أبو داود: ۲/۵۸۲

اس حدیث سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع جلت و دلیل ہے؛ کیوں کہ اللہ کے نبی ﷺ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری امت کبھی گم را، ہی پر جمع نہیں ہو سکتی؛ لہذا اگر امت کسی بات پر اجماع کر لے تو وہ حق ہی پر ”اجماع“ ہو گا۔

غرض یہ کہ قرآن و حدیث ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دلیل و مأخذ ”اجماع امت“ بھی ہے، جس سے احکام کا علم ہوتا ہے۔

قياس کی تعریف

دوسرा طریقہ کار، جس کو حضرات صحابہؓ کرام اور فقهائے عظام رسول اللہ ﷺ کے دور سے لے کر آج تک برابر تمام فقہی احکام میں برتبے آرہے ہیں، وہ ”قياس“ ہے۔

”قياس“ اصولیین کی اصطلاح میں: ”ایک غیر منصوص مسئلے کا منصوص مسئلے پر بہ علت مشرکۃ انطباق کرنا پھر اس کا بھی وہی حکم ظاہر کرنا جو منصوص کا ہے۔ صاحب نور الانوار ”قياس“ کی تعریف میں فرماتے ہیں:

وفي الشرع: تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة. (۱)

(قياس شرعاً فرع کو اصل کے ساتھ حکم و علت میں الحاق کرنے کا نام ہے۔)

علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب: ”اعلام الموقعين“ میں قیاس کی تعریف یوں کی ہے:

”وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها.“ (۲)

(۱) نور الأنوار: ۲۲۸

(۲) إعلام الموقعين: ۱/۱۳۸

(قياس اصل وفرع کے مابین علت کی بنیاد پر تطبیق دینا ہے۔) اور سب سے جامع تعریف صاحب ”علم أصول الفقه“ نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں:

” هو إلْحاق واقعة لا نص على حكمها في الحكم
الذى ورد به النص ، لتساوي الواقعتين في علة هذا
الحكم.“ (۱)

(جس مسئلے کا قرآن و حدیث میں منصوص حکم نہ ہو، اس کو حکم کے اعتبار سے اس مسئلے سے ملا، جس کا حکم منصوص ہے؛ اس وجہ سے کہ دونوں مسئللوں اور واقعات کی علت ایک ہے، اس کو ”قياس“ کہتے ہیں۔)

قياس کی جیت قرآن و حدیث سے
اجماع کی طرح قیاس کی جیت بھی قرآن و حدیث ثابت ہوتی ہے، ایک جگہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولَئِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ۵۹)

(اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی فرمان برداری کرو اور ان لوگوں کی فرمان برداری کرو، جو تم میں سے ”اولو الامر“ ہیں، پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں جھگڑ نے لگو؛ تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی

طرف، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت خوب تر ہے۔)

اس آیت سے علمانے استنباط فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلہ متنازعہ کا حل قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے تلاش کرو؛ پھر جو حکم نکلے اسی کو اس متنازع مسئلے کا حل سمجھو۔ (۱)

اور حدیث سے اس کی دلیل حضرت معاذ بن جبل ﷺ کی حدیث ہے کہ جب ان کو رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے ”یمن“ کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو پوچھا کہ اگر تمھارے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو؛ تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ﷺ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ حضرت معاذ ﷺ نے عرض کیا کہ پھر سنت رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے، تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ ﷺ نے عرض کیا کہ پھر میں میری رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہ کروں گا، اس پر رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے حضرت معاذ ﷺ کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی، جس سے اس کا رسول راضی ہے۔ (۲)

ایک دوسری حدیث میں ہے:

(۱) ”ابوداؤد“ میں حضرت دیلم حمیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان

(۱) خلاصہ از علم اصول الفقه: ۵۳:

(۲) إعلام الموقعين: ۲۲/۱:

کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ ایک سر دعائے میں رہتے ہیں، جہاں مشقت اور دقت رسائی کام و کاج کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم لوگ وہاں گیہوں کا ایک مشروب تیار کر کے استعمال کرتے ہیں؛ تاکہ اس کے سہارے علاقے کی سردی اور اپنے کام و کاج پر قابو و طاقت پاسکیں؟ اس پر آپ ﷺ نے پوچھا کہ «هل یسکر؟» (کیا وہ نشد آور ہے؟ حضرت یلیم رض نے فرمایا کہ ہاں! آپ علیہ السلام نے فرمایا: پھر تو اس سے اجتناب کرو!۔^(۱)

اور عقولاً بھی یہ قیاس انتہائی ضروری ولا بدی ہے؛ کیوں کہ یہ بات اظہر من اشمس ہے کہ قرآن و حدیث میں تاقیامت پیدا ہونے والے ہر مسئلے کو صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے؛ اس لیے ایک ایسے طریقہ کا را ایسی راہ کی ضرورت درکار تھی، کہ جس پر چل کر یہ مشت خاکی ہر حال و ہر موڑ پر اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب و با مراد ہو جائے اور یہ واقعتاً و حقیقتاً صرف اسی راہ (قیاس) سے ہو سکتا ہے اور سوائے اس کے کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔

غرض یہ کہ جمہور علماء ائمہ کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں ”قیاسِ مجہد“ بھی ایک دلیل ہے، جس سے قرآن و حدیث میں پوشیدہ و مخفی حکم ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ قیاس کے ذریعے احکام بنائے و تراشے جاتے ہیں؛ اسی لیے علمائے اصول نے لکھا ہے کہ (القياس مُظہر لا مثبت) یعنی قیاس پوشیدہ احکام کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ نئے احکام ثابت کرتا ہے۔

یکل چار دلائل ہیں، جو جمہور علمائے امت کے نزدیک معمول بہاومعتبر ہیں اور ائمہ

(۱) أبو داود: ۵۱۸/۲

اربعہ: امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل حمّہم اللہ؛ بل کہ دیگر ائمہ مجتہدین سب کے سب ان چاروں دلیلوں کو مانتے ہیں، سوائے اہل الظاہر کے (جن میں آج کل کے اہل حدیث حضرات بھی داخل ہیں) اور بعض فرقوں کے کوئی اس کا منکر نہیں۔

”فقہ“ کیا ہے؟

”فقہ“ کا لفظ لغت میں ”جاننے“ اور ”سبھننے“ کے معنے میں آتا ہے، بعد میں اس کا استعمال زیادہ تر علم دین کے معنے میں ہونے لگا؛ کیوں کہ علم دین کو عام علوم پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز علمانے فرمایا کہ ”فقہ“ اصل میں فہم و سمجھ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کو دین میں ”فقہ“ عطا ہوئی یعنی دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ اصطلاح میں ”فقہ“ کہتے ہیں: مذکورہ چاروں دلائل کی روشنی میں ظاہری عبادات: جیسے نماز، روزہ، حج و زکاۃ، قربانی، نیز طہارت اور معاملات و معاشرات وغیرہ سے متعلق شرعی احکام کے جاننے کو۔

علامہ عبدالوہاب الخالف اپنی کتاب: ”علم اصول الفقه“ میں فقہ کی تعریف و حقیقت پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فقہ بنتا ہے ان شرعی احکام کے مجموعے سے جن کا تعلق انسان سے صادر ہونے والے اقوال و افعال سے ہوا اور وہ احکام یا تو قرآن و حدیث کی نصوص سے مستفاد ہوتے ہیں یا دیگر دلائل شرعیہ سے مستنبط ہوتے ہیں۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ فقہ دراصل قرآنی و حدیثی نصوص اور اجتماعی و قیاسی اصول

(۱) علم اصول الفقه: ۱۱

کی روشنی میں مرتب احکام کا مجموعہ ہے، قرآن سے نکلے ہوئے احکام بھی اس میں ہیں اور احادیث سے مستنبط احکام بھی اس میں ہیں، نیز اجتماعی مسائل بھی اس میں ہیں اور وہ احکام بھی اس میں ہیں، جو قیاس کے ذریعے مجتهدین نے اخذ و استنباط فرمائے ہیں۔

اس سے یہ بات بھی آشکارہ ہو گئی کہ فقہ درحقیقت قرآن و حدیث ہی کا شمرہ اور پھل ہے؛ کیوں کہ فقہ یا تو قرآن و حدیث کے احکام منصوصہ کا مجموعہ ہے یا اجتماعی و قیاسی احکام کا مجموعہ ہے؛ لہذا جب فقہ ان چار دلائل سے حاصل شدہ احکام کا مجموعہ ہے، تو وہ دراصل قرآن و حدیث ہی کا شمرہ و پھل اور خلاصہ ولبِ لباب ہے۔

الغرض فقہ کے بغیر امت مسلمہ کی زندگی کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، فقہ ملتِ اسلامیہ کا جزءِ لا تجزی ہے اور فقہ امت کی خصوصیات میں سے ہے، جو دوسری امتوں سے اس کو ممتاز کرتی ہے، فقہ امت کے لیے قابلِ فخرشی ہے، جو بھی فقہ کا انکار کرتا ہے، وہ انکار سفیہانہ یا جاہلانہ ہے، اس کا انکار کرنا سورج کے انکار کرنے کا برابر ہے۔

فقہ اسلامی کی تدوین

تاریخ پر نظر رکھنے والے حضرات یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پروان چڑھنے کے لیے وقت لگتا ہے، اسے مختلف ادوار اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، بہیک وقت کوئی بھی چیز ترقی نہیں کرتی، یہی حال فقہ اسلامی کا ہے کہ آپ ﷺ کا مبارک دور اس کے نشوونما کا ہے، صحابہ کا دور اس کی وسعت اور شباب کا ہے، صحابہ میں جو فقہی خدمات اور کثرت فتاویٰ میں مشہور ہیں، وہ یہ ہیں: (۱) حضرت عمر بن الخطاب (۲) حضرت علی بن ابی طالب (۳) حضرت عبداللہ بن مسعود

(۲) حضرت عائشہ صدیقہ (۵) حضرت زید بن ثابت (۶) حضرت عبد اللہ بن عباس (۷) حضرت عبد اللہ بن عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

ایک دور اس کی پختگی اور کمال کا ہے، جو اکابر تابعین و تبع تابعین کا ہے، اس دور میں قدرتِ الہیہ نے عظیم الشان و جلیل القدر فقہا و مجتہدین کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اپنے منابعِ فکر، اصولِ اجتہاد اور فقہی آراء کو مدون کیا اور اسی دور میں فقہِ اسلامی کو باضافہ فنِ قرار دیا گیا، جن فقہا و مجتہدین نے فقہ کی ارتقا و بلندی کو آسمان تک پہنچا دیا، جنہوں نے اس کو مرتب اور متفق کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور وہ محیر العقول کارنامہ انجام دیا، جو رہتی دنیا تک قابلِ ستائش بن گیا اور ان فقہاءِ عظام نے فقہ کو مرتب فرمائے اور مسلمہ کے ہر فرد پر احسان عظیم فرمایا، جو بھی ان کی خدمات کا انکار کرتا ہے؛ وہ احسان فراموش اور متعصب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فقہاء کرام کو جزائے خیر دے اور ان کی قبور کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔

یوں تو اس کارنامے کو انجام دینے والے بے شمار فقہاء کرام ہیں: جیسے حماد بن سلمہ، ابراہیم نجفی، ابن جریج، سفیان ثوری، اوزاعی، عبد اللہ بن مبارک رحمہم اللہ وغیرہم؛ مگر چار حضرات: امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سر رحمہم اللہ فہرست ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو بے پناہ مقبولیت اور شہرت عطا فرمائی۔ انھیں انہم کی طرف ان کی فقہ کو منسوب کرتے ہوئے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کہا جاتا ہے اور آج بھی امت کا جم غیر اور مجمع کثیر ان ہی چار انہم میں سے کسی ایک سے وابستہ تقلید ہے۔

مدونین فقہ اسلامی کا سہرا

فقہ اسلامی کو باضابطہ سب سے پہلے مدون و مرتب کرنے کا سہرا امام الائمه سراج الامۃ امام عظیم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے سر ہے، آپ ہی نے سب سے پہلے فقہ کی ترتیب و تبویب کی طرف توجہ فرمائی۔

چنانچہ ”مقدمة رد المحتار“ میں ہے:

”أبوحنیفة النعمان فإنه أول من دون الفقه ورتبه أبواباً.“ (۱)

(ابوحنیفہ ہی نے سب سے پہلے فقہ کو مدون اور مرتب کیا۔)

آپ نے نئے مسائل و حوادث کے حل کے لیے چالیس علماء پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، جو خصوصی صلاحیتوں کے مالک تھے، جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو اسے کمیٹی میں پیش کیا جاتا، اس پر اصول شرع کی روشنی میں ایک ایک مسئلے پر غور و خوض کیا جاتا، کبھی اس کی تحقیق میں مہینوں لگ جاتے، جب سارے ارکان ایک رائے پر اتفاق کر لیتے تو بعد ازاں اس کا آخری اور جتنی فیصلہ اس مجمع فقہی کے صدر نشین حضرت امام عظیم فرماتے، پھر اس مسئلے کو لکھ لیا جاتا۔ (۲)

امام ابوحنیفہ کا علمی مقام

ائمه اربعہ میں بھی امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند فرمایا اور خود ائمہ ثلاثہ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔

چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”لأنه المقدم زماناً وقدراً ومعرفة وعلماء، قال الشافعي:“

(۱) مقدمة رد المحتار: ۵۳/ا

(۲) خلاصہ از: فقہ اسلامی، اصول، خدمات اور تقاضے: ۲۰

الناس عيال أبي حنيفة في الفقه ، و قال الإمام مالك رَحْمَةُ اللَّهِ رأيت رجلاً لو كلمك في السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته.“^(۱)

(امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ بقیہ ائمہ پر بہ اعتبار زمانہ، علم، قدر و منزلت مقدم ہیں۔ امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ نے فرمایا: لوگ فقه میں امام ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ کے محتاج ہیں۔ امام مالک رَحْمَةُ اللَّهِ نے فرمایا: میں ایک ایسے آدمی (امام اعظم ابوحنیفہ) سے ملا ہوں کہ اگر وہ کسی ستون کے متعلق کہے کہ وہ سونے کا ہے، تو وہ اسے دلائل سے ثابت کر دے گا۔)

امام شمس الدین الذهبی رَحْمَةُ اللَّهِ نے ”تذكرة الحفاظ“ میں امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ کا بڑے بلند الفاظ میں تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھا ہے:

”كَانَ إِمَاماً وَرَعَا عَالَمًا عَامِلًا مُتَعَبِّدًا كَبِيرًا الشَّانِ.“^(۲)

حضرت تجی بن معین رَحْمَةُ اللَّهِ نے فرمایا:

”كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظه.“

(امام ابوحنیفہ ثقہ تھے، وہی حدیث بیان کرتے، جوان کو یاد ہوتی، جو یاد نہ ہوتی؛ اسے بیان نہ کرتے۔)

علماء نے امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ کی مدح سراتی میں ہزاروں صفحات لکھے ہیں، خود شوافعی حضرات نے آپ کی سیرت پر کئی کتابیں لکھیں ہیں، صرف آپ کے

(۱) المرقاة: ۱/۲۷

(۲) تذكرة: ۱/۱۶۸

مناقب پر لکھی گئی کتب کا شمار کیا جائے، تو بھی کافی لمبی فہرست ہو جائے گی۔

حدیث میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام

بعض لوگوں نے محض تعصُّب و عناد کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا علم نہیں تھا اور یہ کہ ان کو صرف سترہ حدیثیں یاد تھیں۔

مگر اہلِ انصاف جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض تعصُّب و عناد کی بنا پر ہے اور حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، آپ کی ثقاہت وعدالت اور حدیث دانی پر تو اتر کے ساتھ ہر زمانے و علاقے کے اساطین علم و فن نے گواہی دی ہے اور ان کی گواہیوں سے کتب اسماء الرجال بھری پڑی ہیں۔ جیسا کہ

(۱) امام یحییٰ بن معین: جو فنِ جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ (قابلِ اعتماد) تھے اور صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے، جو حفظ ہوتی اور جو حفظ نہ ہوتی؛ تو بیان نہ کرتے۔ (۱)

(۲) امام ابن معین، ہی نے ایک روایت میں فرمایا کہ ابوحنیفہ میں کوئی خرابی نہیں (لاباس بہ) اور ابن معین کی اصطلاح میں ”لاباس بہ“، ”تو شیق کے لیے استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ اس فن سے مناسبت رکھنے والے جانتے ہیں۔ (۲)

(۳) امام شعبہ نے فرمایا: ابوحنیفہ ”جید الحفظ“ (اچھے حافظے والے ہیں)۔ (۳)

(۴) امام بخاری کے شیخ امام یحییٰ بن آدم نے فرمایا:

(۱) تهذیب الکمال: ۲۹/۲۹، تهذیب التهذیب: ۱۰/۲۲۹، ۷۳۷

(۲) تدریب الراوی: ۱/۱۸۶، فتح المغیث: ۱/۳۹۶

(۳) مقدمة إعلاء السنن: ۱/۱۸۹

”ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہر“ کو فے“ کی ساری حدیثیں جمع کر لی تھیں اور انہوں نے اس میں غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کس بات پر تھے یعنی آخری سنت کیا تھی؟“ (۱)

(۵) ”مقدمة إعلاء السنن“ میں علامہ شیخ حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جھلکا، جو یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو حدیث کا علم نہیں تھا؛ دنداشکن جواب دیا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

بعض جاہل طعنہ دیتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نہیں جانتے تھے اور آپ کے مذہب کی بنیاد رائے اور قیاس پر ہے۔ اس بات کا ایک جواب اجمالی ہے اور ایک تفصیلی ہے۔

تفصیلی جواب سے پوری ”إعلاء السنن“ بھری پڑی ہے؛ اس لیے کہ ”إعلاء السنن“ کی تمام حدیثیں یا تو امام صاحب کے مسلک کی تائید میں لاٹی گئی ہیں یا جاہلوں کے طعن کا جواب دینے کے لیے لاٹی گئی ہیں۔

اجمالی جواب یہ ہے کہ فقہہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کی تائید میں کوئی حدیث نہ ہو؛ تو پھر کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ امام صاحب حدیث نہیں جانتے تھے۔ یہ صریح مشاہدے کا انکار ہے؛ اس لیے کہ اگر امام صاحب حدیث نہیں جانتے تھے؛ تو پھر آپ کا مذہب ان احادیث کے موافق کیسے ہو گیا؟ (یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کے پاس احادیث کے علم کا ایک عظیم ذخیرہ تھا، جس میں سے آپ نے فقہہ کو مستبط فرمایا ہے) پھر اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ آپ کو احادیث کا علم نہیں تھا، اس کے باوجود آپ کے تمام فقہی مسائل حدیث کے موافق ہیں، تو یہ امام صاحب کی الیسی منقبت

(۱) مناقب امام اعظم: ۲۶

عظیمہ ہے، جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ کی رائے بعض مسائل میں وحی کے موافق ہو گئی، یہ حضرت عمرؓ کے لیے منقبت جلیلہ ہے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، اس ذات کے بارے میں جس کی رائے ہزاروں مسائل میں وحی کے موافق ہو گئی؟ کیا آپ کوامت میں ایسی نظیر ملے گی؟ الغرض یہ طعنہ کذب و افتراء کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔^(۱)

رہی یہ بات کہ آپ سے احادیث کی روایت کم ہوئی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث کا جاننا الگ بات ہے اور روایت کرنا دوسرا چیز ہے: ایک محدث حدیث جاننے کے باوجود روایت کرنے میں کمی کر سکتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رض اور حضرت عمر رض کو نبی کریم ﷺ کا قرب و مصاحبہ سب سے زیادہ حاصل تھی اور تمام صحابہ میں علم و عمل کے لحاظ سے یہ حضرات سب سے فویت رکھتے تھے؛ مگر اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق سے صرف ایک سو بیالیس احادیث اور حضرت عمر سے کل پانچ سو انچالیس احادیث مروی ہیں اور ان کے مقابلے میں بعض اور صحابہ: جیسے حضرت ابو ہریرہ سے پانچ ہزار تین سو چونسٹھا احادیث مروی ہیں؛ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رض و عمر رض کو دیگر ذمے دار یوں کی وجہ سے اس کے لیے فرست نہ ملی، کہ وہ احادیث روایت کریں یا یہ کہ وہ روایت کرنے میں احتیاط بر تھے، یہی حال امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ ان کے یہاں حدیث کی روایت کے لیے سخت شرائط تھیں، تو احتیاطاً و کم روایت کرتے تھے اور یہ دراصل خوبی و مکمال ہے؛ نہ کعیب و نقص۔

(۱) مقدمة إعلاء السنن: ۲/۲

وليس يصح في الأذهان شيء ☆ إذا احتاج النهار إلى دليل فقه حنفي اور اس کی خدمات

اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی طرح آپ کی فقہ کو بھی جو فضیلت اور مقبولیت اور شہرت عطا کی ہے، وہ کسی پر مخفی نہیں، ملت اسلامیہ کی اکثریت آج فقہ حنفی پر ہی گامزن ہے۔ چنان چہ ملاعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”عمتُ الْخَلْقَ شَرْقاً وَغَربَاً سِيمَا فِي وَرَاءِ النَّهَرِ وَوَلَيْةً
الْهَنْدِ وَالرُّومِ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ إِمَاماً غَيْرَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَذَهِبًا
سُوْى مَذَهِبِهِ وَبِالْجَمْلَةِ فَأَتَابَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ اتَّبَاعِ جَمِيعِ
الْأَئْمَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ اتَّبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْثَرُ مِنْ اتَّبَاعِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ.“ (۱)

(مشرق اور مغرب میں احناف زیادہ ہیں، خاص طور پر ”ما وراء النہر“، ”ہندوستان“ اور ”روم“ میں؛ کیوں کہ وہاں کے لوگ امام صاحب کے علاوہ کسی اور امام کو نہیں جانتے اور نہ ہی آپ کے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو جانتے ہیں، مجموعی طور پر آپ کے مذہب کے پیروکار امت کے دوسرے ائمہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں، جیسا کہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے امتی دیگر انبیا کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔)

اسی طرح فقہ حنفی کی خدمات بھی علمانے و افرطور پر انجام دی ہیں، خود امام صاحب نے تو فقہ حنفی پر کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی، سوائے چند رسائل کے، چنان چہ ”مقدمة رد المحتار“ میں ہے:

(۱) المرقاۃ: ۲۶

”لم يولف أبو حنيفة كتاباً إلا رسائل صغيرة نسبت إليه
كرسالته المسمىة ”الفقه الأكبر“، و كرسالته ”العالم
والمتعلم“ ورسالته في الرد على القدرية.“ (۱)

(امام ابوحنیفہ نے کوئی کتاب تالیف نہیں فرمائی، سوائے چند رسائل
کے جو آپ کی طرف منسوب ہیں، جیسے آپ کا رسالت ”الفقه الأكبر“
اور ”العالم والمتعلم“ اور ”قدرتیه“ کے رد میں ایک رسالہ ہے۔)
لیکن یہ رسائل بھی ”علم کلام“ میں ہیں، ”فقہ“ میں نہیں؛ البتہ آپ کے نامور تلامذہ
میں سے دو تلامذہ مشہور و معروف ہیں، جنہوں نے قابلِ قدر تصنیفات فرمائی ہیں:
(۱) یعقوب بن ابراہیم بن حبیب الانصاری، جن کی کنیت ”ابو یوسف“ ہے۔
(۲) امام محمد بن الحسن الشیعیانی۔

ان دو میں بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف زیادہ اور قیمتی ہیں، امام ابو یوسف
رحمۃ اللہ علیہ کی ”كتاب الآثار“ اور ”كتاب الخراج“ وغیرہ ہیں۔ امام محمد
رحمۃ اللہ علیہ کی چھ کتابیں مشہور ہیں، جو فقه میں متن اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں:
(۱) مبسوط (۲) زیادات (۳) الجامع الصغير (۴) الجامع الکبیر (۵) السیر
الصغری (۶) السیر الکبیر۔ ان چھ کتابوں کو ”كتب ظاهر الرواية“ کہا جاتا ہے۔

ان ہی کو سامنے رکھ کر بعد کے علمانے مزید چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں قابل
دید تصنیف فرمائی، جن میں بعض متون کی حیثیت رکھتی ہیں، بعض شروح کی:
متون میں یہ کتابیں مشہور ہیں: مختصر القدوری، کنز الدقاائق، وقاریہ، نقایہ، مجمع
البحرين، تنوری الابصار۔

(۱) مقدمة رد المحتار: ۱/۳۸

اور شروح میں یہ کتابیں معروف ہیں: درِ مختار، الْبَحْرُ الرَّاَقُ، بَدَائِعُ الصَّنَاعَ، ہدایہ، شرح نقاہی، شرح وقاریہ، بنایہ، عنایہ، و دیگر شروحات ہیں۔

فقہ کے علاوہ اصول فقه میں بھی علماء کی لا جواب تصنیفات ہیں۔ مثلاً: اصول المکرخی، اصول البرز دوی، منار الانوار، اصول الشاشی، منتخب الحسامی، نور الانوار، مسلم الثبوت، إحکام الاحکام اور تسهیل الوصول إلى معرفة الأصول وغيرها۔

اس طریقے سے ہٹ کر علماء کے مابین ایک اور طریقہ تھا، وہ یہ کہ ایک مسئلے سے متعلق اس کے تمام اصول و کلیات اور جمیع اجزاء متنوّعہ کو منقح و مشرح انداز میں ایک ہی جگہ جمع کر دیا کرتے تھے، جس سے سائل و طالب کو اس رسالے ہی سے اس مسئلے کے اکثریات جمع باقی اس کے علم میں آ جاتیں۔

اس طرح مرتب کردہ نسخہ کو پہلے ”کتاب“ کہا جاتا تھا، بعد کے ادوار میں ”مقالہ“ یا ”مضمون“ کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ فقہائے احناف نے بھی ایسی تصنیف فرمائی ہیں۔ مثلاً: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ”کتاب الخراج“، محمد بن شجاع عکی کی ”کتاب المضاربة“ اور ”کتاب المناسک“؛ امام خصاف کی ”کتاب الحلیل“، کتاب الوصایا، کتاب الرضاع، کتاب النفقات علی الاقارب“، علامہ ابن عابدین شامی کے رسائل و مقالات وغیرہ وغیرہ۔

الغرض ان کے علاوہ بھی بے حساب و بے انتہا کتابیں فقہ حنفی پر لکھی گئیں ہیں، جن کو شمار کیا جائے؛ تو ایک سخیم کتاب بن جائے اور فقہ حنفی کے علاوہ کسی اور مسلک پر اس قدر تصنیفات نہیں ہیں۔

علمائے ہند کی فقہی خدمات

فقہ حنفی کی خدمات میں جس طرح دنیا بھر کے علماء نے حصہ لیا ہے، وہیں

ہندوستانی علمانے بھی فقہ حنفی کی شان دار خدمت انجام دی ہے اور آج بھی انجام دے رہے ہیں۔ ہندوستان کی فقہی خدمات میں سب سے اہم کردار ہندوستان کے دینی مدارس کا بالخصوص ”دارالعلوم دیوبند“ کا ہے؛ کیوں کہ ان مدارس میں فقہ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور فقہ کی بہت ساری کتابیں مدارس میں داخل نصاب ہیں، جن کو ماہرین اساتذہ کرام درس آدراستا پڑھاتے ہیں، اسی طرح مدارس میں موجود ”شعبہ دارالافتاء“، بھی فقہ حنفی کی خدمت کا اہم ذریعہ ہے، جہاں ایک ایک قدیم وجد یہ مسئلہ پر کئی کئی مفتیان اپنی علمی صلاحیتوں کو بے روئے کارلا کر مسئلہ کا حل نکالتے ہیں اور پوری امانت داری کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، ان فتاویٰ کی وجہ سے کئی ضخیم کتب فتاویٰ مرتب ہوئے، جیسے: ”فتاویٰ دارالعلوم دیوبند“، ”فتاویٰ محمودیہ“، ”فتاویٰ عزیزیہ“، ”احسن الفتاویٰ“، ”امداد الفتاویٰ“ اور ”نظام الفتاویٰ“، وغیرہ۔

ان ہی مدارس کے پروردہ فقہائے ہند نے بھی فقہ حنفی کی خدمات میں کافی حصہ لیا۔
 ☆ علامہ عبدالحی صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجموعۃ الفتاویٰ“ اور ”السعایہ حاشیۃ شرح الوقایۃ“، ”حاشیۃ ہدایۃ“ اور ”نفع المفتی والسائل“، جیسے اہم کارنامے انجام دیئے۔

☆ اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقہ اور دیگر علوم میں بصیرت کاملہ عطا فرمائی تھی، آپ اپنے وقت کے مرجع العوم والخواص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی فقہ حنفی کی بڑی خدمات لیں، ”فتاویٰ رشیدیہ“، آپ کے تحقیقی فتاویٰ کا گراں قدر مجموعہ ہے، قاسم العلوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ”ابوحنیفہ عصر“ کہتے تھے اور محدث عصر علامہ اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ”فقیہ النفس“ اور علامہ شامی سے بڑا منتہ تھے۔

☆ اکابر دیوبند کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ عجیب و غریب قوتِ حافظہ کے مالک تھے۔ ”معارف السنن“ اور ”العرف الشذی“، آپ ہی کا حدیثی و فقہی کار نامہ ہے، الغرض آپ اس شعر کے مصدقہ تھے:
 ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے
 بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہن میں دیدہ و رپیدا

☆ حکیم الامت: حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی فقہی خدمات سے کون ناواقف ہے، آپ نے دینی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، تقریباً ایک ہزار آپ کی تصنیفات ہیں، فقه و فتاویٰ آپ کا خاص موضوع تھا، آپ نے فقہ پر بے شمار چھوٹے بڑے لا جواب رسائل لکھے، ”امداد الفتاویٰ“، ”الحکیمة الناجزة“، ”بہشتی زیور“، جیسی اہم کتابیں تصنیف فرمائیں۔
 اور فقہ حنفی پر آپ کی عظیم الشان خدمتوں میں ”اعلاء السنن“ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آپ کی ماتحتی میں آپ کے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی، جس کی تصنیف میں بیس سال کا طویل عرصہ لگا۔ یہ ایسی خدمت ہے کہ پورے عالم میں اس کی نظر نہیں ملتی اور اس کی تصنیف نے یہ ثابت کر دیا کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جو قرآن و سنت سے ماخوذ نہ ہو۔ آپ نے ہر حنفی مسئلے کو مدل فرمایا کہ فقہ حنفی کی لا جواب خدمت انجام دی۔

چنانچہ ”اعلاء السنن“ پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ شیخ الاسلام زاہد الکوثری فرماتے ہیں: ”حق یہ ہے میں ”اعلاء السنن“ کی ترتیب اور جامعیت اور احادیث کے متن و سند کی شان دار تشریح اور انصاف پسندی کو دیکھ کر مدد ہوش ہو گیا۔“ (۱)

(۱) مقدمة إعلاء السنن: ۱/۱۲

”مقدمہ اعلاء السنن“ میں خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”قد ظهر بالخانقاہ الإمدادیہ عمل عظیم لم يوجد نظیره في أکبر مراكز العلم الدينية بالهند و هو جمع الأحادیث المؤیدة للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمۃ اللہ علیہ“
 (خانقاہ امدادیہ سے ایک ایسا عظیم عمل ہوا ہے، جس کی نظیر ہندوستان کے علمی مراکز میں نہیں ملتی (اور وہ عمل) امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو احادیث سے مدلل کرنا ہے۔)

ایک اور جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”لو لم يكن بالخانقاہ الإمدادیہ إلا تأليف ”اعلاء السنن“ لکفی به كرامۃ و فضلاً ، فإنه عدیم النظیر في بابه“
 (خانقاہ امدادیہ سے ”اعلاء السنن“ کے علاوہ اور کوئی تالیف نہ ہوتی؛ تو یہی اس کے شرف و کرامت کے لیے کافی تھا؛ کیوں کہ یہ اپنے باب میں عدیم النظیر ہے۔)

واقعتاً یہ خدمت عدیم النظیر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اور آپ کے معاونین کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

☆ صاحب ”تفسیر معارف القرآن“: حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، آپ نے فقہ کی دنیا میں جو کام کیا ہے، وہ محتاج تعارف نہیں، فقہ میں آپ کی پچانوے (۹۵) تصنیفات ہیں: ”جو اہر الفقہ“ آپ کی نہایت اہم تصنیف ہے، جس میں آپ نے اپنے وقت میں پیدا ہونے والے جدید مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے: ”مسئلہ رویت ہلال، اعضائے انسانی کی پیوند کاری،

عشر و خراج کے احکام، سمت قبلہ، انشورنس، جیسے اہم اہم موضوعات پر آپ نے تحقیقی کلام کیا ہے۔

☆ مفتی اعظم: حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہندوستان کے علمی و قارو عظمت کا نشان تھے، آپ ایک فقیر و مفتی بھی تھے اور ملتِ اسلامیہ کی علمی، دینی، سیاسی اور سماجی تحریکات کی سرگرم شخصیت بھی۔ نصف صدی سے زائد آپ نے فقہ و فتاویٰ کی خدمت انجام دی۔ آپ کی علمی و فقہی خدمات کا ایک مرقع ”کفایت المفتی“ ہے، جو نو تین جلدیں پر مشتمل ہے۔

☆ اکابر دیوبند میں سے ایک اہم شخصیت مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کے عظیم مفتیوں میں ہوتا ہے، ”عزیز الفتاویٰ“ کی دو جلدیں اور ”فتاویٰ دارالعلوم دیوبند“ کی بارہ عظیم الشان جلدیں دراصل آپ ہی کی فقہی خدمت کا شاہ کار اور جیتی جائی تصویر ہے۔

☆ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ بلند پایہ محدث و فقیر تھے، آپ کے علمی و فقہی جواہر پاروں کا مجموعہ ”فتاویٰ مظاہر علوم سہارنپور“ ہے؛ نیز ”بذل المجهود“، جیسی وقیع اور فاضلانہ تصنیف آپ ہی کی ہے۔

☆ اکابر دیوبند میں مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فقہ و فتاویٰ میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی، ”فتاویٰ محمودیہ“ آپ ہی کے فتاویٰ ہیں، آپ نے بھی فقہ حنفی کی بے لوث خدمت کی ہے، جس کی وجہ سے امت نے آپ کو ”فقیر الامت“ کا لقب دیا۔

☆ ہندوستان کے عظیم فقہاء میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی ”مظاہر علوم (وقف) سہارنپور“

میں فقہ و فتاوی اور دین کی خدمت میں لگادی، آپ سہارنپور کے بڑے مفتی مانے جاتے تھے؛ اسی لیے آپ کو ”فقیہ الاسلام“ کے لقب سے نوازا گیا۔

☆ عصر حاضر کی ایک اور شخصیت ہے، جن کے تذکرے کے بغیر یہ عنوان ناقص رہے گا، وہ شخصیت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کی فقہی بصیرت اور علمی گیرائی و گہرائی سے کون نا آشنا ہے، آپ کی فقہی خدمات کا دائرة وسیع تر ہے، جدید مسائل پر آپ کی تصنیفات میں ”اسلامی عدالت“ اور ”چند اہم فقہی مسائل بدلتے ہوئے حالات میں“، وغیرہ ہیں، جو آپ کی فقہی بصیرت کی غمازی کرتی ہیں؛ لیکن اس کے علاوہ آپ کا بہت بڑا اور تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے جدید مسائل کے حل کے لیے ۱۹۸۹ء میں ”اسلامک فقه اکیڈمی“ کے نام سے علام کی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس اکیڈمی کے ذریعے فقہی سیمیناروں کا انعقاد کیا، جس میں ایک ایک جدید مسئلے کو موضوع بنایا جاتا ہے اور ہندوستان کے ممتاز اہل قلم و اہل علم سے اس مسئلے پر مقالہ لکھایا جاتا ہے، پھر متفقہ طور پر کسی ایک نتیجے تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ الحمد للہ ”اسلامک فقه اکیڈمی“ برابر اس سلسلے میں دن بہ دن ترقی کر رہی ہے اور اب تک اس اکیڈمی نے اٹھارہ کامیاب سیمینار (۱) منعقد کیے ہیں، جس کی تفصیلات سہ ماہی مجلہ ”بحث و نظر“ میں برابر شائع کی جاتی ہیں، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم اور قابلِ ستائش کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔

☆ عصر حاضر کے علماء میں حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب قاسمی زید مجدد (مفتي مدرسہ شاہی مراد آباد) ہیں، آپ نے بھی جدید مسائل کی تحقیق کے سلسلے میں قیمتی

(۱) یہ تعداد تحریر مقدمہ کے وقت تھی، بعد میں بھی ماشاء اللہ کئی سیمینار منعقد ہوئے اور ہنوز یہ مبارک و کامیاب سلسلہ جاری و ساری ہے۔ (ناشر)

كتابیں لکھی ہیں، جیسے: ”انوار رحمت“، ”الپیشاح المسائل“، ”الپیشاح النوادر“، ”انوار مناسک“۔ وغیرہ^(۱)

☆ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب زید مجدد: فقہ و فتاوی موصوف کا خاص موضوع ہے، آپ نے کئی جلدیوں پر مشتمل جدید فقہی مقالات لکھے ہیں، جن میں ”پوسٹ مارٹم، بینٹ کا استعمال، درخت پر لگے ہوئے پھلوں کی خرید و فروخت“، وغیرہ اہم مضامین سپر دفتر طاس کیے ہیں۔^(۲)

کچھ ”نفاس الفقه“ کے بارے میں

ان ہی جلیل القدر و عظیم المرتبت ہندوستانی علماء میں علم و فقہ، عقل و فراست کے مالک ہمارے معلم و مرتب اور استاذ و مرشد حضرت اقدس مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم (بانی و مہتمم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مسح العلوم، بنگلور) بھی ہیں، جن کے گوہر باروپر بہار تحقیقی قلم نے مختلف ضرورتوں کے تقاضوں پر انتہائی قبل قدر ولائق ستائش تحریرات پیش کیے ہیں، جو طبع ہو کر عوام و خواص میں بے انتہا مقبولیت پا چکے ہیں، ان ہی تحریرات کی ایک کڑی ”نفاس الفقه“ ہے، جو آپ کے تحریر کردہ علمی و فقہی مباحث کا عظیم الشان مجموعہ ہے، جس کی اب تک پانچ حصیم جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں، جن میں اکٹھے^(۱) علمی و فقہی مضامین ہیں، جن کی ہر سطر دلائل سے مدلل اور ہر مضمون حوالوں سے محول، جن میں ایک طرف محمد ثانہ و فقیہانہ بحثیں ہیں؛ تو دوسری طرف عام فہم بھی ہے، دراصل یہ مقالات معاشرے

(۱) ابھی قریب میں مفتی صاحب موصوف کا مجموعہ فتاوی: ”فتاویٰ قاسمیہ“، منظر عام پر آچکا ہے، جس میں عصر حاضر کے کئی مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ (ناشر)

(۲) آں موصوف کا بھی ایک مجموعہ فتاوی ”کتاب الفتاوی“ کے نام سے دس جلدیوں میں طبع ہو چکا ہے۔ (ناشر)

میں پیدا ہونے والے مختلف نئے مسائل و حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف اوقات میں سپرد قرطاس کیے گئے ہیں۔ جن کی کچھ تفصیل یہ ہے:

(۱) اس علمی مجموعے میں ”ردِ قادر یانیت“ پر اہم مضامین ہیں، جس کو دراصل حضرت اقدس نے اُس وقت تحریر فرمایا تھا، جب کہ قادر یانی فرقہ چند سال قبل شہر ”بنگور“ اور اس کے اطراف میں اپنے ناپاک عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔

حضرت اقدس نے دلائل کی روشنی میں ان کا تعاقب فرمایا، وہ تحریرات اُس وقت اخبارات میں بھی شائع کیے گئے، حتیٰ کہ قادر یانیوں نے حضرت اقدس کو مبارہ ہے کی بھی دعوت دی، جسے آپ نے قبول فرمایا تھا؛ مگر قادر یانی لوگ میدان مبارہ ہے میں قدم رکھنے کی ہمت نہ کر سکے، یہی نہیں؛ بل کہ قادر یانی فرقہ حضرت اقدس کے علمی جوابات کی تاب نہ لاسکا، آخر کار لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوٹنکے کے لیے حضرت اقدس کے جوابات دینے کی ناکام کوشش کی اور ایک رسالہ بنام ”مولوی شعیب اللہ مفتاحی“ کے جھوٹے الزامات“ لکھا، رسالہ کیا تھا؟ سوائے جھوٹی بکواس کے اُس میں کچھ بھی نہ تھا۔

الغرض یہ ساری تفصیلات حضرت نے ” قادر یانیت: ایک جھوٹ، ایک فریب“ میں جمع فرمادی ہیں، جو اس مجموعے کا ایک حصہ ہے اور الگ بھی شائع کیا جا چکا ہے۔ (۲) اس فقہی مجموعے میں ایک فقہی رسالہ بنام ”عورت کی نماز“ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، جو دراصل غیر مقلدین کے رد میں سپرد قرطاس کیا گیا تھا؛ کیوں کہ غیر مقلدین کے نزدیک مرد و عورت کی نماز کا طریقہ مختلف نہیں ہے، غیر مقلدوں نے تمام ائمہ و علماء کے مسلک سے ہٹ کر من گھڑت طور پر یہ نظریہ اپنایا ہے۔

حضرت اقدس نے احادیث، آثار صحابہ، اجماع امت اور مسالک اربعہ کی

روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا طریقہ مختلف ہے؛ یکساں نہیں، نیز یہ رسالہ آج سے چودہ سال پہلے لکھا گیا تھا؛ مگر اب شائع کیا گیا۔ حضرت اقدس کا اس کے علاوہ بھی رِغیر مقلدیت پر ایک رسالہ ”فقہ اسلامی اور غیر مقلدین“ موجود ہے، جو نہایت جامع مدلل اور عام فہم ہے۔

(۳) چند سال قبل ”یو-پی“ کے ایک گاؤں ”منظرنگر“ میں ایک بہو کے ساتھ اُس کے سر نے ناجائز اور فحش حرکت کی، جس حرکت نے ساری انسانیت بالخصوص مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اس کے متعلق ”دارالعلوم دیوبند“ سے فتویٰ طلب کیا گیا، تو ”دارالعلوم دیوبند“ کے مفتیانِ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بنی برحق یہ جواب دیا کہ اب وہ عورت اُس کے شوہر پر بھی حرام ہے اور سر پر بھی، جب یہ فتویٰ دیا گیا، تو میدیا نے اس حکم شرعی کو ظلم قرار دیا اور اس مسئلے کو سارے عالم میں پھیلا کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی، اس نازیبا حرکت میں غیروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کچھ مسلمان بھی شریک ہو کر مدارس اور مفتیانِ کرام کا اور شرعی مسئلے کا مذاق اڑانے لگے۔ اس میں جدید تعلیم یافتہ جاہل طبقہ، جو اپنے آپ کو روشن ضمیر سمجھنے کی غلط فہمی میں بتتا ہے، آگے آگے کھڑا۔ بیکور میں بھی اُس وقت یہ موضوع اخبارات کا اہم موضوع بنا تھا۔

اُس وقت حضرت اقدس نے ایک مقالہ ”عمرانہ کا واقعہ اور دارالعلوم کا فتویٰ“ لکھا، جس میں اولاً قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روشنی میں اُس فتویٰ کی تائید فرمائی اور اُس مسئلے کی مزید مدلل و مفصل وضاحت فرمائی۔ ثانیاً اس مسئلے کے صحیح ہونے پر عقلی، نقلی اور حسی دلائل اور مثالوں سے جاہلوں کی بولی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ چنانچہ آپ کے مضمون کے اخبارات میں شائع ہونے کے بعد کسی اور کامضمون اس فتویٰ کے رد میں نہیں آیا اور بعض حضرات نے اس مضمون کو اپنی ویب سائٹ پر بھی

شائع کیا۔ یہ سارا تفصیلی مقالہ بھی اس مجموعہ کا جز ہے۔

(۴) چند سال قبل ”بنگلور“ اور اس کے اطراف کے بعض مساجد میں ”جماعت تہجد“ کی بدعت کا رواج عام ہو چکا تھا، تو حضرت اقدس نے حضرات علماء و فقہاء کے فتاویٰ کو اور ساتھ ہی ان کے دلائل کو وضاحت سے لکھ کر ایک رسالہ ”جماعت تہجد کا شرعی حکم“، شائع فرمایا اور اس سلسلے میں کچھ پھلٹ بھی شائع فرمائے۔ آپ نے احراق حق کا فریضہ انجام دیا اور لوگوں کو اس بدعت سے آگاہ فرمایا، تو بعض جاہلوں نے اس کی مخالفت بھی کی؛ مگر حق کو تو غالب آنا ہی تھا؛ الہذا حق کا غلبہ ہوا اور الحمد للہ شہر سے اس بدعت کا خاتمه ہوا۔ اس فقہی رسالہ کو بھی ”نفائس الفقه“ میں شامل کیا گیا ہے۔

(۵) ان مقالات میں ایک مضمون ”مسلم پر سنل پر اعتراضات کا علمی جائزہ“ موجود ہے، جو دراصل ۱۹۹۵ء میں اس وقت لکھا گیا تھا، جب کہ ایک جدید تعلیم یافتہ ”پروفیسر ایم بشیر حسین“ نے مسلم پر سنل لا پر جاہلانہ اعتراضات کیے تھے، حضرت اقدس نے دلائلِ نقلیہ اور عقلیہ سے ان کا تعاقب فرمایا اور ان کو حق کے سامنے گھٹنے ٹکنے پر مجبور کر دیا، ان مضامین کے شائع ہونے کے بعد خود پروفیسر صاحب نے لکھا کہ میں کئی سال سے لکھتا آرہا ہوں؛ مگر آج تک کسی نے میرے اعتراضات کا جواب نہیں دیا تھا، یہ پہلا موقعہ ہے کہ کسی ”مولانا“ نے میرا جواب دیا ہے۔ الغرض اس کے بعد پروفیسر صاحب نے لکھنا ہی بند کر دیا تھا۔

(۶) اس کے علاوہ بیشتر جدید فقہی مقالات اس مجموعے میں وہ ہیں، جو ”اسلامک فقہ اکیڈمی“ کے مطابق پر لکھے گئے ہیں، جیسے ”کیا عورت بغیر محروم ج کر سکتی ہے؟ مکہ و منی کیا ایک شہر ہے یا مختلف؟ مسافت سفر کا مبدأ کیا ہے، وطن کی اقسام اور ان کی تعریف و احکام“، وغیرہ۔

(۷) اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے آپ سے کسی مسئلے سے متعلق سوال کر لیا، تو آپ نے اس وقت سرسری جواب دے دیا؛ مگر بعد میں ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے اس مسئلے پر تفصیلی کلام کیا، جیسے ”حدیث ذباب ایک مطالعہ“ وغیرہ۔

الغرض ان کے علاوہ بھی بے شمار قیمتی مقامے اس میں موجود ہیں، جو قابل دید ہیں اور ملت اسلامیہ کی دینی ضرورت ہیں، نیز یہ مقالات میں پچیس سال سے حسب تقاضہ و ضرورت لکھے جا رہے تھے، جو وقتاً فو قتاً اخبارات میں بھی شائع کیے جاتے رہے، شہر ”بنگلور“ کے اخبارات ”روزنامہ سالار اور پاسبان“ والوں نے بالخصوص روز نامہ سالار کے ایڈٹر: جناب مقصود علی خان صاحب نے احراقِ حق کے فریضے کی انجام دہی میں حضرت اقدس کا بھرپور ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مقصود علی خان صاحب کے درجات بلند فرمائے۔

ان تمام مقالات کو حضرت اقدس نے محفوظ رکھا تھا، لیکن طبع نہیں ہوئے تھے، ان کی طباعت حضرت اقدس کی دیرینہ آرزو تھی، جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب پورا کیا جا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان مقالات کو قبول فرمائے اور اُمّت کے عوام و خواص کو استفادہ کی تو فیق عطا فرمائے اور حضرت اقدس کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

فقط

محمد زبیر احمد -- محمد یاسین خان

(خادمین: جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور)

۲ / ربیع الآخر ۱۴۳۵ھ

جانٹ اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری
صورتیں اور احکام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جانشٹ اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری صورتیں اور احکام

شیئر ز (حصہ) کے ذریعے کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے متعلق شرعی و فقہی طور پر جو سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا حل علمائے اسلام کی اہم ذمے داری ہے، جس طرح دنیا میں رواج پانے والے دیگر نظاموں اور طریقوں اور نئے انسافات اور جدید آلات کے متعلق ابھرنے والے سوالات کے جوابات اور حل ان کی ذمے داری ہے۔

یہاں ہم جانشٹ اسٹاک کمپنی (Joint Stock Company) سے متعلق اہم سوالات کا شرعی و فقہی حل و جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔

شیئر ز کے ذریعے سرمایہ کاری کی شرعی حقیقت سب سے پہلے اس سوال پر غور کرنا چاہیے، کہ جب ایک شخص شیئر (Share) کے ذریعے کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرتا ہے، تو اس معاملے کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ اور عقول شرعیہ میں یہ کونسا عقد ہے؟

کمپنی میں سرمایہ کاری کی دو صورتیں
اس کے جواب سے قبل یہ سمجھ لینا چاہیے، کہ کسی کمپنی میں شیئر ز کے ذریعے

سرمایہ کاری کی دو صورتیں ہیں:

ایک یہ کہ کمپنی ابھی وجود میں نہیں آئی؛ بل کہ اس کے وجود میں لانے کے لیے اشتہار دیا گیا ہوا اور اس کے شیئر حاصل کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہوا اور جب چند افراد حصہ لے کر اپنا روپیہ اس میں لگائیں گے، تو وہ کمپنی وجود میں آئے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے سے ایک کمپنی موجود ہے اور اس کے مقررہ حصہ دار (Share holders) ہیں اور اس کمپنی میں شیئر حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے سے اس کے جو حصہ دار ہیں، ان میں سے کسی سے اس کا حصہ خرید لے اور وہ شخص اپنے حصے سے اس کے حق میں دست بردار ہو جائے۔

پہلی صورت کا حکم

پہلی صورت میں سرمایہ کاری درحقیقت شرکت کا معاملہ ہے؛ کیوں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دو چار آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں اور آپس میں نفع تقسیم کر لیتے ہیں، یہاں بھی ابتداءً چند آدمی اپنا سرمایہ لگا کر کمپنی کو وجود میں لاتے ہیں اور اس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں اور پھر نفع تقسیم کر لیتے ہیں؛ اس لیے یہ عقود شرعیہ میں سے عقدِ شرکت کے تحت داخل ہے۔

لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ ہے، کہ فقہاء کے نزدیک شرکت کی متعدد اقسام ہیں، جن کا ذکر کتب فقہ میں بالتفصیل موجود ہے، تو یہ شرکت کی کونسی قسم ہے؟

”شیئر“، شرکت کی کونسی قسم ہے؟

فقہاءِ حنفیہ کے نزدیک عقد شرکت کی اولاً دو قسمیں ہیں: شرکتِ ملک اور شرکتِ عقد۔

(۱) شرکتِ ملک یہ ہے کہ دو یا زیادہ اشخاص اختیار آیا اضطرار آکسی سامان کے

جائز اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری
مالک ہو جائیں۔

(۲) شرکت عقد یہ ہے کہ دو یا زیادہ اشخاص کسی کاروبار یا تجارت میں ایجاد
وقبول کے ساتھ شریک وسا جھی ہو جائیں۔

چنان چہ صاحب "هدایہ" فرماتے ہیں:

"الشركة ضربان: شركة أملاك وشركة عقود:
شركة الأموال العين يرثها الرجال أو يشتريانها
والضرب الثاني العقود وركنها الإيجاب والقبول الخ". (۱)
اور "شامی" میں ہے:

"وهي ضربان: شركة ملك وهي أن يملك متعدد (اثنان
أو أكثر) عيناً أو ديناً الخ. وشركة عقد أي واقعة بسبب العقد
قابلة للوكالة وركنها أي ماهيتها الإيجاب والقبول". (۲)

اب غور طلب بات یہ ہے، کہ کمپنی میں شرکت کس قسم میں داخل ہے؟ شرکت کی
ان اقسام میں سے ظاہر ہے کہ شرکت ملک کی تعریف شیرز کے ذریعے کمپنی میں
شرکت پر صادق نہیں آتی؛ البتہ شرکت عقد کی تعریف اس پر صادق آتی ہے، لہذا یہ
شرکت عقد ہے۔

پھر شرکت عقد تین طرح پر ہے:

(۱) ایک شرکت بالمال، کہ دو یا زیادہ افراد اپنا اپنا مال لگا کر کاروبار میں
شریک ہو جائیں اور نفع تقسیم کر لیں۔
(۲) دوسری شرکت بالاعمال کہ دو یا چند لوگ کسی کام میں شریک ہوں جیسے ٹیلر،

(۱) الہدایہ: ۲۲۳/۲

(۲) الدر المختار مع الشامی: ۲۹۹/۳، أيضاً ۳۰۵/۳

بڑھتی وغیرہ اور آپس میں یہ طے کر لیں، کہ ہم سب مل کر کام کریں گے اور جو اجرت ملے، تقسیم کر لیں گے۔

(۳) تیسری شرکت بالوجوه کہ اپنی وجہت کی بنابر دو یا چند افراد دوسروں سے مال تجارت لے کر کاروبار کریں اور نفع میں یہ سب شریک ہو جائیں۔ (۱)

ان تین قسموں میں سے زیرِ بحث شرکت جیسا کہ ظاہر ہے پہلی قسم میں داخل ہے، جس کو شرکت بالمال کہتے ہیں؛ کیوں کہ اس میں ہر شریک اپنا مال لگاتا اور کاروبار کرتا ہے۔

شرکتِ مفاوضہ یا عنان؟

یہاں یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ شرکت عقد اپنی تینوں انواع کے ساتھ دو قسم پر ہے:

(۱) ایک شرکتِ مفاوضہ (۲) دوسرے شرکتِ عنان

اس طرح شرکتِ عقد کی مذکورہ تینوں قسمیں مفاوضہ و عنان کی طرف منقسم ہو کر کل چھ قسمیں ہو جاتی ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ زیرِ بحث صورت، شرکتِ عقد کی پہلی قسم یعنی شرکت بالمال کے تحت آتی ہے اور جب شرکت بالمال کی دو قسمیں ہوں گی، تو زیرِ بحث صورت میں یہ سوال ہو گا، کہ یہ کس صورت میں داخل ہے، شرکتِ مفاوضہ میں یا شرکتِ عنان میں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شرکتِ عنان میں داخل ہے نہ کہ شرکتِ مفاوضہ میں؛ کیوں کہ شرکتِ مفاوضہ کی جو تعریف کی گئی ہے، وہ یہاں صادق نہیں آتی۔
علماء نے شرکتِ مفاوضہ کی تعریف یہ کی ہے:

(۱) دیکھو البحر الرائق: ۲۰۵/۲، الهدایۃ: ۲۲۲/۲، المبسوط للسرخسی: ۱۵۱/۱، الدر المختار مع الشامي: ۲۹۹/۳

”أما شركة المفاوضة فهو أن يشترك رجلان
ويتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما.“ (۱)

(شرکتِ مفاوضہ یہ ہے کہ دو (یا زیادہ) آدمی شریک ہوں اور
دونوں (یا سب) مال میں، تصرف میں اور دین میں برابر ہوں۔)

لہذا کسی کامال کم اور کسی کا زیادہ ہو، تو مفاوضہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح تصرف میں
کمی بیشی ہو، تو مفاوضہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دین دونوں کا ایک نہ ہو، تو مفاوضہ نہیں
ہو سکتا؛ اسی لیے لکھا ہے کہ شرکتِ مفاوضہ، کافر اور مسلم کے مابین نہیں ہو سکتی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ”الجامع الصغیر“ میں لکھتے ہیں:

”ولا تكون المفاوضة إلا بين حررين كبيرين مسلمين
أو ذميين ولا تكون بين المسلم والذمي“ (۲)

(شرکتِ مفاوضہ صرف دو آزاد، بالغ مسلمانوں یا دو ذمیوں کے
درمیان ہو سکتی ہے اور مسلم و ذمی کافر کے درمیان نہیں ہو سکتی۔)

علام حصلفی رحمۃ اللہ علیہ ”در مختار“ میں فرماتے ہیں:

”فلا تصح مفاوضة وإن صحت عناناً بين حر و عبد
ولو مكاتبًا أو مأذونًا ، وصبي وبالغ وMuslim وكافر لعدم
المساواة .“ (۳)

ظاہر ہے کہ یہ تعریف اور اس کی یہ قیود، کمپنی کی شرکت پر درست نہیں بیٹھتے؛

(۱) الہدایہ: ۲/۲۶۵، الجوہرة النیرۃ: ۲/۱۳۶، وغیره

(۲) الجامع الصغیر مع النافع الكبير: ۳۲۹

(۳) الدر المختار: ۳/۳۰۶

اس لیے کہ کمپنی کا ہر شریک نہ مال میں برابر ہوتا ہے، نہ تصرف میں اور نہ دین و ملت میں (کما ہو ظاہر۔)

اس لیے اب یہ متعین ہے کہ کمپنی کی شرکت، شرکت عنان ہے؛ کیوں کہ جہاں شرکت مفاوضہ بوجہ فقدان شرط صحیح نہ ہو سکے اور وہ شرط مفقود، شرکت عنان میں مشروط نہ ہو، تو وہ صورت شرکت عنان کی ہوتی ہے۔
در مختار میں ہے:

”وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحِّ الْمُفَاوِضَةُ لِفَقْدِ شُرُطِهَا ، وَلَا
يُشَرِّطُ ذَلِكَ فِي الْعَنَانِ ، كَانَ عَنَانًاً“۔ (۱)

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمپنی کے اس معاملے کو شرکت عنان قرار دیا ہے۔ (۲)

ایک شبہ کا جواب
اوپر کی اس تفصیل سے واضح ہوا، کہ یہ معاملہ شرکت عنان ہے؛ مگر اس پر ایک شبہ و اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ شرکت مفاوضہ و عنان دونوں میں یہ شرط ہے کہ رأس المال، درہم، دینار یا رانج سکے ہوں۔

چنانچہ ”هدایہ“ میں ہے:

” وَلَا يَنْعَدُ الشَّرْكَةُ إِلَّا بِالدرَّاهِمِ وَالدِّنَارِ وَالْفَلُوْسِ
النَّافِقَةِ“۔ (۳)

(۱) الدر المختار مع الشامي : ۳۰۷/۳

(۲) كما في امداد الفتاوي : ۲۹۲/۳

(۳) الہدایہ : ۲۲۷/۲

نیز ”در مختار“ میں ہے:

”ولا تصح مفاؤضة و عنان ذكر فيهما المال ... بغير التقدّين“

والفلوس النافقة والتبر و النقرة إن جرى التعامل بهما. (۱)

مگر کمپنی میں بعض لوگ جو اس کو قائم کرتے ہیں پہلے سے کچھ سامان، عمارت وغیرہ کی شکل میں اپنا حصہ لگا چکے ہوتے ہیں، پھر دوسرے لوگ روپیہ لگا کر حصہ خرید کرتے ہیں، تو پہلے لوگوں کی طرف سے سکون اور روپیوں سے شرکت نہ ہوئی، تو یہ کس طرح صحیح درست ہوگا؟

اس کا جواب یہ ہے، کہ اس سلسلے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، حفیہ و شافعیہ و حنابلہ کا وہی مسلک ہے، جو اور پر مذکور ہوا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، کہ ایک طرف سے نقد روپیہ ہو اور دوسری طرف سے کوئی سامانِ تجارت ہو یا دونوں طرف سے سامان ہو، تو بھی شرکت کا معاملہ درست ہے۔

مشہور مکتبی فقیہ علامہ ابوالبرکات الدر دری رحمۃ اللہ علیہ الشرح الكبير میں فرماتے ہیں:

”وتصح بهما أي بالذهب والفضة منها وبعين من“

جانب و بعرض من آخر وبعرضين من كل واحد“ . (۲)

”الفقه على المذاهب الأربعة“ کے مصنف نے مالکیہ کا رأس المال

کے سلسلے میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ثانيها أن يكون رأس المال عيناً من أحدهما وعرض تجارة من الآخر كأن يدفع أحدهما نقداً من الذهب أو الفضة ويدفع الآخر سلعةً من قماش أو قطن أو قمح، ثالثها

(۱) الدر المختار مع الشامي : ۳۱۰/۳

(۲) الشرح الكبير : ۳۲۹/۳

أن يكون رأس المال عرض تجارة من الشريكين اخ ” (۱)

لہذا یہ کہا جاسکتا ہے، کہ چوں کہ معاملات میں حتی الامکان توسع ہوتا ہے؛ اس لیے اس مسئلے میں ضرورت کی بنابر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے جواز کافتوی دینے کی گنجائش ہے۔ البتہ مالکیہ کے نزدیک اس جواز کی شرطیہ ہے، کہ سامان کی قیمت لگا کر شرکت کا اعتبار کیا جائے، جیسا کہ ”الشرح الكبير“ وغیرہ میں تصریح ہے:

” واعتبر كل من العرض الواقع في الشركة من جانب ”

أو جانبيين بالقيمة “ . (۲)

اور کمپنی کے کارکنان جو سامان وغیرہ کے ذریعے شرکت کرتے ہیں، وہ اس کی قیمت کے اعتبار سے ہی شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے جواز کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال و شہبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے: ”البتہ اس صورت میں کمپنی قائم کرنے والوں کی طرف سے شرکت بالتفہ نہ ہوگی؛ بل کہ بالعرض ہوگی، سو بعض ائمہ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے، ” فيجوز الشركة والمضاربة بالعرض يجعل قيمتها وقت العقد رأس المال عند أحمد رحمۃ اللہ علیہ في روایة وهو قول مالک رحمۃ اللہ علیہ وابن أبي ليلى ” (کما ذكره الموفق في المغني ” : ۵/۱۲۵)، پس ابتلاء عام کی وجہ سے اس مسئلے میں دیگر ائمہ کے قول پر فتوی دے کر شرکت مذکورہ کے جواز کا فتوی دیا جاتا ہے۔ (۳)

(۱) الفقه على المذاهب الأربعة: ۳/۸۲، نيزدیکیو: الناج والإکلیل: ۵/۱۲۶

(۲) الشرح الكبير: ۳/۹۲۳

(۳) إمداد الفتاوی: ۳/۳۹۱

سرمایہ کاری کی دوسری صورت کا حکم

یہ سب تفصیل سرمایہ کاری کی اس صورت کے بارے میں تھی، جس میں کمپنی کے قیام سے پہلے اس کو وجود میں لانے کے لیے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔

اب رہی دوسری صورت کہ کمپنی تو موجود ہے اور اس کے حصہ دار طے ہو چکے ہیں اور اب کوئی شخص ایسی کمپنی کا شیر ہو لڈر حاصل کرنا چاہے، تو اس کمپنی کے کسی شیر ہو لڈر سے اس کا شیر خریدنا پڑے گا۔

اوپر عرض کیا گیا ہے، کہ دراصل اس معاملے کی حقیقت یعنی خرید و فروخت کی ہے، تفصیل یہ ہے کہ کسی کمپنی کے شیر ہو لڈر ہونے کا مطلب یہ ہے، کہ وہ شخص اس کمپنی میں مناسب حصے کی ملکیت رکھتا ہے، اب اس حصہ ملکیت کو دوسرا آدمی اس سے لیتا ہے، تو وہ دراصل اس سے اس حصے کو خرید رہا ہے؛ اس لیے اس صورت پر بیع و شراء کے تمام احکامات لاگو ہوں گے۔

ہاں! جب یہ شخص اس شیر ہو لڈر سے اس کا حصہ خرید لے گا، تو وہ اس کی جگہ اس کمپنی کا شیر ہو لڈر ہو جائے گا اور اس کا یہ معاملہ کمپنی سے وہی شرکت عقد کا ہو گا، جیسا کہ تفصیل سے اوپر عرض کیا گیا۔

اپنے حصے پر مالکانہ تصرف؟

اب ایک سوال اس ضمن میں یہ رہ گیا، کہ جب شیر ہو لڈر کمپنی میں ایک مناسب حصے کی ملکیت رکھتا ہے، تو اس کو تمام مالکانہ حقوق حاصل ہونا چاہیے؛ مگر بے ظاہر اس کو کوئی مالکانہ تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس سے اس مسئلے پر کیا اثر پڑے گا؟

اس کا جواب یہ ہے، کہ شیر ہو لڈر کو بے ظاہر مالکانہ تصرف کا اختیار نہیں ہے؛ لیکن حکماً و قانوناً یہ حق اس کو حاصل ہے؛ اسی لیے وہ اس حق کو فروخت کر سکتا ہے، اگر

ماکانہ تصرف نہ حاصل ہوتا، تو وہ اپنا حصہ دوسرے شخص کو کس طرح فروخت کر سکتا؟ ہاں! وہ ہر قسم کا تصرف اس لیے نہیں کر سکتا، کہ اس نے کارکنانِ کمپنی کو اپناوکیل بنادیا ہے اور عقدِ شرکت میں شریک و حصہ دار کو اس کا حق ہے، کہ وہ کسی کو اپناوکیل بنادے۔

”در مختار“ میں ہے

”ولکل من شریکی العنان والمفاوضة أن يستأجر من يتجر له أو يحفظ المال ويوضع أي يدفع المال بضاعةً بأنها يشترط الربح لرب المال ويودع ويعير ويضارب؛ لأنها دون الشركة فتضمنتها و يؤكل أجنبياً ببيع و شراء“ . (۱)
صاحب ”البحر الرائق“ فرماتے ہیں:

”ولکل من شریکی العنان والمفاوضة أن يوضع ويستأجر ويودع ويضارب ويؤكل“ . (۲)

ان کا حاصل یہ ہے کہ شرکت مفاوضہ و شرکت عنان میں شریک لوگوں میں سے ہر ایک کو اس کی اجازت ہے، کہ وہ کسی کام پر مزدوری پر رکھے یا کسی کے پاس اپنا مال و دیعت رکھے یا کسی کو مضاربت کے لیے دے یا اپناوکیل بنائے۔

ظاہر ہے کہ اگر مضاربت میں مال لگایا جائے گا اور مضاربت میں توقیت بھی جائز ہے۔ (۳)
تو اس مدت تک وہ مال مضارب کے پاس ہو گا اور تصرف سے یہ شخص محروم ہو گا؛ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، بالکل اسی طرح یہاں سمجھنا چاہیے، کہ اس کو ماکانہ تصرف حاصل ہے؛ مگر ایک عارض کی وجہ سے ظاہر نہیں ہے۔ (واللہ عالم)

(۱) الدر المختار: ۳۱۶-۳۱۷/۳

(۲) البحر الرائق: ۱۷۷/۵

(۳) كما في الجوهرة: ۲/۱۵۶

(۲) کمپنیوں کی قسمیں اور ان کے احکام

جانکٹ اسٹاک کمپنیاں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں، ایک وہ، جن کا کاروبار حرام و ناجائز ہے، جیسے شراب بنانے کی کمپنی، سودی کاروبار کی بینک اور انشوئنس کمپنی وغیرہ، دوسرے وہ جن کا کاروبار بنیادی طور پر حلال و جائز ہے۔ مثلاً: ٹیکٹائل کمپنی، آٹوموبائل کمپنی وغیرہ اور اسی لحاظ سے ان کمپنیوں میں حصہ داری کے احکام بھی مختلف ہیں۔

حرام کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا حکم

جہاں تک ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا تعلق ہے، جن کا بنیادی کاروبار حرام و ناجائز ہے، تو بالکل واضح و ظاہر ہے کہ ایسی کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور شرکت قطعاً حرام اور سخت معصیت ہے؛ کیوں کہ شیرخید نے والا جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں، کمپنی کا برابر کا حصہ دار ہے؛ اس لیے کمپنی کا معصیت میں ابتلاء صاحل اس شیرخیدر کا ابتلاء و ارتکاب ہے اور پھر اس سے ہونے والی آمدنی بھی صریح حرام ہے۔ ایک تو اس کمپنی میں حصے داری اور شرکت بذاتِ خود حرام و ناجائز ہے اور دوسرے اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی حرام و ناجائز ہے؛ اس لیے اس قسم کی کمپنیوں میں ہرگز شیرخیدر کا بنا ناچا ہیے۔

حلال کاروبار والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری

اب رہی دوسری قسم کی کمپنیاں جن کا کاروبار حلال ہے، تو اس میں سرمایہ کاری اور شرکت کا حکم بھی واضح ہے، کہ جائز و مباح ہے؛ کیوں کہ مباح کام میں شرکت کی شریعت نے اجازت دی ہے، عقدِ شرکت کے جواز پر متعدد احادیث دلالت کرتی ہیں:

« عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهم . » (۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں دو شریکوں میں تیسرا ہوتا ہوں، جب تک کہ ان میں سے کوئی اپنے ساتھی سے خیانت نہ کرے، پس اگر خیانت کرتا ہے، تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔) ”نصب الرایہ“ میں ہے، کہ اس کو حاکم نے روایت کر کے صحیح قرار دیا ہے اور ابن القطان نے کہا، کہ اس کی سند میں ابو حیان راوی ثقة ہیں؛ مگر ان کے والد جن سے یہ روایت کرتے ہیں، وہ مجھوں الحال والذات ہے۔ (۲)

امام السرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے

”شرکت کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سائب بن شریک آں حضرت حلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمحیص کیوں نہ پہچانوں، تم میرے شریک تھے اور بہترین شریک تھے، نہ تم نے معاملے میں ظاہری مدارات کی اور نہ لڑائی بھڑائی کی۔“) (۳)

متعدد احادیث میں یہ واقعہ حضرت مجاهد کی روایت سے عبد اللہ بن السائب کا بتایا گیا ہے، الامام المقدسی نے ”الأحاديث المختارة“ میں، امام الطبرانی نے ”المعجم“

(۱) أبو داود: ۲۸۰/۲

(۲) ملخصاً من نصب الرایہ: ۳/۲۲۳

(۳) المبسوط: ۱۱/۱۵۱

میں اور ابو بکر الشیعی نے ”الْأَحَادِ وَالْمَثَانِی“ میں اسی طرح روایت کیا ہے، نیز سائب بن ابی السائب سے بھی اسی طرح کا واقعہ سند سے نقل کیا گیا ہے۔^(۱)

اور متعدد محدثین نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، کہ سائب بن ابی السائب حضور کی خدمت میں آئے، تو صحابہ نے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی، اس پر اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا، کہ میں ان کو تم سے بہتر جانتا ہوں، اس پر سائب نے عرض کیا، کہ آپ سچ فرماتے ہیں، میرے ماں باپ آپ قربان ہوں، آپ میرے بہترین شریک تھے، نہ کبھی آپ نے کوئی چاپلوسی کی اور نہ جھگڑا کیا۔^(۲)

اس روایت میں ان الفاظ ”آپ میرے بہترین شریک تھے، نہ کبھی آپ نے کوئی چاپلوسی کی اور نہ جھگڑا کیا“، کوسائب کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جب کہ اوپر کی روایت میں ان ہی الفاظ کو حضور ﷺ کی جانب منسوب کیا گیا ہے؛ اسی لیے اس حدیث کو محدثین نے مضطرب ہونے کی وجہ سے ناقابل جلت قرار دیا ہے۔^(۳)

یہ روایات اگرچہ سند کی حیثیت سے کچھ مضبوط نہیں ہیں، تاہم اس سے شرکت کا جواز مفہوم ہوتا ہے؛ کیوں کہ اس کی تائید اجماع امت سے ہوتی ہے، کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، کہ حلال کاروبار میں شرکت عقد جائز ہے؛ اس لیے یہ زیر بحث صورت بھی ہر قسم کی بحث سے مستغنی ہے۔

(۱) الأحاديث المختارة: ۹ - ۳۹۵ ، معجم الأوسط: ۱ / ۲۶۸ ، الأحاديث والمثانی: ۲ / ۳۳ ، السنن للبيهقي: ۶ / ۷۸

(۲) أبو داود: ۳۸۳۶ ، المعجم الكبير للطبراني: ۷ / ۱۲۰ ، مسنند أحمد: ۱۵۵۳۹ ، الأحاديث والمثانی: ۲ / ۲۳

(۳) نصب الراية: ۳ / ۲۷۲

سود میں ملوث کمپنیوں میں شرکت

البته یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ حلال کاروبار کرنے والی کمپنیاں بھی دو قسم کی ہو سکتی ہیں: ایک وہ جن کا بنیادی کاروبار بھی حلال ہو اور ازاول تا آخر ان کا طریقہ کار بھی قواعدِ شرعیہ اور ضوابطِ فقہیہ کے عین مطابق ہو؛ مگر ایسی کمپنیوں کا وجود، ہندوستان؛ بل کہ شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہو، الاما شاء اللہ اور خصوصاً جو کمپنیاں بڑے پیمانے پر کاروبار کرتی ہیں، ان میں شاید ہی کوئی ایسی ہو، جو تمام قواعدِ شرعیہ کا لحاظ کرتی ہو۔

دوسری وہ کمپنیاں ہیں، جن کا بنیادی کاروبار اگرچہ حلال ہے، مگر ان کے طریق کار میں بعض وقت اور بعض جگہ شرعی قواعد سے ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ مثلاً: وہ کمپنیاں کسی طرح سودی کاروبار میں ملوث ہوتی ہیں، کبھی تو اس طرح کہ اپنا رأس المال بڑھانے کے لیے بینک سے سودی قرضہ لیتی ہیں اور کبھی اس طرح اپنا مال بینک میں رکھ کر سود حاصل کرتی ہیں، عام طور پر آج جو کمپنیاں قائم ہیں، وہ اسی طرح کی ہیں کہ ان کا بنیادی کاروبار حلال ہے؛ مگر سودی کاروبار کی ان دونوں شکلوں اور صورتوں میں وہ ضرور ملوث ہوتی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کمپنیوں کے شیئر زخریدنا اور ان میں حصے دار بننا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ دراصل ”تعاون علی الاثم“ کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں حضرات فقہا کی عبارات بہ ظاہر متضاد نظر آتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”تفصیل الكلام فی مسأله الإعانة علی الحرام“ میں اس مسئلے پر کافی اور سیر حاصل بحث فرمائی ہے اور جو اس سلسلے میں ضابطہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے:

”کسی معصیت کی اعانت جواز روئے قرآن حرام ہے، وہ وہ ہے جس میں معصیت کا قصد و نیت حقیقتاً یا حکماً شامل ہو، حقیقتاً یہ کہ دل ہی میں یہ ہو، کہ اس کے ذریعے سے عملِ معصیت کیا جائے، یا یہ کہ صلب عقد میں احد المتعاقدين کی طرف سے اس معصیت کی تصریح آجائے اور حکماً یہ کہ وہ چیز بہ جز معصیت کے کسی دوسرے کام میں آتی ہی نہ ہو، جیسے آلاتِ معاف، طبلہ، سارگی اور مختلف قسم کے آلاتِ موسیقی۔ ان چیزوں کا بنانا اور پہنانا اگرچہ بہ قصدِ معصیت نہ ہو، مگر حکماً وہ بھی قصدِ معصیت میں داخل ہے اور جہاں قصدِ معصیت نہ حقیقتاً ہونہ حکماً ہو، وہ اعانت علیِ المعصیت نہیں، البتہ اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے، جس کو تسبیب کہتے ہیں اور وہ بھی از روئے قرآن حرام ہے۔“

اس کے بعد حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ سب کے اقسام پر گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

”سببِ دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک سببِ قریب اور ایک سببِ بعید: سببِ بعید کسی چیز کا حرام نہیں، البتہ سببِ قریب حرام ہے؛ مگر اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ سببِ قریب جالب اور باعث ہو گناہ کا، کہ اگر یہ سبب نہ ہوتا، تو صدورِ معصیت نہ ہوتا، یہ حرام ہے اور اگر سببِ قریب گناہ کے لیے محرک و جالب نہ ہو جیسے کافر کو کرایہ پر گھردینا، جو اس میں شرکیہ کام کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ مکان کرایہ پر دینا اس کے فعلِ شرک کا محرک نہیں، تو ایسے سبب کا حکم یہ ہے کہ اگر معصیت کا قصد و نیت کر کے یہ کام کرے گا، تو یہ اعانت علیِ الحرام میں داخل ہو کر

حرام ہوگا اور اگر قصد و نیت تو نہیں؛ مگر یہ معلوم ہے کہ دوسرا شخص اس کو حرام کام میں لائے گا، تو یہ سبب مکروہ ہے اور اگر علم نہیں تو مکروہ نہیں۔^(۱)

میں کہتا ہوں کہ اس تنقیح کے بعد غور طلب بات یہ ہے کہ زیر بحث کمپنی میں شرکت، اعانت علی الحرام کی کوئی صورت میں داخل ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اعانت علی المعصیت کی پہلی تین صورتوں میں داخل نہیں ہے؛ کیوں کہ شیر خریدنے والے کا قصد وارادہ سودی کاروبار کا ہر گز نہیں ہوتا، دوسرے اس کا کوئی ذکر بھی صلب عقد میں نہیں ہوتا اور جو روپیہ وہ اس میں لگاتا ہے، وہ معصیت کے لیے موضوع و معین نہیں؛ اس لیے اس قسم کی کمپنی میں شرکت کو اعانت علی الحرام نہیں کہا جاسکتا، وہذا کلمہ ظاہر ہاں یہ تسبب کی صورت میں داخل ہے، مگر سبب جالب میں نہیں؛ کیوں کہ اس کمپنی میں شرکت مذکورہ معصیت کے لیے محک نہیں ہے؛ بل کہ غیر جالب میں داخل ہے اور غیر جالب کا حکم یہ بتایا گیا، کہ اگر ”اعانت علی الحرام“ کی نیت و قصد اس میں شامل ہو، تو حرام ہے ورنہ نہیں اور عام طور پر یہاں ایسا نہیں ہوتا۔

لیکن عام طور پر چوں کہ شریک کاروبار کو اس کا علم ہوتا ہے، کہ یہ کمپنیاں سودی لین دین میں ملوث ہوتی ہیں؛ اس لیے اس قسم کی کمپنیوں میں شرکت مکروہ ہے؛ کیوں کہ ”اعانت علی الحرام“ ہونے کا علم ہو؛ تو سبب قریب غیر جالب مکروہ ہے، اور میرے نزدیک مذکورہ کمپنیوں میں شیر خریدنا اسی میں داخل ہے اور مکروہ ہے؛ کیوں کہ عام طور پر شیر خریدنے والے کو معلوم ہوتا ہے، کہ کمپنیاں اگرچہ بنیادی کاروبار حلال کرتی ہیں؛ مگر ضمناً سودی لین دین میں ملوث ہوتی ہیں اور میرا شیر و

(۱) جواہر الفقہ : ۲۲۲/۲، ۲۵۵ تا ۳۲۳، نیز أحکام القرآن (عربی) :

حصہ بھی اس میں لگتا ہے، جب یہ علم ہے، تو مذکورہ قاعدے کے مطابق یہ شرکت مکروہ ہوگی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس میں کسی بھی عالم کا اختلاف نہ ہوگا۔

البتہ یہ بات قابل بحث رہ جاتی ہے، کہ شیئر خریدنے والا اگر کمپنی کے اندر سودی کاروبار کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کاروبار کو بند کرنے کی اپیل کر دے، تو کیا اس سے مذکورہ کراہت مرتفع ہو جائے گی اور کیا اس کے لیے ایسی کمپنی میں شیئر خریدنا جائز ہوگا؟

اس میں علام کا عام رجحان یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیئر ہولڈر کی اس آواز پر چوں کہ موجودہ حالات میں کوئی کان نہیں دھرے گا اور اس کی یہ آواز، نقارخانے میں طوطی کی آواز سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی؛ اس لیے اس کا اس کے خلاف آواز اٹھانا، بے سود اور کا عدم ہے، لہذا اس سے کراہت مذکورہ مرتفع نہ ہوگی اور بعض علام اس طرف گئے ہیں، کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے سے کراہت مرتفع ہو جائے گی اور اس معاملے کی نسبت اس کی طرف نہ ہوگی۔

چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”جس حصہ دار کو حصہ داخل کرتے وقت اس کی سودی کاروبار کی اطلاع نہ ہو، اس نے کارکنان کمپنی کو ان دوامر (سود لینے اور دینے) کا وکیل ہی نہیں بنایا، اس لیے کارکنوں کا یہ فعل اس کی طرف منسوب نہ ہوگا اور جن کو اطلاع ہو، وہ تصریحًا اس سے ممانعت کر دیں، گواں ممانعت پر عمل نہ ہوگا، مگر اس ممانعت سے اس فعل کی طرف نسبت تو نہ ہوگی“۔ (۱)

مولانا نقی عثمانی زید مجده نے ”فقہی مقالات“ میں اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا ہے اور اپنا رجحان بھی اسی طرف ظاہر فرمایا ہے۔ (۱)

اور یہ بات واضح ہے کہ جب اس نے با تصریح اس معاملے کی مخالفت کر دی تو اس فعل کی نسبت اس سے قطعاً منقطع ہو گئی۔

اس لیے راقم کے نزدیک بھی ایسی کمپنیوں میں مذکورہ شرط کے ساتھ حصہ لینے کی گنجائش ہے، ہاں نہ لینا احتو ط و انسب ہے۔ (واللہ اعلم)

مال مخلوط بالحرام کا حکم

مگر اس پر ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ جب یہ کمپنیاں، سودی لین دین کریں گی، تو ان میں دو طرح کامال جمع ہو گا: ایک حلال مال جو اصل ہے، دوسرے یہ حرام مال، جو سودی لین دین کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، تو یہ دو قسم کامال ہے۔ سوال یہ ہے، کہ اب جو بھی شخص اس کمپنی کے حلال کاروبار میں شرکت کرتا ہے اور اس کے شیر خریدتا ہے، اس کو بھی سودی روپیہ کا کچھ حصہ حاصل ہو گا اور مال مخلوط بالحلال والحرام کا مسئلہ پیدا ہو گا، کہ اس کا کیا حکم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے، کہ ایسے مال کے متعلق حضرات فقہاء نے لکھا ہے، کہ اگر غالب حلال ہے، تو لے سکتا ہے اور اگر غالب مال حرام کا ہو، تو اس کا لینا جائز نہیں۔

علامہ ابن حبیم المصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”إِذَا كَانَ غَالِبًا مَالُ الْمَهْدِيِّ حَلَالًا فَلَا بَأْسَ بِقَبُولِ

هَدِيَتِهِ وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ، وَإِنْ كَانَ غَالِبًا

(۱) فقہی مقالات

ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال : إنه حلال
ورثه أو استقرضه“。(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر غالب مال حلال ہو، تو اس کا لینا جائز ہے اور
غالب مال حرام ہے، تو جائز نہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ”مال مخلوط بالحرام“ پر
اپنی کتاب لاجواب ”إحياء العلوم“ میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور اس
صورت کے بارے میں یہ لکھا ہے:

”اس کے حکم میں مجھے اشتباہ ہے اور اگر مجھ سے اس کے بارے
میں سوال ہوا، تو میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے۔“ (۲)

الغرض اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے، کہ اس سے پچنا ورع
کی بات ہے؛ لیکن فتوے کے لحاظ سے اس کے لینے کی گنجائش ہے۔

سود کو صدقہ کر دے

مگر اس کے حساب میں جتنا سود آئے، اس کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ مال
مخلوط بالحرام کی بحث میں فقہاء نے جو لکھا ہے، وہ اس صورت میں ہے، کہ اس خلط کے
نتیجے میں حرام کی حلال سے تمیز نہ ہو سکے اور زیر بحث صورت میں..... جیسا کہ ظاہر
ہے..... سودی لین دین کا حساب الگ ہو جاتا ہے اور بہ آسانی اس کو معلوم بھی
کیا جا سکتا ہے، لہذا جو کچھ سودا اس کے حصے میں آیا ہے، اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔

مولانا نقی عثمانی صاحب مدظلہ نے اس سلسلے میں صحیح لکھا ہے:

”جب منافع تقسیم ہوں، تو وہ شخص ”آنکہ اسٹیٹ منٹ“

(۱) الأشباء والنظائر: ۳۲۲-۳۲۳/۱

(۲) إحياء العلوم: ۲/۱۲۲

"Income Statement" کے ذریعے یہ معلوم کرے، کہ آمدنی کا کتنا فیصد حصہ سودی ڈیپاٹ سے حاصل ہوا ہے، مثلاً فرض کیجیے کہ اس کمپنی کو کل آمدنی کا ۵/۵ فیصد حصہ سودی ڈیپاٹ میں رقم رکھوانے سے حاصل ہوا ہے، تو اب وہ شخص اپنے نفع کا پانچ فیصد حصہ صدقہ کر دے۔ (۱)

اور یہ اس لیے کہ مالِ حرام جس کا مالک معلوم نہ ہو، اس کا تصدق کرنا واجب ہے، خالص حرام کے بارے میں تو یہ واضح ہے؛ چنان چہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "قندیل" کے حوالے سے نقل کیا ہے:

”لو كان الخبيث نصاباً لا يلزمها الزكوة ، لأن الكل
واجب التصدق عليه“.

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں:

”ويجب عليه تفريغ ذاته بردہ إلى أربابه إن علموا
وإلا إلى الفقراء . (۲)

اور اگر مالِ حرام وحلال سے مخلوط ہو جیسا کہ زیر بحث صورت میں ہے، تو اس میں بھی بقدرِ حرام، تصدق واجب ہے، اسی لیے مخلوط مال کے بارے میں فقهاء نے لکھا ہے، کہ صاحبِ مال اس کا ضامن ہوگا۔

”من ملك أموالاً غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها
ملكتها بالخلط ويصير ضامناً. (۳)

(۱) فقہی مقالات: ۱/۱۵۰

(۲) منحة الخالق على البحرين: ۲/۲۰۵

(۳) الشامي: ۲/۲۹۱

اس سے معلوم ہوا، کہ مخلوط مال پر اگرچہ (امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے نزدیک) ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، مگر حرام مال کا وہ ضامن ہوتا ہے اور اس کو واپس کرنا اس پر لازم ہے۔

بل کہ علامہ شامی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے یہ بھی نقل کیا ہے:

”اگر اس شخص کے پاس اس مال مخلوط کے سوا کوئی اور مال نصاب زکاۃ کے برابر نہ ہو، تو اس پر اس مال مخلوط کی زکاۃ بھی واجب نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ تحریر کرتے ہیں : ”لأنه مديون و مال المديون لا ينعقد سبباً لوجوب الزكاة عندنا۔ (اس لیے کہ یہ شخص مدیون یعنی قرض دار ہے اور قرض دار کا مال ہمارے نزدیک وجوب زکاۃ کا سبب نہیں ہوتا)“ (۱)

مطلوب یہ ہوا کہ یہ مال اس کا نہیں؛ بل کہ ان کا حق ہے، جن کا مال اس نے دبایا ہے، اس لیے اس پر زکاۃ نہیں ہے؛ بل کہ ان لوگوں تک اس کو پہنچانا لازم ہے۔ اسی طرح کمپنی سے حاصل ہونے والے نفع میں سے سودی رقم یا تو اس کے مالکان تک پہنچانا چاہیے یا فقرا پر صدقہ کر دینا چاہیے اور پہلی صورت مفقود ہے؛ اس لیے تصدق لازم و متعین ہے جیسا کہ اوپر علامہ شامی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی عبارت سے معلوم ہو چکا، کہ اگر اصحاب اموال معلوم نہ ہوں، تو فقر کا کو دینا چاہیے۔

اس ضمن میں ایک ممکنہ سوال یہ بھی ہے، کہ اگر اصل سرمایہ اور سودی رقم میں امتیاز کی کوئی صورت ممکن نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ تخمینہ لگا کر غالب گمان کے مطابق سودی رقم صدقہ کر دی جائے؛ کیوں کہ بہت سے شرعی معاملات میں غلبہ ظن کا اعتبار کیا گیا ہے، شامی رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے لکھا ہے:

(۱) الشامی: ۲۹۱/۲

”لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية“ . (١)

اور فقہانے یہ اصول بھی لکھا ہے:

”إن غلبة الظن معتبرة عند فقد الأدلة“ . (٢)

لہذا اس مجبوری کی صورت میں ایک اصل شرعی کے مطابق سودی رقم تخمینہ لگا کر صدقہ کردی جائے، تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے۔

(١) الشامي: ١/٢٨٧

(٢) البحر الرائق: ٨/٨٠

(۳) ڈبنتر (Debenture)

کے ذریعے سرمایہ کاری

کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا ایک طریقہ وہ ہے، جس کو شیئر کہتے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، کہ کمپنی کے ڈبنتر (Debenture) خریدے جائیں۔

عام طور پر ایسا ہوتا ہے، کہ محض حصہ کے ذریعے سرمایہ کاری پر کمپنی کا چلانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے؛ اس لیے جب حصہ تجارت ختم ہو جاتے ہیں، تو کمپنی "ڈبنتر" کی پیشکش کرتی ہے، یعنی لوگوں سے سود پر قرض لیتی ہے؛ اس لیے "ڈبنتر" دراصل حصہ قرض ہیں، جو خریدار کمپنی کو دیتا ہے اور اس کے عوض میں کمپنی اس کو سود دیتی ہے اور سود کے ساتھ نفع بھی دیتی ہے اور نقصان کی صورت میں رقم قرض کی واپسی کی ضمانت بھی دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی حلال کاروبار کرنے والی کمپنی کے ڈبنتر خرید کر، اس کے ذریعے سرمایہ کاری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈبنتر خریدنا جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ صریح اور بہ راہ راست سودی معاملہ ہے اور کمپنی اگرچہ حلال کاروبار کرتی ہے، مگر ڈبنتر خریدنے والے سے کمپنی کا جو معاملہ ہے، وہ حلال کاروبار سے متعلق نہیں ہے؛ بل کہ سودی کاروبار سے متعلق ہے۔ جیسے ایک شخص کوئی حلال کاروبار کرتا ہے، مگر ایک اور شخص سے سود پر قرض لیتا ہے، تو اس دوسرے شخص کو سود پر قرض دینا اور سود لینا جائز نہ ہوگا، اگرچہ جس کو قرض دے رہا ہے، وہ حلال کاروبار کرتا ہے۔

نیز اس پر جو نفع کے نام سے دیا جاتا ہے، وہ بھی درحقیقت سود ہی ہے، نفع نہیں

جائز اسٹاک کمپنیوں میں سرمایہ کاری ہے، کیوں کہ یہ قرض پر نفع ہے اور قرض پر ملنے والا نفع سود ہے، حدیث میں ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سننا:

«کل قرض جر منفعته فهو ربا.» (۱)

اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے؛ کیوں کہ اس میں ایک راوی سوار بن مصعب متروک ہے، مگر اس کے باوجود اس کو بعض علمانے صحیح یا حسن بھی کہا ہے، امام الحرمین نے اور ان کی اتباع میں امام غزالی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ (۲) اور عزیزی نے کہا:

”قال الشيخ : حدیث حسن لغیره.“ (۳)

نیز اس کے بہت سے شواہدات ہیں، متعدد صحابہ سے یہ مضمون موقوفاً وارد ہوا ہے؛ اس لیے یہ حسن لغیرہ ہے۔

الغرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کی بنیاد پر حاصل ہونے والا نفع درحقیقت نفع نہیں؛ بل کہ سود ہے، اس لیے ”ڈنچر“ پر ملنے والا نفع، نفع نہیں؛ بل کہ سود ہے؛ اسی لیے اس میں ضمانت دی جاتی ہے، کہ نقصان کی صورت میں بھی قرض کی رقم واپس کی جائے گی، غرض یہ صورت سرمایہ کاری کی، قطعاً ناجائز ہے۔

ڈنچر سے شیر کی طرف

اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی قابل بحث ہے، کہ ڈنچر (حص قرض) کو حص تجارت (شیر) میں محول کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا۔ کمپنی اپنی ضرورت کی بنا پر

(۱) مسنند حارث بن أبي أسامة : ۱/۵۰۰

(۲) خلاصة البدر المنير لابن الملقن : ۲/۸۷، التلخيص الحبير : ۳/۳۲

(۳) العزيزي : ۳/۸۷

ڈنپر کی پیش کش کرتی ہے اور اس پر سود دیتی ہے؛ لیکن ڈنپر بعد میں شیئر کی طرف منتقل کیا جاسکتا ہے اور ان حصص قرض کو کمپنی کی جانب سے ترجیح دی جاتی ہے؛ اس لیے ان کو (Preference Shares) کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس نیت سے ”ڈنپر“ خریدنا جائز ہوگا، کہ آئندہ اس کو شیئر میں تبدیل کر لیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ڈنپر کی حقیقت سودی قرض ہے، تو آئندہ اس کو حصص تجارت میں محو کرنے کے ارادے سے خریدنا بھی ناجائز ہے اور جب تک یہ شیئر میں منتقل نہ ہو جائے، برابر گناہ ہوگا؛ اس لیے اس کا اس نیت سے خریدنا بھی جائز نہ ہوگا۔ ہاں کسی نے غلطی سے ڈنپر خرید لیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوشش کر کے جلد سے جلد اس کو شیئر میں تبدیل کر لے؛ تاکہ گناہ سے نج سکے، البتہ کوئی واقعی مجبوری ایسی ہو کہ ”ڈنپر“ کا لینا اور خریدنا ناگزیر ہو جائے، تو پھر فقہہ نے اضطرار و ضرورت کی بحث میں جو لکھا ہے، اس کے مطابق مشروط طور پر اس کی اجازت دی جاسکتی ہے؛ مگر مجبوری کی وضاحت پیش کر کے حضرات علماء سے اس بارے میں فتوی لینا چاہیے، کہ اس قسم کی مجبوری میں کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب تک مجبوری و اضطرار کی شرح و وضاحت علماء کے سامنے نہ آئے، وہ اس پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، لہذا اس صورت میں مبتنی ب شخص اپنے حالات و کوائف علماء کے سامنے رکھ کر فتوی حاصل کرے۔

(۳) شیئر (Share) کی شرعی حیثیت

کمپنیوں کے شیئرز اور سندات قرض جن کو بانڈز (Bonds) کہا جاتا ہے، ان کو بازارِ حصہ (Stock Markets) میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، ان کی بع و شرا کا شرعی حکم معلوم کرنا اس پر موقوف ہے، کہ خود ان شیئرز اور بانڈ کی شرعی حیثیت متعین کی جائے؛ اس لیے ہم ان کی شرعی حیثیت پر کلام کرتے ہیں۔

جہاں تک شیئرز کی حیثیت کا سوال ہے، تو اس میں دو احتمال ہیں: ایک یہ کہ شیئر (حصہ) کو محض ایک حق مانا جائے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ شیئر کو مالِ متفقہ قرار دیا جائے۔

کیا شیئر محض ایک حق ہے؟

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے وہ صحیح نہیں معلوم ہوتا؛ کیوں کہ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک شخص جب شیئر خریدتا ہے، تو درحقیقت وہ کمپنی میں ایک خاص حصہ کا مالک ہوتا ہے اور ”شیئرز سرٹیفیکٹ“ جو اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ اس شخص کے متناسب حصے کی ملکیت کی نمائندگی کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ”متناسب حصہ“، محض ایک حق نہیں ہے، جس کو فقهہا کرام ”حقوق مجردة“ کے نام سے ذکر کرتے ہیں؛ بل کہ وہ ”مالِ متفقہ“ ہے۔

نیز یہ اگر محض حق شرکت ہوتا، تو تمام شیئر ہولڈروں سے ایک ہی مقدار میں رقم لی جاتی اور حق دیا جاتا؛ حال آں کہ ایک شیئر ہولڈر اور دوسرے شیئر ہولڈر کے مابین ایک اور دس یا ایک اور بیس کا بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً: ایک شیئر ہولڈر ۱۰۰ روپیہ کا ایک

شیر خریدتا ہے اور دوسرا دس یا بیس شیر ز خریدتا ہے، ظاہر ہے کہ زیادہ شیر خرید نے والے کو نفع میں زیادتی تو حاصل ہوتی ہے؛ مگر حقوق میں سے کوئی زائد حق اس کو حاصل نہیں ہوتا، اس سے بھی واضح ہے کہ شیر حضن حق نہیں ہے۔

لہذا دوسرا احتمال متعین ہو گیا کہ شیر دراصل ”مالِ متقوم“ ہے اور اس کی ”سرٹیفیکٹ“ دراصل اس مال پر حاصل ”ملکیت“ کی نمائندگی کرتی ہے۔

بانڈ (Bond) کی حقیقت و حیثیت

اب رہا بانڈ کی حیثیت کا مسئلہ؛ تو وہ دراصل حصہ قرض (ڈنچر) کی سند و سرفیکٹ ہے، جو اس بات کی نمائندگی کرتی ہے، کہ کمپنی کے ذمے اتنا قرض ہے اور قرض کا ”مالِ متقوم“ ہونا ظاہر ہے۔ البتہ بذاتِ خود بانڈ (سندِ حصہ قرض) کی حیثیت قبل غور ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ بانڈ جو کہ ایک کاغذ ہے، فی نفسه اس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ یہ کاغذ کا پرزاہ متقوم ہے؛ لیکن اس حیثیت سے کہ وہ حصہ قرض کی سند ہے، عرفًا ایک خاص حیثیت کا حامل ہے اور اس کی خرید و فروخت کا مطلب عرف میں اس کا غذ کی خرید و فروخت نہیں؛ بل کہ اس مال کی خرید و فروخت ہے، جس کی یہ سند ہے۔ خلاصہ یہ کہ بانڈز میں ایک تو اس پرزاہ کے بے جائے خود حیثیت کا سوال ہے، تو یہ غیر متقوم شیء ہے؛ مگر اس اعتبار سے کہ وہ قرض کی سند ہے مالِ متقوم ہے اور اس کی نظری فقہا کے کلام میں ملتی ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”صیرفیہ“ کی یہ عبارت خطوط ائمہ کی بیع کی بحث میں ذکر کی ہے:

”سئل عن بيع الخط قال : لا يجوز لأنه لا يخلو إما أن باع ما فيه أو عين الخط ، لا وجه للأول لأنه بيع مالييس عنده ، ولا وجه للثاني لأن هذا القدر من الكاغذ ليس

متقوماً بخلاف البراءة لأن هذه الكاغذة متقومة. ”(۱)

اس عبارت میں ایک کاغذ کے پرے کو متقوم مانا ہے اور ایک کو غیر متقوم قرار دیا ہے۔ جہاں تک میں نے غور کیا، اس کی وجہ یہی معلوم ہوئی، کہ امام کا خط جس میں وہ اپنے وظیفے کو دوسرے کو دینے کی بات تحریر کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کو درجہ سند کا نہیں؛ اس لیے فرمایا کہ ”لأن هذا القدر من الكاغذ ليس متقوماً“ اور براءت جو سلطان یا شاہی دفتر و دیوان کی طرف سے جاری ہوتی ہے، وہ چوں کہ بے حیثیت کاغذ نہیں ہوتا؛ بل کہ اس کی عرفًا و قانوناً ایک حیثیت ہوتی ہے؛ اس لیے اس کاغذ کو متقوم قرار دیا۔

بالکل اسی طرح یہ ہو سکتا ہے، کہ ایک چیز ایک حیثیت سے مال متقوم ہوا اور وہی چیز دوسری حیثیت سے شی غیر متقوم ہو؛ اس لیے باذ اس حیثیت سے کہ وہ ایک کاغذ کا پرزا ہے، غیر متقوم شی ہے؛ لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ایک کمپنی کی جانب سے سند قرض ہے اور اس کی پشت پر ایک متقوم شی ہے، وہ مال متقوم ہے۔

اس تحریر کے بعد مجھے اس سلسلے میں ”المبسوط للسرخسي“ میں ایک صریح جزئیہ میل گیا، جس سے چیک کا مال متقوم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

امام سرخسی نے ”باب الاقرار“ میں ایک جزئیہ یہ لکھا ہے:

”وإذا أقر الأجير إن ما في يده من تجارة أو مال لفلان وفي يده صكوك ومال عين فهو كله لفلان ؛ لأن ذلك كله من التجارة فإن ما في الصكوك وجب بسبب التجارة وهو مال من وجه باعتبار ماله فيتناوله عموم إقراره.“ (۲)

(۱) الشامي: ۵۱۷/۳

(۲) المبسوط للسرخسي: ۱۵۲/۱۸

(اگر اچیر نے اقرار کیا، کہ اس کے ہاتھ میں جو تجارت و مال ہے، وہ سب فلاں شخص کا ہے اور اس کے پاس کچھ چیزوں اور کچھ عین مال ہو، تو وہ سب اُس فلاں آدمی کا ہوگا؛ کیوں کہ وہ سب تجارت میں سے ہے؛ کیوں کہ چیزوں میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، وہ تجارت کے سب سے واجب ہوا ہے اور وہ ایک اعتبار سے مال ہے، لہذا اس کے اقرار کے عموم میں یہ سب شامل ہوگا۔)

اس میں امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے چیزوں کو ایک اعتبار سے مال تسلیم کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس شخص کے مال کے اقرار میں چیزوں کو بھی شامل کیا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ
انتباہ:

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے، کہ فقہا نے ”براءتِ سلطانی“ کی بیع کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، تو اس سے استدلال بے فائدہ ہے؛ کیوں کہ یہاں اس وقت مقصود صرف یہ ہے، کہ بائڈ کا مال متقوم ہونا ثابت کیا جائے، باقی اس کی بیع و شرائے جو اجازت ہے اس وقت پیش نظر نہیں ہے، اس کی بحث بعد میں آئے گی۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کہ براءتِ سلطانی کی بیع کا عدم جواز اس لیے نہیں کہ وہ غیر متقوم ہے؛ بل کہ اس کی وجہ دوسری ہے (کما سیاتی) غرض یہ کہ بائڈ (سندر قرض) براءتِ سلطانی کی طرح ہمارے نزدیک شیعہ متقوم ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ
شیئر ز کی خرید و فروخت

اب جب کہ واضح ہو گیا، کہ شیئر دراصل ”شیئر ہولڈر“ کا ”ایک متنا سب حصہ“ ہے، جو اس کی ملکیت میں کمپنی سے اشتراک کے نتیجے میں آیا ہے اور وہ اس کا حق دار بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو اس کی خرید و فروخت کا حکم بھی واضح ہے، کہ جائز

ودرست ہے، جیسے عام حالات میں ہر آدمی کو اپنی مملوکہ اشیا اور مال پر تصرف کا اختیار ہے اور وہ ان کی بیع کر سکتا ہے، اسی طرح شیئر بھی اس کے دائرہ تصرف واختیار میں ہے، کہ چاہے تو دوسرے کو بیع دے اور اگر دوسرا شخص بیچ، تو اس کو خریدا جاسکتا ہے؛ مگر اس سلسلے میں شرعی قواعد و اصول کی روشنی میں اس کے لیے چند شرائط ہیں، ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ان شرائط کی تفصیل یہ ہے۔

پہلی شرط: کمپنی حرام کاروبار نہ کرتی ہو

پہلی شرط یہ ہے کہ کمپنی حرام کاروبار نہ کرتی ہو۔ ہم نے اوپر جہاں کمپنیوں کی اقسام اور اس کے احکام بیان کیے ہیں، وہیں اس مسئلے پر تفصیل سے کلام کر دیا ہے، کہ جن کمپنیوں کا کاروبار بندیادی طور پر حرام ہو، ان میں شرکت جائز نہیں اور ظاہر ہے کہ کمپنی کا شیئر، شیئر ہولڈر سے خریدا جائے گا، تو شیئر ہولڈر اور اس کے خریدار کے ماہین تو یہ معاملہ بیع و شراء کا ہے؛ مگر خریدنے کے بعد اس خریدار اور کمپنی کے ماہین شرکت کا معاملہ قائم ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ حرام کاروبار میں شرکت صریح طور پر ارتکابِ معصیت ہے، لہذا ایسی کمپنی کے شیئر خریدنے کی اجازت نہ ہوگی، جو حرام کاروبار کرتی ہے۔

دوسری شرط: قیمت میں کمی بیشی نہ ہو

دوسری شرط یہ ہے کہ شیئر کی قیمت میں کمی بیشی نہ ہو، جتنے روپے کا شیئر ہے، اتنے ہی میں خرید و فروخت ہو۔ مثلاً ۱۰/- روپے کا شیئر ۱۰/- ہی روپے میں خریدا یا بچا جائے، ۱۱/- یا ۹/- روپے میں اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ شیئرنوٹ کی طرح ہے، جس طرح ۱۰/- روپے کا نوٹ ۱۰/- ہی روپے میں فروخت کیا جاسکتا ہے، اس سے کم یا زیادہ میں نہیں، اسی طرح شیئر بھی اتنے ہی میں فروخت

کیا جاسکتا ہے، جتنے کا وہ ہے، ورنہ سود لازم آئے گا۔

قیمت میں کمی بیشی کے جواز کی صورت

البتہ ایک صورت ایسی ہے، جس میں شیر کو کمی بیشی کے ساتھ خریدا یا بچا جاسکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کمپنی نے شیرز کے ذریعے جمع ہونے والی رقم سے فکسڈ اثاثے (Fixed Assets) خرید لیے ہوں۔ مثلاً عمارت بنائی یا خریدی، یا خام مال لے لیا یا کچھ فرنچر خرید لیا، یا مشنری خریدی۔ ایسی صورت میں اس کمپنی کا شیر کمی بیشی کے ساتھ خریدنا یا بچنا جائز ہے اور اگر کمپنی کے پاس صرف سیال اثاثے (Liquid Assets) ہوں یا ابھی کمپنی کا کوئی قانونی وجود نہ ہو اور اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیرز فروخت ہوتے ہوں، تو اس قسم کی کمپنی کے شیرز کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا جائز نہیں۔

اور جواز کی جو صورت عرض کی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ روپیے کے بد لے روپیے لینے دینے کی صورت میں تو شرط ہے، کہ دونوں طرف روپیے برابر ہوں، کم یا زیادہ نہ ہوں؛ لیکن روپیے کے بد لے اسباب و اثاثہ دینے لینے کی صورت میں یہ شرط نہیں، کہ جتنے کا سامان و اثاثہ ہے، اتنے ہی میں فروخت کیا جائے؛ بل کہ اس میں کمی بیشی درست ہے۔ مثلاً ایک آدمی ۱۰/ روپیے میں کپڑا خریدا اور دوسرے کے ہاتھ ۲۰/ روپیے میں فروخت کیا، تو بلا تأمل جائز ہے۔

جب یہ واضح ہوا، تو اب زیر بحث مسئلے پر غور کیجیے، کہ ایک شخص کے پاس کسی کمپنی کا ۱۰/ روپیے کا شیر ہے اور کمپنی نے اس میں سے ۸/ روپیے مختلف سامان و اثاثے خریدنے میں خرچ کر دیئے اور ۸/ روپیے نقد کے بہ جائے سامان و اثاثے کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اب یہ شخص اپنا وہ شیر، دوسرے کو بیس ۲۰/ روپیے میں

فروخت کر دے تو جائز ہے اور یوں کہا جائے گا، کہ شیئر میں جود و روپیے نقد ہیں، اس کے بد لے دور و روپیے ہو گئے اور ۸/ روپیے کا جو سامان واٹا شہ کمپنی میں ہے، اس کے بد لے ۱۸/ روپیے ہیں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے فقہاء نے لکھا ہے:

”تلوار کی مٹھی چاندی کی ہوا اور اس کو مثلاً تین تولہ چاندی میں فروخت“

کیا جائے، جب کہ مٹھی کی چاندی تین تولہ سے کم ہو، تو جائز ہے۔“

کیوں کہ چاندی کے بد لے چاندی کا لین دین ہو، تو اس میں برابری شرط ہے؛ مگر چاندی کے بد لے تلوار میں برابری شرط نہیں، لہذا یہاں یوں کہا جائے گا کہ دو تو لے چاندی کے بد لے دو تو لے چاندی ہو گئی اور باقی ایک تو لے کے بد لے تلوار ہے۔

فقہاء نے یہ جزئیہ لکھا ہے:

”من باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم و دينار جاز،“

و كانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم“ (۱)

یہ جزئیہ اور اوپر ذکر کردہ جزئیہ، زیر بحث مسئلہ کی فقہی نظر ہے، لہذا ۱۰/ روپے کے شیئر کو ۲۰/ میں یا اس سے کم و بیش میں فروخت کرنا؛ اس صورت میں جائز ہوگا۔ مگر یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی وقت نقدر قم یا واجب الوصول قرضہ، شیئر کی اصل قیمت مثلاً ۱۰/ روپے سے زیادہ ہو جائے یا اس کے برابر ہو، تو اس شیئر کو ۱۰/ روپے سے کم میں فروخت کرنا جائز نہ ہوگا۔ اگر چہ اس شیئر کی رقم سے اٹا شہ بھی خرید کر دہ موجود ہو اس کی تفصیل و تشریع یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کمپنی کا شیئر ۱۰/ روپے میں خریدا اور کمپنی ترقی کرتی رہی، کمپنی نے اس ۱۰/ روپیہ سے مشتری خریدی، پچھے عمارت خرید لی، پچھے خام مال لے لیا اور کچھ نقدر قم باقی رہی، کاروبار کی ترقی سے خوب نفع

(۱) الجوهرة النيرة: ۵۹، ۲: الهدایۃ: ۳/۵۹

ہوا اور یہ ۱۰٪ روپے کا شیئر کمپنی کی مالیت کے پیش نظر ۳۰٪ روپے کا ہو گیا اور اس ۳۰٪ میں سے ۲۰٪ تو مشتری و دیگر سامان میں لگے ہوئے ہیں اور ۱۰٪ روپے نقد کی شکل میں موجود ہیں، تو اب یہ شخص اپنا شیئر ۱۰٪ سے زیادہ میں تونچ سکتا ہے، لیکن ۱۰٪ سے کم میں نہیں تونچ سکتا؛ کیوں کہ ۱۰٪ کی جگہ ۹٪ روپے میں شیئر کا بچنا سود ہو جانے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اسی طرح کمپنی کا واجب الوصول قرضہ ہو اور اس شخص کی رقم سے مثلاً ۱۰٪ روپے اس قرضے میں لگے ہوئے ہوں، تو اب اس کو ۱۰٪ روپے سے کم میں اپنے شیئر کا فروخت کرنا جائز نہیں اور وجہ وہی ہے، جو اور پر عرض کی گئی۔

تیسرا اور چوتھی شرط

جو کمپنیاں حلال کاروبار کرتی ہیں؛ لیکن ضمنی طور پر سودی لین دین میں بھی ملوث ہوتی ہیں، ایسی کمپنیوں کا شیئر خریدنا؟ اس شرط کے ساتھ جائز ہے
 (۱) اس سودی لین دین کے خلاف آواز اٹھائے۔

(۲) اور جو سودی رقم اس لین دین کے نتیجے میں اس شخص کے حصے میں آئے اس کو معلوم کر کے، بلا نیتِ ثواب صدقہ کر دے۔

ان دونوں شرائط کو، ہم نے بڑی تفصیل سے اوپر پیش کر دیا ہے؛ الہذا اعاد کی ضرورت نہیں۔

قبضے سے پہلے شیئر زکی بیع

یہاں تک کی اہم بحث کے بعد ایک اہم سوال زیر بحث ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات شیئر کا خریدار شیئر خرید لیتا ہے؛ مگر شیئر اس کے نام پر منتقل نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا، جس کو (Delivery) کہا جاتا ہے اور اس ڈیلیوری سے قبل ہی کسی

اور کو وہ فروخت کر دیتا ہے اور آج کل اس طرح کا کاروبار اس قدر تیزی کے ساتھ جاری ہے، کہ معلوم کر کے جیرانی ہوتی ہے۔ ایک شخص شیئر خریدتا ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی آدمی سے یہیں بیٹھے اپنا شیئر چند لمحوں میں فروخت کر دیتا ہے اور اس سلسلے میں انٹرنیٹ کا ایک خاص اور اہم روول ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ صورت شرعاً جائز ہے؟

اس سلسلے میں شرعی اصول و ضابطہ یہ ہے، کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو، اس کی بع جائز نہیں، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

« لا تبع ما ليس عندك » (۱)

(جو چیز تیرے پاس نہ ہوا اس کی بع ج نہ کر)

لہذا جب تک کوئی چیز اپنے قبضہ میں نہ آجائے، اس وقت تک اس کو کسی اور کو بیچنا جائز نہیں، البتہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قبضہ کبھی تو حسی طور پر ہوتا ہے اور کبھی حکمی طور پر، حسی قبضہ تو معلوم ہے اور حکمی قبضہ یہ ہے کہ چیز اپنی ضمانت میں آجائے اور اس کے نفع و نقصان کی ذمہ داری اپنے اوپر آجائے۔

اس اصول کے بعد یہ دیکھیے کہ کمپنی کے شیئرز پر عام طور پر قبضہ حسی نہیں ہوتا؛ بل کہ قبضہ حکمی ہوتا ہے، کہ شیئر خریدنے والے کے نام اس شیئر کی ضمانت و ذمے داری آجاتی ہے، اس لیے شیئر کو آگے فروخت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے، کہ اس پر حکمی قبضہ ہو جائے۔ اگر شیئر خریدنے والا اس قدر قبضے کا مالک ہو گیا، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے شیئرز کسی کو فروخت کر دے۔

لیکن اگر حسی اور حکمی کسی طرح کا بھی قبضہ نہ ہوا، تو شیئرز کو فروخت کرنا جائز نہیں

(۱) الترمذی: ۱۱۵۳، النسائی: ۲۵۳۳، أبو داود: ۳۰۳۰، أحمد: ۷۴۷۳

اور آج انٹرنیٹ کے ذریعے جو شیئرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ عموماً اسی قسم کی ہے، کہ نہ وہ شیئر رہنمانت میں آتا ہے اور نہ اس کے نام پر اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے؛ مگر وہ کئی ہاتھ بدل چکا ہوتا ہے، یہ شرعاً کسی طرح جائز نہیں اور صریح حدیث رسول کی خلاف ورزی ہے۔

دلال یا وکیل کی بیع کا حکم

یہاں ایک بات یہ جان لینا چاہیے، کہ شیئرز کی خرید و فروخت ایک تو ان لوگوں کے مابین ہوتی ہے، جو خود آپس میں لینا دینا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک کو بالع (بیچنے والا) اور دوسرے کو مشتری (خریدنے والا) کہا جاتا ہے؛ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کہ خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی تیراش شخص دلائی کرتا ہے اور یہ صورت کمپنیوں کے کاروبار میں بھی رائج ہے اور اس کی بھی دو شکلیں ہیں: ایک یہ کہ خود کوئی کمپنی کسی کو اپنا وکیل و دلال مقرر کرتی ہے، جو کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسرے یہ کہ کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر کسی کو اپنا وکیل و دلال مقرر کرتا ہے۔

بہ ہر صورت اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وکیل و دلال کے ذریعے خریدنے والا دراصل کمپنی یا اس شیئر ہولڈر سے خرید رہا ہے، جس نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، اس لیے کمپنی کے وکیل سے خریدنے والے کو یہ دیکھ لینا کافی ہے، کہ کمپنی کا وجود بھی ہے یا نہیں؛ کیوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کا وجود ہی نہیں ہوتا اور اس کے شیئرز مارکیٹ میں فروخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں؛ مگر اس میں وہی خرابی ہے، جو ابھی ذکر کی گئی کہ جو چیز موجود نہیں، اس کی بیع لازم آتی ہے؛ اس لیے اگر کمپنی کا وجود ہوا اور اس کے شیئرز بکتے ہوں، تو دلال کے ذریعے خریدے جاسکتے ہیں اور یہ جائز ہو گا اور اگر شیئر کسی شیئر ہولڈر کے وکیل سے خریدنا ہو، تو یہ تحقیق کر لینا ضروری

ہے، کہ اس شیئر ہولڈر کے نام پر یہ شیئر ہے یا نہیں؟ اگر ہے، تو اس کے خریدنے کی اجازت ہوگی۔

شیئرز اور سٹہ بازی

شیئرز کی خرید و فروخت کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ زیر بحث آتا ہے، کہ آج کل ”شیئرز مارکیٹ“ میں بعض لوگ محض کمپیٹل گین کھلنے کے مقصد سے شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور کاروبار میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا؛ بل کہ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کم داموں پر بکنے والے کچھ شیئرز خرید کر دام کے بڑھ جانے پر فروخت کر دیں گے اور اپنا روپیہ بنالیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح اور اس مقصد کے تحت شیئرز کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شکل اس صورت کے مشابہ ہے، جس کو فقہائے کرام نے ”بیع العینة“ سے تعبیر کیا ہے اور اس کے جواز و عدم جواز کے بارے میں فقہائی رائے میں مختلف ہیں۔

پہلے یہ سمجھیے کہ ”بیع العینة“ کیا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کی ایک معروف و مشہور صورت یہ ہے کہ کسی کورقم کی ضرورت تھی اور اس نے کسی سے قرض مانگا؛ مگر اس نے اس خیال سے کہ قرض میں مجھے کوئی نفع نہیں ملے گا، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ میں تجھے ایک کپڑا امثلاً ۵۰۰ روپیے میں دیتا ہوں، جس کی قیمت بازار میں چار سو روپیے ہے اور تو اس کو بازار میں چار سو روپیے پر فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لے اور بعد میں میرے اس کپڑے کی قیمت پانچ سو ادا کر دینا؛ اس صورت سے اس آدمی کو ۱۰۰ روپیے نفع حاصل ہو گیا۔

امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ اس صورت کو جائز کہتے ہیں اور اکثر فقہاء کرام نے اس صورت کو حرام قرار دیا ہے، امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام محمد رحمہما اللہ کا یہی مسلک ہے، حتیٰ کہ امام محمد رحمہما اللہ نے اس کی بڑی نہ مرت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ صورت سودخوروں نے ایجاد کی ہے۔ (۱)

اس لیے جمہور کے قول کے مطابق شیئر خرید کرنے کی یہ صورت ناجائز ہے؛ بل کہ جیسا کہ امام محمد رحمہما اللہ نے فرمایا کہ یہ سود کھانے کا ایک طریقہ و سیلہ ہے؛ اس لیے یہ درست نہیں۔

شیئر کارہن

شیئر کی خرید و فروخت کے مسئلے کے بعد، اس کے رہن رکھنے کا مسئلہ بھی قابل غور ہے، کہ کیا شیئر کو رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں فقہاء کی ان تصریحات کو سامنے رکھا جانا چاہیے، ایک تو یہ کہ فقہاء نے مشاع چیز کے رہن کو نادرست قرار دیا ہے، چنانچہ یہ بات متعدد فقہی کتب میں ملے گی: لا يصح رهن المشاع۔ (۲)

اور ”الأشباه“ میں ایک اصول کے طور پر یہ بتایا ہے کہ:

”ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة المشاع
والمشغول والمتصل والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده
غير المدبر فيجوز بيعها لا رهنها.“ (۳)

(۱) المبسوط: ۱/۱۲، الشامي: ۵/۲۷۳، الموسوعة الفقهية: ۹/۹۶

(۲) الہدایۃ: ۳/۵۰۸، البحر الرائق: ۸/۲۷۵، مبسوط السرخسی: ۲۱/۶۹

(۳) الدر المختار مع الشامي: ۲/۹۰۹

(جو چیز بیع کو قبول کرتی ہے، وہ رہن کو بھی قبول کرتی ہے، سوائے چار قسم کی چیزوں کے: ایک مشاع، دوسرے وہ چیز، جو رہن رکھنے والے کے حق میں مشغول ہو، تیسرا وہ جو کسی اور چیز سے متصل ہوا اور چوتھے وہ غلام، جس کی آزادی کسی غیر موجود شرط پر متعلق ہو، ان سب کی بیع تو جائز ہے؛ لیکن ان کا رہن رکھنا جائز نہیں۔)

اور یہ ظاہر ہے کہ کمپنی میں حصہ داروں کا بہت سامال مشاع ہے۔ دوسرے یہ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ شرکت عنان کا وہ شریک، جو بیع و شرا کا معاملہ نہیں کرتا، اس کو رہن رکھنے کا حق نہیں۔ ”الفقه علی المذاهب الأربعة“ میں احناف کا مسلک بتاتے ہوئے لکھا ہے:

”و منها: أنه ليس لشريك العنان الذى لم يباشر البيع“

آن یرہن عینا من مال الشرکة.“ (۱)

البنت و میراثه امام شافعی و امام مالک و امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک شی مشاع کا رہن رکھنا جائز ہے۔ (۲)

بانڈز کی خرید و فروخت

بانڈز کی حیثیت جیسا کہ عرض کیا گیا، ”براءت سلطانی“ کے مانند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ فقہاء نے ”براءت سلطانی“ (شاہی پروانہ) اور ائمہ کے مقررہ حصے (خطوط ائمہ) کی بیع پر کلام کیا ہے اور یہاں عبارات میں کچھ اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔

(۱) الفقه علی المذاهب الأربعة: ۳/۸۷ (والله عالم)

(۲) دیکھو: المحلی لابن حزم الظاهري: ۸/۸۸، بدایۃ المجتهد: ۲/۲۰۵

”براءت سلطانی“ کے سلسلے میں ”الأشباء والنظائر“ میں ہے:

”بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح“.

اور ”در مختار“ میں ہے:

”بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف حظوظ الأئمة.“

اور البحر الرائق میں ہے:

”شراء البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف حظوظ الأئمة“.(۱)

ان عبارات میں ”براءت سلطانی“ کی بیع کا عدم جواز بیان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ فقہا کرام نے یہ لکھی ہے، کہ براءت میں لکھی ہوئی چیز چوں کہ ابھی متعلقہ شخص کو حاصل نہیں ہوئی ہے؛ اس لیے یہ غیر مملوک شی کی بیع ہے، جو جائز نہیں۔(۲)

مگر ہم جس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، اس میں عدم جواز کی علت پائی نہیں جاتی، کیوں کہ جیسا کہ ظاہر ہے با ونڈ سند قرض ہے اور یہ قرض کوئی معصوم چیز نہیں، لہذا اس کو براءت سلطانی کی بیع پر قیاس کر کے، اس کی بیع کو ناجائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی بات کی طرف ہم نے بانڈ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا۔

اور ہما مسئلہ حظوظ ائمہ کا، تو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حظوظ (مقررہ حصے) کی بیع کے سلسلے میں ”صیر فیہ“ کے مؤلف سے پوچھا گیا، تو فرمایا کہ جائز نہیں۔(۳)

(۱) دیکھو: الأشباء : ۲۸۲/۲، الدر المختار : ۵۱۶/۳، البحر الرائق : ۵/۲۸۰

(۲) الأشباء : ۲۸۰/۵، البحر الرائق : ۲۸۵/۲، الدر المختار : ۳/۵۱۷

(۳) الشامي : ۳/۵۱۶

اور ”الأشباء“ ”الدر المختار“ ”البحر الرائق“ میں اس کی بیع کے جواز کی تصریح کی گئی ہے۔^(۱)

مگر یہ بھی ہمارے مسئلے سے متعلق نہیں؛ کیوں کہ مقررہ حصہ بینچا الگ بات ہے اور سندا کا بینچا الگ بات ہے؛ اسی لیے بعض کتابوں میں حظوظ ائمہ کی جگہ خطوط ائمہ لکھا ہے اور خطوط ائمہ کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے۔^(۲)

ایک اور چیز ہے، جس کو اس مسئلے کی نظریہ کہا جاسکتا ہے، وہ ہے جامکیہ کی بیع کا مسئلہ۔ جامکیہ وہ مقررہ حق یا حصہ ہے، جو اوقاف کی جانب سے اصحاب و ظالف کو ملتا ہے، اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، بایس وجہ کہ یہ ”بیع الدین من غير من هو عليه“ (دین کو اس شخص کے ہاتھ بینچنا، جس پر دین نہیں) ہے اور یہ ناجائز نہیں۔^(۳) ان سب کے علاوہ اس مسئلے کی ایک واضح نظریہ در صحابہ میں بھی ملتی ہے، چنانچہ امام مسلم اور امام البیهقی رحمہمَا اللہُ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت کیا ہے:

«إنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت؟ أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفي قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.»^(۴)

(حضرت ابو ہریرہ رض نے مروان بن الحکم سے فرمایا، کہ کیا تم نے سود کو

(۱) الأشباء: ۲/۲۸۵، الدر المختار مع الشامي: ۳/۵۱۶، البحر الرائق: ۵/۲۸۰

(۲) الشامي: ۳/۵۱۷

(۳) الأشباء: ۳/۱۳، الشامي: ۳/۵۱۷

(۴) مسلم: ۱۵۲۸، سنن البیهقی: ۶/۳۱، مسنند أبي عوانة: ۳/۲۸۳

حلال کر دیا ہے؟ مروان نے کہا کہ میں نے کیا ایسا کام کر دیا؟ ابو ہریرہ رض نے فرمایا کہ تم نے چیکوں کی بیع کو حلال کر دیا، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے سے پہلے کھانے کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ پھر مروان نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان چیکوں کی بیع سے منع کیا۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھرہ دار لوگوں کے ہاتھوں سے ان کو لے رہے تھے۔)

اور امام احمد اور امام مالک رحمہما اللہ نے اپنی روایت میں یہ بھی بتایا ہے: ”مروان کے زمانے میں جب اس کا رواج ہوا، تو لوگوں نے مروان سے ان کی بیع کی اجازت لی اور اس نے اجازت دے دی، تب حضرت ابو ہریرہ رض نے (اور مؤٹا امام مالک میں یہ بھی ہے، کہ حضرت زید بن ثابت رض اور ایک صحابی نے) اس پر مروان سے گفتگو کی۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ نے حدیث رسول سے استدلال کرتے ہوئے چیک کی بیع کو ناجائز قرار دیا ہے اور ”مصنف ابن ابی شیبہ“ میں حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عامر سے بھی چیک کی بیع کا عدم جواز وارد ہوا ہے۔ (۲)

مگر اس مسئلے میں اور صحابہ کے مذکورہ قول کی تشریح میں علماء کی دو رائیں ہیں، امام نووی رحمہما اللہ نے شرح مسلم میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے:

” وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثاني منعها أخذًا بظاهر قول أبي هريرة وحجته.“ (۳)

(۱) مسنند احمد: ۳۲۹/۲، مؤٹا مالک: ۲۶۳

(۲) دیکھو: مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۳/۲

(۳) شرح مسلم: ۶/۲

(اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، ہمارے اصحاب اور دیگر علماء کے نزدیک اس کے بیع کا جواز ہے اور دوسرا قول حضرت ابو ہریرہ کے قول اور ان کی دلیل سے احتجاج کرتے ہوئے اس کی منسوخیت کا ہے۔)

اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجوزین کی طرف سے حضرت ابو ہریرہ کے قول و دلیل میں تاویل نقل کی ہے، کہ یہ عدم جواز اس صورت میں ہے، جب کہ چیک وصول کرنے سے قبل اس کی بیع کر دی جائے اور اگر کوئی شخص چیک وصول کرنے کے بعد چیک کی بیع کرے، تو یہ ناجائز نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ کاغذ اس شخص کی ملکیت میں ہے اور صحابہ نے جو منع کیا ہے، وہ پہلی صورت سے منع فرمایا ہے اور انہوں نے موطا کی روایت سے اس پر استدلال کیا ہے؛ کیوں کہ اس میں یہ ہے:

”إِنَّ صَكْوَكَ الْمَرْوَانِ فِي زَمْنِ مَرْوَانٍ بِطَعَامٍ، فَتَبَاعِيْعُ“

الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها“ (۱)

(کہ لوگوں کی خاطر مروان کے زمانے میں کھانے کی چیزوں کا رواج ہوا اور لوگ ان کو وصول کرنے سے پہلے ہی ان کو بیچنے لگے) صحابہ نے اس صورت سے منع فرمایا تھا۔

یہ ساری شکلیں سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ اس کی پیشتر نظیروں میں فقہا نے عدم جواز کا حکم کیا ہے اور صحابہ سے بھی بہ نظر یہی ثابت ہے؛ اس لیے بانڈز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے؛ اس لیے کہ یہ جامکیہ کی طرح ”بیع الدین من غير من عليه الدين“ (دین کو اس شخص کے ہاتھ بیچنا، جس پر دین نہیں) ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ صحابہ کے قول میں

(۱) شرح مسلم: ۲/۶

تاویل کی ہے؛ مگر جمہور علماء اس کا ظاہری مطلب ہی لیتے ہیں۔

بانڈز کارہن

اب رہا مسئلہ بانڈز کے رہن رکھنے کا، تو یہ درست ہے؛ کیوں کہ رہن کا مقصود، اعتماد و ثقہ پیدا کرنا ہے اور یہ بات یہاں حاصل ہو جاتی ہے؛ نیز رہن کی تعریف بھی اس پر صادق آتی ہے، کہ رہن کسی شی گوایسے حق کے عوض محبوس کرنا ہے، کہ اس حق کا وصول کرنا اس شی ممکن ہو جیسے دیوں ہیں۔

”هدایہ“ میں ہے:

”الرہن ... فی الشریعة جعل الشی محبوساً بحق

يمکن استیفاء من الرہن كالدیون.“ (۱)

اور یہاں بانڈز بھی سند قرض ہیں، لہذا ان سے اس حق کا وصول کرنا ممکن ہے،
اللہ اعلم



(۱) الہداية: ۳/۵۰۰

احکام زکاۃ

جدید حالات کی روشنی میں

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

احکام زکاۃ

التمہید

زمانے کی نیرنگیاں اور اس میں روز بہ روز بل کہ لمحہ بہ لمحہ ہونے والی تبدیلیاں و ترقیاں، انسان کی زندگی میں نئے حالات و نئے مسائل کی پیداوار کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اور اس کی وجہ سے شرعی مسائل میں بھی اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ما قبل میں موجود نہیں تھے اور علماء کرام کو ان پر غور و فکر اور قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کے ذخیرہ میں تدبر و تفہم کی راہ سے ان کے حل کی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔

یہ بات فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اسلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے اصول و ضوابط اپنے اندر اس قدر لچک رکھتے ہیں کہ زمانے اور حالات کی ان تبدیلیوں اور ترقیوں میں بھی ایک مسلمان کو وہ اسلام کی سچی راہ دکھاتے ہیں اور حکم رباني و منشاء نبوی کو معلوم کر لینے میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے متعدد جدید مسائل پر اسلامی فقہ کے روشن و تابناک اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کے علماء نے کام کیا اور ان کا حل نکالا ہے۔

زکاۃ — جیسا کہ معلوم ہے۔ اسلام کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اور مسلمان اس کو اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنے میں راحت و خوشی محسوس کرتے ہیں؛ مگر اس سلسلہ میں بھی بعض جدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں جن کا حل نہایت ضروری ہے۔ اسی کے پیش نظر ”مجمع الفقهاء الاسلامی الہند“ کی جانب سے اس سلسلہ میں ایک سوال نامہ برائے مقالہ اس مجلس کے مجوزہ پانچویں فقہی سمینار بمقام اعظم گڑھ موئیخہ: ۳۰ راکتوبر تا ۲ نومبر ۱۹۹۲ء کے لئے آیا تھا، اور احقر نے اس کا جواب ایک مقالے کی شکل میں لکھا تھا، جو مجلس کی جانب سے شائع ہونے والے ”محلہ فقہ اسلامی“ جلد پنجم حصہ دوم میں شائع شدہ ہے۔ ذیل کی سطور میں وہی مقالہ مختصر سی ترمیم اور اضافہ اور بعض مبہم مقامات کی توضیح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، نیز ایک مقام پر اپنی ایک رائے سے رجوع کر کے دوسری رائے اختیار کی ہے۔

محور اول

اموال زکاۃ اور ان پر وجوب زکاۃ کی شرائط

احکام زکاۃ کے سلسلے میں یہ بحث کہ اموال قسم کے اموال پر زکاۃ واجب ہوتی ہے؟ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح ان اموال پر وجوب زکاۃ کی شرائط کی بحث بھی نہایت اہم ہے۔

اموال زکاۃ

جہاں تک اموال زکاۃ کا مسئلہ ہے، اس میں قرآن و حدیث میں کوئی تحدید نہیں آئی ہے؛ البتہ قرآن و حدیث میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ جن اموال پر زکاۃ فرض ہے، وہ چند قسموں پر مشتمل ہیں:

(۱) چوپائے جانور (اس سے مراد اونٹ، گائے اور بکری ہے) اور امام ابوحنیفہ اور امام زفر رحمہما اللہ کے نزدیک اس میں گھوڑے بھی داخل ہیں۔

”الفقه علی المذاہب الاربعہ“ میں ہے:

”النعم: وہی الإبل والبقر والغنم، ثم وجوب الزکاة

فی الخيل إنما هو قول أبي حنيفة و زفر“ (۱)

(۲) سونا چاندی (اور اسی میں مروجہ نقدی داخل ہوگی)

”الفقه علی المذاہب الاربعہ“ میں ہے:

(۱) دیکھو الفقه علی المذاہب الاربعہ: ۱/۵۲۱، الجوهرۃ النیرۃ: ۱/۱۳۵

”جمهور الفقهاء يرون وجوب الزکاة في الأوراق المالية؛ لأنها حل محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زکاة؛ ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزکاة فيها وخالف الحنابلة فقط“ (۱)

(۳) سامان تجارت

(۴) معدن ورکاز

(۵) کھیتی اور پھل

ان پانچ قسم کے مالوں کے سوا کسی مال پر زکاۃ نہیں ہے۔ (۲)

شرائط وجوب زکاۃ

البتہ ان اموال پر زکاۃ کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ پائی جائیں تو ان پر زکاۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ ان شرائط کی تفصیل حسب ذیل ہے:

پہلی شرط: ملکِ تام

پہلی شرط یہ ہے کہ مال پر ملکیت تامہ حاصل ہو، اگر ملکیت تامہ حاصل نہیں تو زکاۃ واجب نہ ہوگی۔ اور ملکیت تام کا مطلب یہ ہے کہ مال مملوک بھی ہو اور قبضہ میں بھی ہو، اگر مملوک تو ہے، مگر قبضہ میں نہیں یا قبضہ میں ہے، مگر مملوک نہیں تو وہ مال ایسا ہے جس پر

(۱) الفقه على المذاهب الأربعة: ۵۲۹

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: ۵۲۱

ملکیت تامہ حاصل نہیں ہے۔

علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”وسبیه (أى سبب افتراضها) ملك نصاب

حولی تام“ (۱)

علامہ شامي نے لکھا ہے:

”لأن المراد بالتام المملوك رقبةً ويداً“ (۲)

اور علامہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب کنز الدقائق کے قول ”ملک“ پر لکھا ہے:

”وأطلق (أى صاحب الكنز) الملك فانصرف الى
الكامل وهو المملوك رقبةً ويداً.“ (۳)

ان تصریحات سے واضح ہوا کہ ملک تام سے مراد مال کا رقبہ و یادوں طرح مملوک ہونا ہے اور وجوب زکاۃ کی اسی شرط کے پیش نظر فقہاء نے مال مکاتب پر زکاۃ نہ ہونے کی تصریح کی ہے، اسی طرح گم شدہ مال اور مالِ مغضوب جس پر کوئی بینہ نہ ہو اور وہ مال جو کسی جنگل میں مدفون ہو، ان سب پر بھی زکوۃ نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ سب اگر چہ رقبہ مملوک ہیں، مگر قبضہ میں نہیں ہیں۔

دریخانہ روشنی میں ہے:

”خرج مال المكاتب أى خرج بالقييد به لأن المراد
بالتام المملوك رقبةً و يداً وملك المكاتب ليس بتام
لوجود المنافي قلت (والسائل الشامي): وخرج

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۱۷۲/۳

(۲) الدر المختار مع الشامي: ۱۷۵/۳

(۳) البحر الرائق: ۳۵۵/۲

أيضا نحو المال المفقود، والساقط، ومغصوب لا بينة عليه و مدفون في برية فلا زكاة عليه؛ لأنه وإن كان مملوكا له رقبة لكن لا يد له عليه“ (۱)

خرید کردہ غیر مقبوض مال پر زکاۃ

اسی سے اس سوال کا جواب بھی نکل آیا کہ مال تجارت جس کی قیمت پیشگی ادا کر دی گئی ہو؛ لیکن مال کی وصولی اب تک نہیں ہوئی، اس خرید کردہ غیر مقبوض مال پر زکاۃ ہے یا نہیں؟

جواب ظاہر ہے کہ اس پر زکوۃ نہیں ہے، وجہ وہ ہی ہے کہ یہ مال اگرچہ خریدار کی ملکیت میں آگیا، مگر اس کے ہاتھ اور قبضہ میں نہیں آیا ہے؛ لہذا یہ خریدار کی ملک تام نہیں ہے جو وجوب زکاۃ کی شرط ہے۔

علامہ ابن حییم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جزئیہ کی تصریح کی ہے:

”وأطلق الملك، فانصرف إلى الكامل، وهو المملوك رقبةً ويداً، فلا يجب على المشتري فيما اشتراه للتجارة قبل القبض..... لعدم اليد“ (۲).

پیشگی ادا کردہ قیمت پر زکاۃ

اسی طرح مال تجارت کی پیشگی ادا کردہ قیمت کی زکاۃ، خریدار پر نہیں ہوگی؛ کیوں کہ خریدار نے جب باع کو پیشگی قیمت دے دی، تو وہ اس کی ملک سے نکل کر باع کی ملک میں داخل ہو گیا؛ لہذا خریدار پر اس کی زکوۃ نہ ہوگی۔

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۳/۱۷۵

(۲) البحر الرائق: ۲/۳۵۵

البحر الرائق میں ہے :

”ولَا زَكَاةً عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لَأَنَّ الشَّمْنَ زَالَ عَنْ مُلْكِهِ“

البائع“。(۱)

ابتدائی پر اس کی زکاۃ لازم ہوگی جب کہ اس پر ایک سال گذر جائے، وہ ظاہر۔

اذوانس یا ڈپوزٹ پر زکاۃ

تیسرا مسئلہ اسی ضممن میں یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ کرایہ کے دکانوں اور مکانوں پر جو ”اذوانس“ دیا جاتا ہے اور عقد اجارہ کے ختم یا فتح ہو جانے پر کرایہ دار کو واپس کیا جاتا

ہے، اس پر زکاۃ ہے یا نہیں اور ہے تو کس پر ہے، کرایہ دار پر ہے، یا مالک مکان پر؟

یہ تو ظاہر ہے کہ اذوانس کی رقم مالک مکان کی ملکیت میں نہیں ہے؛ اگرچہ فی

الحال اس کا اس پر قبضہ ہے؛ لہذا مالک مکان پر اس رقم کی زکاۃ عائد نہیں ہوتی۔ اب رہا

یہ کہ کرایہ دار جو کہ اس رقم اذوانس کا مالک ہے، اس پر اس کی زکاۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اس سلسلہ میں پہلے اس رقم کی نوعیت متعین کرنا چاہئے، اس رقم کے متعلق متعدد

احتمالات ہیں:

(۱) ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ قرض ہو؛ مگر تعامل اور عرف اس کا رد کرتے

ہیں؛ کیوں کہ قرض میں میعاد مقرر نہیں ہو سکتی، فقہاء نے لکھا ہے:

”کُلِّ دِينٍ حَالٌ إِذَا أَجْلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤْجَلاً إِلَّا الْقَرْضُ،“

فَإِنْ تَأْجِيلَهُ لَا يَصْحُ.“ (۲)

اور جب چاہے واپس کیا جاسکتا ہے اور اذوانس کی رقم میں یہ بات مفقود ہے؛

(۱) البحر الرائق: ۲/۳۵۷

(۲) الہدایہ: ۲۰/۳، البحر الرائق: ۲۰۲/۲، فتح القدیر: ۶/۲۸۲

الہدائیہ قرض نہیں ہے۔

(۱) دوسرا احتمال یہ ہے کہ امانت یا ودیعت ہو، مگر یہ احتمال بھی اس لئے صحیح نہیں کہ امانت اگر بغیر تعدی کے تلف ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آتا۔

چنانچہ صاحب ”ہدایہ“ لکھتے ہیں:

”الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها.“ (۱)

امام ابن قدامة حنبلی فرماتے ہیں:

”وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغیر تفريط من المودع فليس عليه ضمان، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أم لم يذهب، وهذا قول أكثر أهل العلم.“ (۲)

علام ابواسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”والوديعة أمانة في يد المودع، فإذا تلفت بغیر تفريط لم تضمن؛ لما روى عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه . . . وهو إجماع فقهاء الامصار.“ (۳)

مگر اذون کے سلسلہ میں عرف اور عادت سے ثابت ہے کہ یہ رقم ہر صورت میں واجب الادا ہوتی ہے؛ خواہ وہ تلف ہی کیوں نہ ہو جائے اور خواہ تعدی کی صورت ہو یا نہ ہو؛ الہدائیہ کو امانت و ودیعت بھی نہیں کہہ سکتے۔

(۱) الہدائیہ : ۲۷۳/۳

(۲) المغني : ۲۵۷/۹

(۳) المهدب : ۳۸۶/۳

(۳) تیر احتمال اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ رقم عاریت ہو؛ لیکن یہ بھی صحیح نہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ عاریت میں بھی مالک کو ہر وقت رجوع کا حق ہوتا ہے، اور اڈوانس میں یہ بات نہیں ہے۔ دوسرے عاریت بھی مثل و دیعت امانت ہے، جس کے بغیر تعداد ہلاک و تلف ہو جانے سے ضمان لازم نہیں آتا۔ صاحب ہدایہ اپنی کتاب ”بداية المبتدى“ میں لکھتے ہیں:

”وللمعیر أن يرجع في العارية متى شاء، والعارية أمانة“

ان هلکت من غير تعدد لم يضمن.“ (۱)

اور یہ ظاہر ہے کہ اڈوانس کی رقم ہلاک و تلف ہو جانے کی صورت میں بھی واجب الاداشمار ہوتی ہے۔ تیسرے علمائے لکھا ہے کہ عاریت اگر دراهم و دنانير یا مکملی یا موزونی یا محدود شے ہو تو وہ قرض کے حکم میں ہوتی ہے۔
چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے:

”و عارية الدرارهم و الدنانير والمكيل والفلوس
والموزون والمحدود قرض.“ (۲)

لہذا اڈوانس کی رقم کو عاریت کہنے کی صورت میں بھی وہ قرض ہی کہلانے کی اور اور عرض کرچکا ہوں کہ اڈوانس کی رقم کے بارے میں یہ احتمال عرف و عادت کی رو سے صحیح نہیں؛ لہذا اڈوانس کی رقم عاریت میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔

(۴) اس سلسلہ میں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اڈوانس کی رقم رہن ہو اور یہ احتمال کافی حد تک اس رقم اڈوانس پر منطبق ہو سکتا ہے، ایک تو اس لئے کہ شے مر ہوں جس

(۱) بدايه المبتدى: ۱/۲۰۶

(۲) الهدایۃ: ۳/۲۶۵، المبسوط: ۱۱/۱۲۵

طرح مضمون ہوتی ہے، اسی طرح اڈوانس کی رقم بھی مضمون ہوتی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ ”شی مرهون“ کی واپسی جس طرح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ”مرہون بہ“ (دین) کو واپس نہ کیا جائے، اسی طرح اڈوانس کی رقم بھی اس وقت تک واپس نہیں ہوتی جب تک کہ کرایہ دار، گھر یادگار مالک کے حوالے نہ کر دے۔ تیسرا اس لیے کہ رہن میں جس طرح ”شی مرهون“ کو مرتهن کے پاس رکھنے کا مقصد مرتهن کے دل میں وثوق پیدا کرنا ہے، اسی طرح اڈوانس دینے کا بھی یہی مقصد ہے۔

جب یہ واضح ہو گیا کہ اڈوانس کی رقم ”شی مرهون“ کے مشابہ ہے تو اب اس کے بارے میں زکاۃ کا حکم معلوم کرنا آسان ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ”شی مرهون“ اگر مرتهن کے قبضہ میں ہو، تو اس پر زکاۃ نہیں ہے؛ کیوں کہ زکاۃ کے وجوب کی ایک شرط ۔۔۔ جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا۔۔۔ ملک تام ہے اور ملک تام نام ہے مال کے مملوک و مقبوض ہونے کا اور شی مرهون چوں کہ مالک کے قبضہ میں نہیں ہے، اس لیے اس پر ملک تام نہیں؛ لہذا اس پر زکاۃ واجب نہ ہوگی۔

علامہ ابن حبیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”وَمِنْ مَوَانِعِ الْوُجُوبِ الرِّهْنُ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمَرْتَهِنِ“

لعدم ملک الید۔“ (۱)

در مختار و رد المختار میں ہے:

”وَلَا فِي مَرْهُونٍ أَىٰ لَا عَلَى الْمَرْتَهِنِ لِعَدْمِ مَلْكِ الرِّقْبَةِ وَلَا عَلَى الرَّاهِنِ لِعَدْمِ الْيَدِ۔“ (۲)

(۱) البحر الرائق: ۳۵۵/۲

(۲) الدر المختار و رد المختار: ۱۸۰/۳

بالکل اسی طرح اڈوانس کی رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مالک پر؛ کیوں کہ مالک کے قبضہ میں نہیں ہے اور نہ راہن پر؛ اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہی نہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ

مارٹ گنج {MORTGAGE} پر دی ہوئی رقم پر زکاۃ

آج کل ایک معاملہ شہروں میں یہ راجح ہوتا جا رہا ہے کہ گھر کرایہ پر دینے دینے کی جگہ مارٹ گنج {MORTGAGE} پر معاملہ کیا جا رہا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ مالکِ مکان ایک خطریر رقم مثلاً لاکھ دولاکھ روپے لے کر اپنا گھر بلا کرایہ، رقم دینے والے کو ایک مقررہ مدت تک رہنے کے لیے دے دیتا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو رقم دینے والا مکان خالی کر دیتا ہے اور مالکِ مکان اس کی وہ رقم واپس کر دیتا ہے۔

یہ معاملہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس میں شی مرحون سے مرتبہ نفع اٹھا رہا ہے اور یہ حرام ہے، یہاں اس وقت اس کی بحث مقصود نہیں ہے، ہم نے اس پر دوسرے مقام پر کلام کیا ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ اس {MORTGAGE} پر دی ہوئی رقم پر زکاۃ کس کے ذمہ ہے؟ مالکِ مکان پر یا رقم دینے والے پر؟
 یہ صورت بظاہر اس صورت کے مشابہ ہے جس کو فقهاء بیع بالوفا کہتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی زمین کسی کو اس شرط پر بیع دیتا ہے کہ وہ کسی اور کو یہ فروخت نہیں کرے گا، اور بعد میں اس سے وہ خود پہلی قیمت پر خرید لے گا۔ اس کو بھی اکثر فقہاء نے ناجائز کہا ہے، اور اس دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کے سلسلہ میں اختلاف فرمایا ہے:

علامہ شامی نے اس سلسلہ میں تین اقوال ذکر کئے ہیں:

”ایک یہ کہ اس کی زکوٰۃ مالکِ مکان پر ہوگی؛ کیوں کہ یہ رقم اس کی

ملکیت میں داخل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کی زکوۃ مشتری (مکان خریدنے والے) یعنی رقم دینے والے پر ہوگی؛ کیوں کہ وہ خود بھی اس رقم کا اپنے کو مالک سمجھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی زکاۃ دونوں پر ہوگی۔ پھر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اس کی زکاۃ مشتری (رقم دے کر مکان حاصل کرنے والے) پر ہونا چاہیے کیوں کہ یہ صورت بمنزلہ رہن کے ہے؛ للہذا یہ رقم باعث پر دین ہوگی۔^(۱)

ان کی عبارت یہ ہے:

”ينبغي لزومها على المشتري فقط على القول الذى عليه العمل الان من أن بيع الوفاء منزل منزلة الرهن، وعلىه فيكون الشمن ديناً على البائع.“

میں کہتا ہوں کہ زیر بحث ”مارٹ ٹجگ والی صورت“ میں بھی زکاۃ، رقم دینے والے پر ہونا چاہیے، نہ کہ مالکِ مکان پر، کیوں کہ مالکِ مکان تو اس رقم کا مالک نہیں ہے اور وہ رقم اس پر دین ہے جس کا واپس کرنا اس پر لازم ہے اور اس کے برخلاف رقم دینے والا اس کا مالک ہے اور اس کو وہ رقم بعد میں ملے گی؛ کیوں کہ یہ رقم قرض ہے اور قرض پر دی ہوئی وہ رقم جس کی واپسی یقینی ہو، یا اس کی واپسی کا غالب گمان ہو، اس کی زکاۃ قرض دینے والے پر ہوتی ہے۔

مدارس میں جمع شدہ رقم پر زکاۃ

وجوب زکوۃ کی جو شرط یہاں زیر بحث آئی ہے، یعنی ”ملک تام“ اس سے یہ بھی

(۱) الشامي: ۳/۷۷۱

معلوم ہوا کہ جس مال کا کوئی متعین مالک نہ ہو، جیسے مدارس اور اداروں میں جمع شدہ رقومان پر بھی زکاۃ نہیں ہے۔

علامہ یوسف القرضاوی نے ”فقہ الزکاۃ“ میں لکھا ہے:

”ایسا مال جس کا کوئی متعین مالک نہ ہو اس پر زکاۃ نہیں، مثلاً حکومت زکاۃ اور ٹیکس وغیرہ سے جو مال حاصل کرتی ہے، اس پر زکاۃ واجب نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک نہیں ہے؛ بل کہ یہ مال تمام امت کی ملکیت ہے۔“ (۱)
اور بعض علماء نے رقوم مدرسہ و ادارہ پر زکاۃ کے عدم وجوب کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ رقم صدقات واجبہ کی ہے، تو اس لیے اس پر زکاۃ نہیں کہ اگر یہ رقم اصل مالک کے پاس ہی ہوتی اور وہ چندہ میں نہ دیا ہوتا تب بھی اس پر زکاۃ نہیں ہے؛ کیوں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ زکاۃ اگر نہ دیا تو آئندہ سال زکاۃ کی مقدار وضع کر کے باقی مال پر زکاۃ واجب ہوگی۔ (۲)

اور اگر وہ رقم مدعطیہ کی ہو تو مہتمم کی تحویل میں دے دینے کے بعد چوں کہ وہ معطی کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر بھی زکاۃ نہیں اور یہ بمنزلہ غلة الوقف ہے۔
مالِ حرام پر زکاۃ ہے؟

اور اسی شرط و جоб زکاۃ کے نتیجہ میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خالص حرام مال جیسے: رشوت، غصب، سود یا چوری وغیرہ کا مال چوں کہ ملکیت میں نہیں آتا؛ لہذا اس پر بھی زکاۃ نہیں ہے؛ البتہ اس حرام مال کو اولاً ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، جن کا یہ مال ہیا و راگر پتہ نہ چلے تو پھر فقر اپر کل کا کل مال صدقہ کرنا واجب ہے۔

علامہ شامی نے لکھا ہے:

(۱) فقہ الزکاۃ: ۱/۲۷۶

(۲) احسن الفتاوی: ۱/۳۳۱-۳۳۲

”فِي الْقَنِيهِ: لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ نَصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ لِأَنَّ
الْكُلَّ وَاجِبٌ التَّصْدِيقُ عَلَيْهِ، فَلَا يَفِيدُ إِيجَابُ التَّصْدِيقِ
بِعَضِهِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَارِيَّةِ.“ (۱)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حاشیہ ”البحر الرائق“ پر نقل کر کے شربنبلائی سے
یہ بھی نقل کیا ہے:

”وَبِهِ صَرَحَ فِي شَرْحِ الْمُنْظَوِمَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ
ذَمْتِهِ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا وَإِلَّا إِلَى الْفَقَرَاءِ -“ (۲)
غرضِ مالِ حرام خالص واجب التصدق ہے، اور اس پر زکاۃ نہیں ہے اور دی
جائے تو مقبول بھی نہیں ہے۔

حدیث میں ہے: « لا یقبل اللہ إلا الطیب » (۳)
اور اس کی توجیہ یہی کی گئی ہے کہ یہ مالِ حرام اس شخص کی ملکیت میں نہیں ہے،
جس نے غلط طریقہ سے اس کو حاصل کیا ہے۔

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے:

”وَإِنَّمَا لَا یَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ، لِأَنَّهُ غَيرُ
مُمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصْرِيفِ فِيهِ
وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مَتَصْرِفٌ فِيهِ.“ (۴)

غرض یہ کہ مالِ حرام ملکیت میں نہیں آتا؛ لہذا اس مال پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

(۱) الشامی علی الدر المختار : ۲۱۸/۳

(۲) منحة الخالق علی البحر الرائق : ۲۰۵/۲

(۳) البخاری : ۱۳۱۰، مسلم : ۱۰۱۳

(۴) فتح الباری : ۲۷۹/۳

مال مخلوط بالحرام پر زکاۃ

البته ایسے مال پر زکاۃ واجب ہوگی جو مال حرام سے مخلوط ہوا اور دونوں مالوں میں امتیاز مشکل ہو جائے؛ کیوں کہ اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال ملانے سے یہ مال حرام بھی اس کی ملک میں داخل ہو جائے گا؛ لہذا اس مخلوط مال پر زکاۃ واجب ہوگی۔
علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

” وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ: لَا يَخْرُجُ عَنْ مَلْكِ النَّصَابِ الْمَذْكُورِ مَا مَلَكَ بِسَبَبِ خَبِيثٍ وَلَذَا قَالُوا: لَوْ أَنْ سُلْطَانًا غَصَبَ مَالًا وَخُلْطَهُ صَارَ مَلْكًا لَهُ حَتَّىٰ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ. ” (۱)

یہ قول امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ) کے مسلک پر اس مال مخلوط پر بھی زکاۃ واجب نہ ہوگی؛ کیوں کہ ان کے نزدیک ملک ثابت نہیں ہے۔
علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہے:

” أَمَا عَلَىٰ قَوْلِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ الْمَلْكُ. ” (۲)

لیکن امام صاحب کے قول پر بھی مخلوط مال پر وجوب زکاۃ اس صورت پر ہے، جب کہ مال مخلوط کے سوا بھی نصاب زکاۃ ہو؛ اگر مخلوط مال کے سوا کوئی اور نصاب اس شخص کے پاس نہ ہو، تو اس میں زکوۃ نہیں ہے۔
علامہ شامي نے ”تاتارخانیہ“ سے نقل کیا ہے:

(۱) البحر الرائق: ۲/۳۵۹

(۲) البحر الرائق: ۲/۳۵۹

”من ملک أموالاً غير طيبة، أو غصب أموالاً و خلطها
ملکھا بالخلط و يصیر ضامناً؛ وإن لم يكن له سواها
نصاب، فلا زکاۃ عليه فيها وإن بلغت نصاباً.“ (۱)

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غیروں کے جو اموال اس نے اپنے مال میں ملا دیے
ہیں، وہ غیروں کو واپس کرنا لازم ہے۔ لہذا یہ مدیون ہوا اور مدیون کا مال اگر دین
سے زائد نہ ہو تو اس میں زکاۃ نہیں ہے۔ چنان چہ تاریخانیہ میں لکھا ہے:
”لأنه مديون و مال المديون لا ينعقد سبباً لوجوب

الزكوة عندنا.“ (۲)

اس توضیح سے مخلوط مال پر وجوہ زکاۃ کے قول پر جو اشکال علامہ ابن نجیم
رحمۃ اللہ علیہ نے ”البحر الرائق“ میں پیدا کیا ہے وہ ختم ہو گیا، انہوں نے اشکال یہ کیا ہے:
”وهو مشكل لأنه وإن كان ملكه عند أبي حنيفة
بالخلط فهو مشغول بالدين والشرط الفراغ عنه، فينبغي
أن لا تجب الزكاة فيه على قوله.“ (۳)

(خلط سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ملک تو ثابت ہو جاتی
ہے، مگر چوں کہ یہ مال مشغول بالدین ہے اور وجوہ زکاۃ کی شرط دین
سے فارغ ہونا ہے، اس لیے اس مخلوط مال پر زکاۃ نہ ہونا چاہیے۔)

گمراپر کی وضاحت نے بتایا کہ یہ وجوہ اس وقت ہے جب کہ اس مال کے سوا
دوسرے مال موجود ہو؛ لہذا اشکال ختم ہو گیا؛ لیکن بے قول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ

(۱) الشامي: ۲۸/۳:

(۲) الشامي: ۲۸/۳:

(۳) البحر الرائق: ۳۵۹/۲:

”تاتار خانیہ“ کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکاۃ اس زائد مال نصاب میں واجب ہو گی نہ کہ اس مخلوط مال میں۔

”لکن لا يخفى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيما زاد“

عليها لا فيها.“ (۱)

لہذا خلاصہ یہ کلا کہ مخلوط مال سے زائد مال نصاب اگر ہے تو اس زائد مال پر زکاۃ آئے گی اور مخلوط مال میں زکاۃ نہ ہو گی؛ کیوں کہ اس کا اس کے حق دار کو لوٹانا واجب ہے، البتہ مال مخلوط پر اس وقت ضرور زکاۃ واجب ہو جائے گی، جب کہ اس کے حقدار لوگ اس شخص کو بری کر دیں، چنانچہ ”البحر الرائق“ میں ”مبتنی“ کے حوالہ سے یہ قید نقل کر کے اس کو قید حسن قرار دیا ہے۔ (۲)

اسی طرح اس وقت بھی اس مال میں زکاۃ ہو گی، جب کہ ان حرام اموال کے مالک معلوم نہ ہوں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ ”البحر الرائق“ اور حاشیہ ”در مختار“ دونوں میں اپنے شیخ سے نقل کیا ہے:

”بأن المراد ما إذا لم يعلم أصحاب الأموال المغصوبة؛ لأن الدين إنما يمنع وجوب الزكاة إذا كان له مطالب من جهة العباد و بجهل أصحابه لا يقى له مطالب فلا يمنع وجوبها.“ (۳)

اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مال مخلوط بالحرام پر دو صورتوں میں زکاۃ آتی ہے:

(۱) دیکھو الشامی: ۹۱۸/۳:

(۲) البحر الرائق: ۳۶۰/۲

(۳) الشامی حاشیة البحر الرائق: ۳۶۰/۲، ورد المختار: ۲۱۸/۳

(۱) ایک تو اس صورت میں جب کہ اس حرام مال کے حقدار بری کر دیں۔

(۲) دوسرے اس وقت جب کہ اس کے اصحاب حق دار معلوم نہ ہوں۔

ان دو کے علاوہ باقی اور صورتوں میں اس پر زکاۃ تواجہ نہ ہوگی؛ البتہ اس پر حرام اموال کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوگا، جن کے یہ اموال ہیں سو اللہ اعلم

دین کی اقسام اور ان پر زکاۃ کی تفصیل

ملکیت کی شرط پر ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ قرض کی زکاۃ کس پر ہوگی، دائن (قرض دینے والے) پر جو کہ اس کا مالک ہے یا مدیون (قرض دار) پر جس کے قبضہ میں ہے؟

یہ تو ظاہر ہے کہ مدیون (قرض دار) پر اس کی زکاۃ ہونہیں سکتی؛ کیوں کہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، پھر جب کہ مدیون پر دین کی وجہ سے بقدر دین اس کے اپنے مال میں بھی زکاۃ نہیں ہے، تو جو اس کا مال بھی نہیں، اس پر اس کے ذمہ زکاۃ کا عائد کرنا غیر معقول ہے۔ البتہ دائن (قرض دینے والے) پر بعجه ملکیت کے اس کی زکاۃ عائد ہو سکتی ہے؛ مگر اس سلسلہ میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ دین کی باعتبار وصولیابی کی امید و نا امیدی کے کئی قسمیں ہیں:

(۱) مال دین کا، مدیون انکار کرے اور اس پر بینہ بھی نہ ہو، ایسے مال دین پر زکاۃ نہیں ہے۔ (۱)

(۲) دین پر بینہ نہ تھا اور مدیون انکار کر رہا تھا، پھر کسی طرح بینہ قائم ہو گیا، تو اس دین پر بھی گزشتہ ایام کی زکوۃ نہیں ہے۔

ہدایہ میں ہے:

”ومن له علی آخر دین فجحده سنین، ثم قامت به بینة

لم يزكه لما مضى“۔ (۱)

(۳) مدیون انکار کرے اور دین پر بینہ قائم ہو، اس صورت میں گذشتہ سالوں

کی زکوۃ لازم ہے۔ (۲)

اور امام محمد سے عدم وجوب منقول ہے اور بعض علمانے اسی کی تصحیح کی ہے۔ (۳)

(۴) مدیون انکار کرے اور بینہ نہ ہو؛ مگر قاضی کو اس کا علم ہو، اس میں علماء کے دوقول

ہیں: ایک قول میں اس مال دین پر زکاۃ ہے، مگر مفتی بقول اس صورت میں عدم وجوب کا ہے۔

فی الدر المختار :

”إن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضى. قال الشامي:

أى عدم صحة قضاء القاضى اعتماداً على علمه ، فلو علم

بالجحود وقضى به لم يصح ولا يجب أن يزكى لما

مضى.“ (۴)

(۵) دین مقرر پر ہوا وہ غنی ہو، اس صورت میں اس مال پر زکاۃ ہے۔

(۶) دین مقرر پر ہوا وہ تنگ دست ہوان دونوں صورتوں میں بھی زکاۃ ہے

صاحب ہدایہ نے فرمایا:

”ولو كان الدين على مقر ملي أو معسر تجب الزكاة.“ (۵)

(۱) الہدایۃ: ۱/ ۱۶۶

(۲) الہدایۃ: ۱/ ۱۶۷

(۳) دیکھو در مختار والشامی: ۱۸۵/۳:

(۴) الشامی: ۱۸۵/۳:

(۵) الہدایۃ: ۱/ ۹۷

(۷) دین مقرر پر ہوا اور اس کو قاضی نے مفلس قرار دے دیا ہو، اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہمَا اللہُ کے نزدیک اس دین کی زکوہ لازم ہے اور امام محمد رحمہمَا اللہُ کے نزدیک واجب نہیں ہے:

”ولو كان الدين على مقرٍ مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة ، وعند محمد لا يجب ، وأبو يوسف مع أبي حنيفة في حكم الزكاة.“^(۱)

مگر جن صورتوں میں دائیں پر گذشتہ سالوں کی زکوہ آتی ہے، ان میں دین قوی جیسے قرض پر اس صورت میں زکوہ دینا واجب ہو گا جب کہ مثلاً اس قرض میں سے چالیس درہم وصول ہو جائیں اور دین متوسط میں سے دو سو درہم وصول ہونے پر زکاۃ دینا لازم ہو گا اور جن میں گذشتہ سالوں کی زکوہ نہیں ہے، ان میں وصولی کے بعد ایک سال گذرنے پر زکوہ لازم ہو گی۔^(۲)

خلاصہ یہ کہ دائیں پر دین کی زکاۃ یا تو اس وقت لازم ہو گی، جب کہ مدیون دین کا اقرار کرے یا اس وقت جب کہ دین پر بینہ قائم ہو؛ کیوں کہ ان سب صورتوں میں دائیں کو مال دین پر ملکیت تامہ حاصل ہے۔ مملوک ہونا تو ظاہر ہے اور قبضہ اگرچہ حقیقت نہیں ہے؛ لیکن چوں کہ اس کو مال دین تک وصول و رسائی ممکن ہے؛ الہذا یہ حکماً قبضہ ہے، پس ملکیت تامہ حاصل ہو گئی؛ الہذا ان پر زکاۃ ہو گی اور دوسری صورتوں میں قبضہ نہ حقیقت ہے؛ نہ حکماً؛ اس لیے زکاۃ نہ ہو گی، اسی کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے:

”لا مكان للوصول إليه ابتداءً أو بواسطة التحصيل.“^(۳)

(۱) الہدایہ: ۱/۱۸۷

(۲) الفقه على الأربعة: ۱/۵۲۷

(۳) الہدایہ: ۱/۱۶۷

کیا ممکنہ دین پر دین کی زکاۃ واجب قرار دی جاسکتی ہے؟

اوپر کی توضیح سے معلوم ہوا کہ دین کے سلسلہ میں زکاۃ دائن پر ہوتی ہے، نہ کہ مدیون پر؛ مگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدیون باوجود اقرار کے ظال مٹول کرتا ہے اور باوجود قدرت کے ادائے قرض میں غیر معمولی تاخیر کرتا ہے اور خود اس دین سے تجارت کر کے منافع حاصل کرتا رہتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی کیا دائن پر وجوب زکاۃ کا حکم ہو گا یا ممکنہ دین پر دین کی زکاۃ واجب قرار دی جائے گی؟

جہاں تک اس صورت میں دائن پر زکاۃ کا مسئلہ ہے تو احقر کا خیال ہے کہ اس پر زکاۃ نہ ہونا چاہئے، بشرط کہ وہ دین کے وصول کرنے میں عاجز وغیر قادر ہو اور اس کی نظیر یہ جزئیہ ہے کہ والی و حاکم اگر کسی کے دین کا اقرار تو کرتا ہو؛ مگر دیتانہ ہو، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں زکوۃ نہیں، اسی طرح اگر قرض دار بھاگ گیا اور دائن طلب کرنے سے عاجز ہو تو زکاۃ نہ ہونا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”وفي المحيط عن المنتقى عن محمد : لو كان له دين على وال و هو مقر به الا انه لا يعطيه و قد طالبه بباب الخليفة، فلم يعطه، فلا زكاة فيه، و لو هرب غريمه وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة وان لم يقدر على ذلك فلا زكاة عليه . (۱)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں بھی دائن پر زکاۃ نہ ہونے کی ایک روایت

(۱) الشامی: ۱۸۲/۳

نقل کی گئی ہے، جیسا کہ المغنی لابن قدامة (۳۲۵/۲)، المحرر فی الفقه: (۱/۲۱۹)، الفروع: (۲۵۱/۲) اور الانصاف: (۳/۲۲) میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ”الانصاف“ میں یہ بھی ہے کہ بعض نے اس روایت کی صحیح بھی کی ہے، اور شوافع کے نزدیک اگرچہ صحیح یہ ہے کہ اس کی زکاۃ دائیں پر ہے، تاہم شوافع کے یہاں بھی ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس کی زکاۃ دائیں پر نہیں ہے جیسا کہ ”التتبیه“ (۵۵/۱) میں نقل کی گئی ہے۔

رہامہ یون پر زکاۃ کے عائد کرنے کا مسئلہ تو یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ ظاہر ہے، وہ یہ کہ اس مال کا وہ مالک نہیں، نیز اس کے ذمہ تو کل رقم دین کو واپس لوٹانا واجب ہے، اس کے لیے بعض حصہ کا صدقہ (زکوۃ) میں دینا کیا مفید ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی غصب کر لے تو اس مال مخصوص میں زکوۃ کو واجب قرار دینا کیا مفید ہو سکتا ہے، جب کہ اس کے اوپر تو کل مال مخصوص کا مخصوص منہ کو اور وہ نہ ہو تو فقراء کو دینا واجب ہے؟ چنانچہ اسی دلیل سے اموال غیر طیبه پر زکاۃ نہ ہونا فقہا نے لکھا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”فِي الْقِنِيَةِ لَوْ كَانَ الْخَبِيتُ نَصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ لَا نَكْلُوْلُ
الْكُلُّ وَاجِبُ التَّصْدِيقِ عَلَيْهِ، فَلَا يَفِيدُ إِيجَابُ التَّصْدِيقِ
بِعَضُهُ.“ (۱)

غرض یہ کہ مدیون کو دین واپس کرنے کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے، نہ کہ دین کی زکاۃ کا (واللہ اعلم)۔ جمہور کا یہی مسلک ہے؛ البتہ مماطل پر زکوۃ کا وجوب بعض ائمہ سے چوں کہ منقول ہے، اس لیے اگر کوئی مصلحت اس کی داعی ہو تو اس قول کو بھی

(۱) الشامی: ۳/۲۱۸

اختیار کیا جاسکتا ہے، جیسے امام نجحی رَحْمَةُ اللَّهِ وَامام عطا رَحْمَةُ اللَّهِ سے ایک روایت ہے۔^(۱)

پراویڈنٹ فنڈ {PF} پر زکاۃ

سرکاری یا غیر سرکاری مکملوں اور کمپنیوں میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ سے ایک حصہ کاٹ کر ان کے محفوظ کھاتے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور کچھ فیصد سرکار یا کمپنی اپنے ملازم کے مستقبل کے پیش نظر اپنی طرف سے اضافہ کرتی ہے اور ریٹائرمنٹ کے وقت وہ اصل رقم اور زائد رقم دونوں ملازم کو دے دی جاتی ہے، بعض اوقات اس پر سرکار یا کمپنی ایک اضافی رقم بنام انٹرست بھی دیتی ہے، اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، یہاں یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ پراویڈنٹ فنڈ کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ سرکار یا کمپنی لازمی طور پر ملازمین کی تنخواہ سے ایک حصہ کاٹ لیتی ہے اور دوسری یہ کہ ملازم کی مرضی اور خوشی سے ایسا کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رقم پر زکاۃ واجب ہوگی یا نہیں اور یہ کہ کب واجب ہوگی؟

اس کا جواب تفصیل طلب ہے اور چوں کہ اس کی دو قسمیں ہیں؛ اس لئے ہم پہلے اس صورت کو لیتے ہیں جس میں لازمی طور پر تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے۔

اس مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ سرکار، یا کمپنی جس حصہ کو تنخواہ سے کاٹ کر کھاتے میں جمع کرتی ہے، اس کی نوعیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس فنڈ میں دو قسم کی رقم ہوتی ہے: ایک وہ جو تنخواہ ملازم کا حصہ ہے، دوسرے اس پر زائد وہ رقم جو کمپنی یا سرکار اپنی طرف سے دیتی ہے، جو محض ایک انعام ہے۔

(۱) کما فی فقه الز کاۃ للقرضاوی: ۱/۱۸۲، عن الأموال ۱۲ منه

جہاں تک اس زائد رقم کا سوال ہے، تو یہ جب تک کمپنی؛ یا ادارہ ملازم کو نہیں دے دیتا، وہ نہ اس کی ملکیت میں داخل ہوگی اور نہ اس پر اس کا استحقاق ہو گا؛ کیوں کہ یہ کمپنی یا سرکار کی طرف سے ایک تبرع اور احسان ہے، چاہے وہ دے یا نہ دے؛ لہذا اس پر زکاۃ کے عائد کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہی وہ رقم جو ملازم کی تنخواہ کا جزء و حصہ ہے، یہ اگرچہ ابھی ملکیت میں داخل نہیں ہے؛ لیکن ملازم کا اس پر استحقاق ہے اور یہ تنخواہ کمپنی یا سرکار پر واجب الادا ہے اور دین ہے۔ دین کے متعلق امام محمد و امام ابو یوسف رحمہمَا اللہُ کا مسلک یہ ہے کہ دین کسی قسم کا ہو، اس کی زکاۃ واجب ہے اور گذشتہ ایام کی زکاۃ بھی ادا کرنا ضروری ہے اور دین کی رقم تنخواہی یا زیادہ، جتنی بھی وصول ہو، اس کی زکاۃ ادا کرے، البتہ دین سعایہ و دین کتابت اور دین دیت اس سے مستثنی ہیں۔

امام سرسخی اور امام ابن نجیم رحمہمَا اللہُ فرماتے ہیں:

”وقال أبو يوسف و محمد: الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض و كلما قبض شيئاً زكاه قل أو كثرا إلا

دين الكتابة والسعایة و في رواية الديمة أيضاً.“ (۱)

ان حضرات کے مطابق پر اویڈنٹ فنڈ کی اس رقم پر جو جزو تنخواہ ہے اور کمپنی کے ذمہ ہے، زکاۃ دینا لازم ہو گا اور جب بھی اس کا کوئی حصہ یا کل رقم مل جائے، گذشتہ تمام سالوں کی زکاۃ لازم ہو گی۔

اور امام عظیم ابوحنیفہ رحمہمَا اللہُ کے نزدیک دین کی تین قسمیں ہیں:

(۱) دین قوی: دین قوی کہتے ہیں قرض کے بدل کو جو قرض دار کے ذمہ ہے اور

(۱) المبسوط / ۲: ۱۹۵، البحر الرائق / ۲: ۳۶۲

مال تجارت کی اس قیمت کو جو خریدار کے ذمہ ہے، اس پر ایک سال گزرنے پر زکاۃ واجب ہو جائے گی اور اگر مثلاً اس سال کے بعد یہ رقم وصول ہو تو ان تمام سالوں کی زکاۃ واجب ہو گی؛ البتہ ادا کرنے میں اتنی گنجائش ہے کہ فوراً ادا نہ کرے؛ بل کہ جب اس میں سے چالیس درہم، یا اس کے برابر و پیہ وصول ہو تو ادا کرے۔ (۱)

(۲) دین متوسط: دین متوسط کسی ایسے سامان کی قیمت ہے، جو تجارت کے لیے نہیں تھا اور یہ قیمت خریدار کے ذمہ ہو۔ جیسے رہنے کا گھر، یا اپنے کپڑے وغیرہ فروخت کیا اور ابھی اس کی قیمت وصول نہیں ہوتی۔ اس دین کے وصول ہونے اور ایک سال گزرنے کے بعد زکاۃ کا واجب ہونا معلوم و مقرر ہے؛ البتہ مدیون کے قبضہ میں جتنے سال رہا، ان کی زکاۃ کے واجب ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دور و ایتیں منقول ہیں۔

صاحب بحر الرائق نے ایامِ گذشتہ کی زکاۃ کا واجب ہونا نقل کر کے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، مگر یہ بھی بتایا ہے کہ ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا، جب کہ نصاب (دوسورہم) پر قبضہ ہو جائے۔

صاحب بحر الرائق کی عبارت یہ ہے :

”وَفِي الْمُتَوْسِطِ لَا تُجْبِ مَالُمٌ يَقْبَضُ نَصَابًا وَ يَعْتَبِرُ

لِمَا مَضَى مِنَ الْحَوْلِ فِي صَحِيحِ الرَّوَايَةِ“۔ (۲)

مگر جیسا کہ شامی نے ”منحة الخالق“ میں تنبیہ کی ہے، یہ روایت اصح کے خلاف ہے:

”وَهِيَ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ وَ هِيَ خَلَافُ الْأَصْحَاحِ“۔ (۳)

(۱) البحر الرائق : ۳۶۳/۲، بداع الصنائع: ۳۹۲/۲، ميسوط السرخسى: ۱۹۵/۲

(۲) البحر الرائق: ۳۶۳/۲

(۳) منحة الخالق: ۲۰۷/۲

اس سلسلہ میں اصح یہ ہے کہ گذشتہ ایام کی زکاۃ واجب نہیں؛ بل کہ جب دوسورا ہم
وصول ہوں اور ان پر ایک سال گزرے تو ان دوسورا ہموں کی زکاۃ واجب ہوگی۔
بدائع اور منحة الخالق میں ہے:

”روی عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لازمة فيه
حتى يقبض المائتين و يحول عليه الحول من وقت
القبض وهو الأصح من الروايتين عنه.“ (۱)

(۳) دین ضعیف: وہ ہے جو مال کے بدلہ میں کسی کے ذمہ نہ ہو؛ بل کہ غیر مال
کے بدلہ کسی کے ذمہ آیا ہو، جیسے مہر وغیرہ، اس میں گذشتہ ایام کی زکاۃ واجب نہیں
ہے۔ (۲)

اب غور کرنا چاہیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر پراویڈنٹ فنڈ کی وہ
 رقم جو تحوہ کا حصہ وجز ہے، وہ ان تین قسموں میں سے کس قسم میں داخل ہے؟
دین قوی میں تو داخل نہیں، کیوں کہ یہ رقم نہ بدل قرض ہے اور نہ سامان تجارت کا
بدل ہے؛ بل کہ یہ ملازم کی خدمت کا بدل و معاوضہ ہے۔ اب یہ حل کرنے کے لیے کہ
یہ دین وسط میں داخل ہے یادِ دین ضعیف میں، یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ دین (پراویڈنٹ
فنڈ) جس چیز کا بدلہ اور معاوضہ ہے، وہ مال ہے یا نہیں؟ اگر وہ مال ہے تو یہ دین وسط میں
اور اگر وہ مال نہیں تو دین ضعیف میں داخل ہوگا اور اپر عرض کر آیا ہوں کہ پراویڈنٹ فنڈ کی
یہ رقم خدمت کا معاوضہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ملازم کی خدمت کیا مال ہے، یا نہیں؟

(۱) بدائع: ۳۹۲/۲، منحة الخالق: ۳۶۳/۲

(۲) دین کی اس تفصیل کے لیے دیکھو: المبسوط: ۱۹۵/۲، الدر المختار مع الشامی:
۳۶۳/۲، البحر الرائق: ۲۳۶/۳

فقہا کے کلام میں غلام کی خدمت پر بحث کی گئی ہے اور اس میں دو راویتیں ہیں: ایک یہ کہ غلام (جب کہ تجارت کے لیے ہو، اگر تجارت کے لیے نہ ہو، تو اس کی خدمت مال نہیں ہے) کی خدمت چوں کہ ایک منفعت ہے، وہ مال نہیں ہے، الہذا ایسا دین، دین ضعیف ہے اور ایام گذشتہ کی زکوٰۃ اس میں واجب نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ خدمتِ غلام مال ہے، الہذا یہ دین، دین متوسط ہوگا، یہی ظاہر الروایت ہے۔

چنانچہ شامی نے ”منحة الخالق“ میں محیط کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

” و في أجرة مال التجارة أو عبد التجارة رواية“

فی روایة لازکاۃ فیها حتی یقبض ویحول علیها الحول

لأن المنفعة ليست بمال حقيقةً، فصار كالمهر، و في

ظاهر الروایة تعجب الزکاۃ فیها و یجب الأداء إذا قبض

منها مائتی درهم لأنها بدل عن مال ليس بمحل لوجوب

الزکاۃ فيه لأن المنافع مال حقيقةً لكنها ليست بمحل

لوجوب الزکاۃ. قلت (السائل الشامي) وهذا صريح في

أنه على الروایة الأولى من الدين الضعيف وعلى ظاهر الروایة

من المتوسط لا من القوي - (۱)

خدمتِ عبد کے سلسلے میں ایک تیسری روایت بھی ہے، جو ”بحر الرائق“ میں ہے اور شامی نے اس پر ولو ابجیہ کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ یہ ہے کہ تجارت کے غلام کی خدمت دین قوی میں داخل ہے؛ اس لیے کہ مال تجارت کی اجرت بھی مال تجارت کی قیمت کی طرح ہے۔ صاحب ” البحر الرائق“ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے

(۱) منحة الخالق على البحر الرائق: ۳۶۲/۲

اور علامہ سرحد اللہ نے مبسوط میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ (۱)

مگر فقہاء کا یہ کلام جیسا کہ ظاہر ہے، ایک تو غلام کی خدمت کے بارے میں ہے، دوسرے اس غلام کی خدمت کے بارے میں ہے جو تجارت کے لیے ہو، اگر غلام تجارت کے لیے نہ ہو تو اس کی خدمت کا معاوضہ دین ضعیف میں داخل ہے۔

اور ہم جس سلسلہ میں بحث کر رہے ہیں، وہ آزاد انسان کی خدمت کا مسئلہ ہے، تو یہ کسی طور پر بھی دین قوی میں داخل نہیں ہے؛ کیوں کہ اس میں تو صرف وہ صورت داخل ہے کہ غلام تجارت کا ہو اور اس کی خدمت کا معاوضہ ذمہ میں ہو۔ جب تجارت کے لیے ہونا غلام میں بھی، دین قوی بننے کے لیے شرط ہے تو آزاد انسان کا مسئلہ تو بہر صورت اس سے مختلف ہے۔

اسی طرح دین وسط میں بھی اس کو داخل کرنا مشکل ہے؛ کیوں کہ آزاد انسان کی خدمت کو مال قرار دینا مشکل ہے، غلام کی خدمت کو بھی جب ایک روایت پر مال قرار نہیں دیا گیا ہے، تو آزاد انسان کی خدمت کو مال قرار دینا بعید ہے؛ اس لیے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دین ضعیف میں داخل ہے؛ لہذا یام ماضیہ کی زکاۃ اس پر واجب نہ ہوگی؛ بل کہ وصوی کے بعد جب ایک سال گزر جائے تو اس سال کی زکاۃ دینا ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس کو دین وسط میں داخل مان لیں، تب بھی جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، دین وسط بھی دین ضعیف کے حکم میں ہے اور یام ماضیہ کی زکاۃ اس پر نہیں ہے، یہی اصح روایت ہے؛ لہذا امام صاحب رحمۃ اللہ کے مسلک کے مطابق اس پر ایام گذشتہ کی زکاۃ نہ ہوگی؛ بل کہ وصوی کے بعد ایک سال گزر نے پر دینا ہوگا۔

حضرت مولانا حکیم الامات تھانوی رحمۃ اللہ کی آخری تحقیق یہی ہے۔ (۲)

(۱) البحر الرائق: ۳۶۲/۲، المبسوط: ۱۹۶

(۲) إمداد المفتين: ۳۷۲

اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے؛ البتہ اس تحقیق کے ساتھ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے حکم سے مفتی صاحب مرحوم نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ روایات فقہیہ کو دیکھنے اور غور کرنے سے احقر کو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اس فندک کی رقم پر ایام ماضیہ کی زکاۃ واجب نہیں، احتیاطاً دوسرا علماء سے تحقیق کر لینا مناسب ہے، نیز حضرات صاحبین کے نزدیک چوں کہ دیوں میں قوی، متوسط، ضعیف کی کوئی تفصیل نہیں ہے؛ بل کہ ہر قسم کے دین پر زکاۃ ایام ماضیہ کی واجب ہے؛ اس لیے کوئی احتیاط اور تقوی پر عمل کرے اور ایام ماضیہ کی زکوۃ بھی ادا کر دے تو بہتر ہے۔ (اللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و حکم)

یہ تو پروایٹ فندک کی پہلی صورت کے بارے میں کلام تھا۔ اب رہی دوسری صورت جس میں تنخواہ کا حصہ ملازم کی مرضی و خوشی سے کاٹ لیا جاتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ سال بہ سال اس جمع شدہ رقم کی زکاۃ ادا کرنا اس شخص پر لازم ہے؛ کیوں کہ یہ رقم اس کی ملکیت میں داخل ہونے کے بعد اس کی رضا و خوشی سے فندک میں جمع ہوئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی رقم بینک میں جمع کرتا ہے؛ اس لیے جس طرح بینک میں جمع رقم پر زکاۃ ہر سال آتی ہے اسی طرح اس قسم کے پروایٹ فندک پر بھی ہر سال زکاۃ آئے گی۔

دوسری شرط: نما یعنی نامی ہونا

اموال میں وجوب زکاۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، اگر مال نامی نہیں ہے، تو اس پر زکاۃ واجب نہیں ہے۔ نامی، نما سے ہے اور ”نما“ لغت میں افزائش اور زیادتی کو کہتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے: ”نما الممال ینمی

نماء، او ينمونما و أنماه الله۔ (۱)

اور شریعت میں نما کی دو فرمیں ہیں، ایک حقیقی نما، دوسرے تقدیری نما، حقیقی افزاں اور زیادتی، تو الد و تناصل سے ہے (جیسے جانوروں میں) یا تجارت سے ہوتی ہے اور تقدیری افزاں کا مطلب یہ ہے کہ اس مال میں زیادتی اور افزاں پر صاحب مال کو قدرت حاصل ہو، اس طرح کہ مال اس کے، یا اس کے نائب کے قبضہ میں ہو۔ (۲)

غرض یہ کہ زکاۃ انہی اموال پر لازم ہے، جو اپنے اندر افزاں کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ افزاں دو طرح پر ہے:

(۱) نما حقیقی، جیسے جانور اور مال تجارت کے حقیقت میں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔

(۲) نما تقدیری، کہ حقیقت میں اضافہ تو نہیں ہے؛ لیکن مالک چاہے تو اس کو بڑھا سکتا ہے۔

نما تقدیری کی دو فرمیں

پھر نما تقدیری کی دو فرمیں ہیں: ایک خلقتی، دوسرے فعلی خلقتی جیسے سونا اور چاندی جو کہ بالذات حوانج اصلیہ کے دفع کرنے میں اتفاق کی قابلیت رکھتے ہیں، اس میں تجارت کی نیت کرنا و جو بزکاۃ کیلئے ضروری نہیں؛ کیوں کہ سونا اور چاندی اصل خلقت ہی سے تجارت کے لیے متعین ہیں، تو اب نیت جو کہ تعین کے واسطے ہوتی ہے، اس کی کیا ضرورت؟ لہذا ان پر ہر حال میں زکاۃ ہوگی۔ اور فعلی ان دونوں کے علاوہ سب چیزیں ہیں، جو اگر تجارت کی نیت سے ہوں تو ان میں زکوہ ہے،

(۱) مغرب ولسان العرب: ۱۵/۳۲۱

(۲) الحوالائق: ۲/۳۶۲

ورنہ نہیں جب کہ وہ عرض یعنی سامان ہو، اور اگر مویشی ہیں تو ان میں سائمه ہونا شرط ہے۔^(۱)

تیسرا شرط: حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا

وجوب زکاۃ کی ایک شرط حاجات اصلیہ سے فارغ ہونا ہے، اگر کسی کے پاس مال تو ہے؛ مگر اپنی حقیقی و اصلی حاجات و ضروریات کے لیے ہے تو اس مال پر زکوہ نہیں ہے؛ بل کہ زکوہ اس مال پر واجب ہوتی ہے، جو انسانی حوالج و ضروریات سے فارغ ہو؛ مگر اس سلسلہ میں بعض امور قابل تحقیق ہیں:

حاجت اصلیہ کی تعریف

ایک یہ کہ حاجت اصلیہ کی تعریف کیا ہے؟ حاجت اصلیہ و ضرورت حقیقی کی تعریف فقہا نے یوں کی ہے:

”ما يدفع ال�لاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقديرأً“^(۲)

(یعنی حاجت اصلیہ وہ ہے جو انسان سے ہلاکت کو تحقیقی یا تقدیری طور پر دور کر سکے۔)

حقیقتہ ہلاکت کو دور کرنے والی چیزوں میں کھانا، پانی، سکونت کے لیے گھر اور جنگی آلات اور کپڑے جو سردی یا گرمی کے دفع کرنے کے لیے ضروری ہوں، وغیرہ کو فقہا نے ذکر کیا ہے اور تقدیری طور پر ہلاکت کو دور کرنے والی اشیا میں قرض کو بطور مثال پیش کیا ہے؛ کیوں کہ انسان قرض ادا کرنے کا محتاج ہے، تاکہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں جو جلس و قید لازم آتا ہے، اس سے اپنے کو بچا سکے جو کہ

(۱) البحر الرائق: ۳۶۶/۲

(۲) الدر المختار مع الشامي: ۳/۸۷، والبحر الرائق: ۲/۳۶۱

ہلاکت کے مانند ہے، اسی طرح اس کی مثال میں فقہا نے آلات صنعت و حرفت، گھر یا ضرورت کا سامان، سواری کا جانور اور علمی کتب کو ذکر فرمایا ہے۔^(۱) خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے ایسی ضروری ہوں کہ ان کے بغیر حقیقتہ یا تقدیر آہلاکت واقع ہو جاتی ہے، ان کو حاجات اصلیہ کہا جائے گا اور جو چیزیں ایسی نہ ہوں، وہ حاجات اصلیہ میں داخل نہ ہوں گی۔

حاجات اصلیہ پر زمانہ کا اثر

دوسرा سوال یہ ہے کہ حاجات اصلیہ کا تعین کیا ہر دور اور ماحول میں اسی کے اعتبار سے ہو گا اور کیا یہ معیار بدلتا رہے گا؟ تو اس کا جواب (میرے خیال کے مطابق) یہ ہے کہ حاجات اصلیہ کا تعین ہر دور اور ماحول کے لحاظ سے الگ الگ ہو گا؛ کیوں کہ ہر زمانہ کی ضرورت الگ اور اس کا معیار بھی مختلف ہوتا ہے۔ ایک زمانہ میں روشنی کے لیے معمولی چراغ ضروری تھے اور ضرورت کو پورا کر دیتے تھے؛ مگر آج بھلی کے بلب کے بغیر ضرورت پوری نہیں ہوتی؛ لہذا اس زمانے میں بھی ضرورت کو چراغ تک محدود قرار دے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھلی حاجات اصلیہ میں داخل نہیں۔ اسی طرح کسی زمانہ میں ہاتھ کے پنکھے گرمی میں ہوا حاصل کرنے کے لیے کافی سمجھے جاتے تھے؛ مگر اب بھلی کے پنکھوں کو ضروری سمجھا جا رہا ہے؛ لہذا یہ داخل ضرورت قرار دیا جائے گا، اسی طرح ایک زمانہ میں ہر انسان کے لیے آلات حرب ضروری تھے کہ اس زمانہ کا یہی تقاضا تھا، مگر ہمارے اعتبار سے یہ غیر ضروری ہوں گے، ہاں جن علاقوں میں ایسے حالات ہوں جن کا مقابلہ بغیر آلات حرب نہ ہو سکتا ہو اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہوں، تو ان علاقوں کے لحاظ

(۱) در مختار مع الشامي: ۱۸۲/۳، البحروالائق: ۳۶۱/۲، الطحطاوی علی المراقي: ۱/۳۶۹

سے یہ حاجات اصلیہ میں داخل ہوں گے۔

یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے کہ یہ حاجت اصلیہ میں سے ہیں یا نہیں؟ مثلاً سونے چاندی کے علاوہ دوسراے زیورات جو عورتیں بطور زینت استعمال کرتی ہیں، ان میں اختلاف ہے۔

شامی نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بن علیؑ سے سوال کیا گیا کہ جس عورت کے پاس جواہر و آلی ہوں، جن کو وہ عیدوں میں پہنچتی ہو، یا اپنے شوہر کی خاطر زینت کے طور پر استعمال کرتی ہو، تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو ہے۔ اور اسی کے بارے میں جب حافظ عمر سے پوچھا گیا تو کہا کہ اس پر کچھ واجب نہیں۔

اس کو نقل کر کے شامی نے فرمایا:

” وحاصله ثبوت الخلاف في أن الحلبي غير النقادين ”

من الحوائج الأصلية“。(۱)

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ علماء کا اختلاف خود بتارہا ہے کہ زمانہ یا ماحول کی وجہ سے، یا اشخاص کے لحاظ سے حوانج اصلیہ میں تغیر و روبدل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی قطعی چیز نہیں کہ ہر حال میں وہ متعین ہو؛ مگر اس کا خیال رکھنا ناگزیر ہے کہ زمانہ، ماحول اور حالات کی تبدیلی سے حوانج اصلیہ میں روبدل اور ان حوانج کا تعین اجتہادی کام ہے؛ الہذا یہ کام صرف اہل اجتہاد و بصیرت لوگوں کو کرنا چاہیے؛ ورنہ ہر کس و ناکس کو اختیار دے دیا جائے تو ہر نفس پرست اس میں دخل اندازی کرے گا، اور ہر چیز کو ضرورت میں شمار کرنے کی کوشش کرے گا۔

(۱) الشامی: ۲۹۶/۳

چوتھی شرط: دین سے محفوظ ہونا

شرائط و جو布 زکاۃ میں سے ایک یہ ہے کہ مال زکاۃ دین (قرض) سے محفوظ ہو، اسی کوفقہا نے دین سے فارغ ہونا کہا ہے؛ مگر اس جگہ دین سے مراد وہ دین ہے، جس کا بندوں کی جانب سے تقاضا ہوتا ہے، خواہ وہ بندوں کا دین ہو، یا خدا کا۔ (۱)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، مگر اس کے ذمہ ایسا دین ہے جس کا بندوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے، تو ایسے مال پر زکاۃ نہیں ہے اور یہ دین بندوں کا ہوتا بھی زکاۃ نہیں اور خدا کا ہو، جیسے زکاۃ و خراج جس کا مطالبہ سلطان کی طرف سے ہوتا ہے، تب بھی اس پر زکاۃ نہیں۔ اور جو دین کہ اس کا مطالبہ بندوں میں سے کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے نذر، تو اس سے زکاۃ ساقط نہیں ہوتی، بل کہ ایسے دین کے ذمہ میں ہوتے ہوئے بھی زکاۃ ادا کرنا لازم ہوگا اور معجل ہو یا موجل ہر دو صورت میں دین جمہور کے نزدیک مانع زکوہ ہے، جب کہ اس کا بندوں کی طرف سے کوئی تقاضا کرنے والا ہو۔

کیا طویل الاجل قرض مانع زکوہ ہے؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل سرکار مختلف ایکیموں کے تحت طویل الاجل قرض فراہم کرتی ہے اور اس کی مدت تیس چالیس سال تک بھی ہوتی ہے اور قرض کی مقدار بھی بڑی ہوتی ہے۔ مثلاً کروڑوں اور لاکھوں کی ہوتی ہے، تو کیا اس قسم کے قرضہ جات کے ہونے سے بھی زکاۃ ساقط ہو جاتی ہے؟ نیز قسطوار ادا بینگی کی صورت میں (جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے) پورا قرض منہا کیا جائے گا، یا سالانہ واجب الادا

(۱) در مختار مع الشامی: ۳/۲۶۷، البحر الرائق: ۲/۳۵۷

قطع کو ضع کر کے باقی مال پر زکاۃ واجب ہوگی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فقہا کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ دین موجل و موخر مانع زکاۃ ہے یا نہیں؟ مگر اکثر علماء دونوں میں فرق نہیں کرتے، تاہم ایک جماعت علماء کی اس طرف گئی ہے کہ دین موخر مانع زکاۃ نہیں، اس پر یہ مسئلہ متفرق ہے کہ مہر موجل مانع زکاۃ ہے یا نہیں، بعض علماء نے کہا ہے کہ مہر موجل مانع نہیں؛ کیوں کہ الفور اس کا مطالبہ نہیں ہے۔^(۱) اور علامہ شاما می رحیم^{رحمۃ اللہ علیہ} نے لکھا ہے:

”قوله: او مؤجلاً الخ عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي وقال : وعن أبي حنيفة : لا يمنع، وقال الصدر الشهيد : لا رواية فيه ولكل من الممنوع وعدمه وجه ، زاد القهستاني عن الجوهرة : وال الصحيح أنه غير مانع“.^(۲)
 (در مختار کے قول موجل مانع زکاۃ ہے پر لکھتے ہیں کہ اس قول کو معراج میں شرح طحاوی کی طرف منسوب کیا ہے اور کہا کہ امام ابوحنیفہ سے یہ بھی مردی ہے کہ دین موجل مانع نہیں، اور امام صدر الشہید نے کہا کہ اس سلسلہ میں ان سے کوئی روایت نہیں ہے، پس اگر ہم دین موجل کو مانع کہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اور نہ کہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اور قہستانی نے جوہرہ کے حوالہ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دین موجل مانع نہیں)

(۱) در مختار مع الشامي: ۳/۷۶، البحر الواقع: ۲/۳۵۷

(۲) الشامي: ۳/۷۷۱

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دری طلب قرض کے مانع زکاۃ نہ ہونے کا آیا ہے اور علامہ قہستانی نے جو ہرہ کے حوالہ سے اس کی تصحیح بھی نقل کی ہے؛ الہذا مناسب ہوگا کہ اس قول کے مطابق موخر مطالبات کو مانع نہ قرار دیا جائے اور سالانہ واجب الادا قسط وضع کر کے باقی پر زکاۃ کو واجب قرار دیا جائے۔ **وَاللَّهُ أَعْلَم**

اس سے ہٹ کر جب ہم شریعت کے عمومی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہیں تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذکورہ صورت میں طویل الاجل قرضہ جات مانع زکاۃ نہ ہونا چاہیے۔ یہاں دو شخصوں کا موازنہ کیجئے: ایک وہ شخص جس کے پاس مثال کے طور پر ایک کروڑ روپے ہیں اور وہ اپنی تجارت کو فروع دینے کے لیے بینک سے ایک کروڑ لوں {Loan} لیتا ہے اور ہمہ قسم کی آسائش و آرائش اور عیش کوئی کے اسباب جمع کر لیتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کے پاس مثال کے طور پر صرف چالیس پچاس ہزار روپے ہیں اور وہ اس سے ایک چھوٹی سی تجارت قائم کرتا ہے اور معمولی انداز کی رہائش اختیار کرتا ہے، ان دونوں میں کس کو زکاۃ کا مکلف کرنا قرین قیاس ہے؟ شریعت کا عمومی مزاج سامنے ہو تو پہلا شخص زیادہ مکلف ہونا چاہیے۔ جب فقہا کے نزدیک دوسرا آدمی بھی زکاۃ کا مکلف ہے تو پہلے کا مکلف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔

اور فقہا کے یہاں بھی اس کی ایک نظری ملتی ہے، چنانچہ لکھا ہے:

”وَذَكْرُ الْبَزْدُوِيِّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : قَالَ مَشَائِخُنا رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرٌ مَؤْجَلٌ لَامْرًا تَهُوْ لَا يَرِيدُ أَدَوِيَةً لَا يَجْعَلُ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ لِغَمْدَ الْمَطَالِبِ“

فی العادۃ و آنہ حسن۔“ (۱)

(بزدیوی نے شرح جامع الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے مشائخ نے اس آدمی کے بارے میں کہا ہے جس پر بیوی کامہرِ موجل ہوا اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، مشائخ نے کہا ہے کہ یہ دین مانع زکاۃ نہیں؛ کیوں کہ اس کا عادۃ مطالبه نہیں ہوتا اور یہ عمدہ بات ہے۔)

اس جزئیہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کا فوری مطالبه نہ ہو وہ مانع زکاۃ نہیں، اس پر اگر ان دیوں کو قیاس کیا جائے جن کا مطالبه مُؤخر ہے اور سالہا سال میں ان کو ادا کرنا ہے تو یہ صحیح ہو گا؛ اس لیے ایسے قرض کی سالانہ واجب الاداء قسط کو منہا کر کے باقی پر زکاۃ عائد ہو گی۔

کمپنی کے اثاثہ پر زکوۃ

کمپنی جس کے متعدد حصہ دار اور شرکا ہوتے ہیں اور اس کا مجموعی اثاثہ اور مالیت کروڑوں روپیہ کو پہنچتی ہے؛ مگر اس کے حصہ داروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ان میں اس اثاثہ اور مالیت کو تقسیم کیا جائے، تو کوئی بھی صاحب نصاب نہیں رہتا یا کچھ لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے، ایسی کمپنی کے بارے میں سوال یہ ہے کہ وجوب زکاۃ میں کمپنی کی مجموعی مالیت کا اعتبار ہو گا، یا ہر فرد کے حصہ کا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حصہ داروں میں سے کوئی بھی تقسیم کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس مشترک کمپنی کی مالیت پر زکاۃ نہیں ہے۔
درجتاً میں ہے:

”وَلَا تُجْبَ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا فِي نَصَابِ مُشْتَرِكٍ.“

(۱) الفتاوى الهندية: ۱۹۰/۱

الشامي: المراد ان يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم احد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصاباً۔“ (۱)

اور علامہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اما إذا كانت مشتركةً فعندنا يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حالة الانفراد، فإن كان نصيب كل منهما بلغ نصاباً تجب الزكاة فيه وإلا فلا..... وكذلك على هذا اذا كان الذهب والفضة واموال التجارة مشتركةً بين اثنين، فإنه يعتبر عندنا نصيب كل واحد على حدة“۔ (۲)

الغرض مشترک مال میں بھی اعتبار ہر ایک کی اپنی مالیت کا ہوگا اور کمپنی کے مال میں بھی یہی صورت ہوگی کہ ہر ایک شریک اپنے مال کو دیکھے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکاۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔

ہیرے اور جواہرات پر زکوہ

ہیرے اور جواہرات اگر تجارت کی نیت سے خریدے جائیں تو ان پر زکاۃ ہے، یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، مگر یہاں ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ انکمٹیکس سے بچنے کے لیے اور دیگر سرکاری قوانین کی زد سے بچنے کے لیے نقد روپیوں، یا سونے چاندنی کے بجائے ہیرے اور جواہرات کی صورت میں اپنے سرمایہ کو محفوظ کرتے ہیں، جو تجارت کی نیت سے نہیں ہوتے، اس پر زکوہ کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح عورتیں زینت کی خاطر جواہرات استعمال کرتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟

(۱) الدر المختار و رد المحتار: ۲۳۵/۳

(۲) تحفة الفقهاء: ۱/۲۹۱-۲۹۲

جہاں تک عورتوں کے جواہرات کا سوال ہے تو ان پر زکاۃ نہیں ہے؛ کیوں کہ یہ زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں اور نامی نہیں ہیں؛ لیکن جو جواہرات اور ہیرے محض اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے اور لیکس سے بچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، احقر کے خیال میں ان پر زکاۃ ہونا چاہیے، ورنہ زکوۃ سے فرار کے لیے یہ کھلا راستہ لوگوں کو مل جائے گا کہ ہیرے اور جواہرات خرید کر رکھ لیے جائیں، یہ اگرچہ مال تجارت نہیں؛ مگر مال تجارت کے حکم میں ہونا چاہیے؛ کیوں کہ یہ رکھنے والا عام طور پر اس سے اپنی تجارت میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور کنز کے حکم میں ہے۔

اس نقطہ نظر کی تائید فقہا شوافع کے اس جزئیہ سے ہوتی ہے کہ زیورات کو اگر استعمال کے لیے نہیں؛ بل کہ محض کنز و اخخار کے طور پر جمع کیا تو اس پر زکاۃ واجب ہوگی۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”قال أصحابنا: لو اتخد حلیاً ولم يقصد به استعمالاً محراً
ولا مكروهاً ولا مباحاً، بل قصد كن泽ه واقتاؤه فالمنذهب
الصحيح وجوب الزكاة فيه، وبه قطع الجمهور.“ (۱)

نیز فقہاء حنبلہ نے جو استعمالی زیورات پر زکاۃ کو واجب نہیں کہتے، وہ بھی یہ لکھتے ہیں:

”ولا تسقط الزكاة عنمن اتخد حلیاً فاراً منها.“ (۲)
(کہ جو زیورات اس لیے بناتا ہے کہ زکاۃ سے راہ فرار اختیار کرے
اس سے زکاۃ ساقط نہ ہوگی)

علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

(۱) المجموع: ۵/۵۱۹، نیز روضۃ الطالبین: ۲/۱۲۲

(۲) دیکھو: کشف القناع: ۲/۲۲، المغنی لابن قدامة: ۳/۲۲۲

”اور مناسب ہے کہ یہی حکم موتیوں، یا قوت، الماس اور تمام نفسیں پھروں اور قیمتی جواہر کا ہو کہ ان میں سے جو بطور زینت یا زیور استعمال کیے جائیں اور جو حد اسرا ف میں داخل نہ ہوں، ان پر زکاۃ نہیں ہوگی، اور جو کھلمن کھلا عادت کے طور پر استعمال ہونے والی مقدار سے زائد ہوں، تو وہ اسرا ف اور حرام ہے اور اس کو زکوۃ سے چھوٹ دینا درست نہ ہوگا، اسی طرح جو کنز کے طور پر رکھے گئے ہوں، ان پر بھی زکاۃ عائد ہوگی، اس لیے کہ یہ صورت مال پر عائد ہونے والے حق معلوم سے بچنے کی ایک صورت بن جائے گی۔ (۱)

یہ ظاہر ہے کہ صورت مسؤولہ میں ہیرے اور جواہرات بطور کنز ہی جمع کیے گئے ہیں؛ لہذا ان پر زکوۃ واجب ہونا چاہئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
زکاۃ کس نرخ پر ہوگی

(۱) سامان تجارت کی زکاۃ کس نرخ کے حساب سے ہوگی؟ لاگت کے حساب سے یا ادا بیگنیکی زکاۃ کے دن کی قوت خرید کے لحاظ سے؟
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سامان تجارت کی مالیت کا تعین لاگت کے حساب سے نہ ہوگا؛ بل کہ موجودہ بازاری نرخ کے لحاظ سے ہوگا، پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ادا بیگنیکی زکاۃ کے دن کے نرخ کا اعتبار کیا جائے گا، یا وجوب کے دن کا لحاظ ہوگا؟ اصح یہ ہے کہ ادا بیگنیکی کے دن بازار کا جو نرخ ہو اس کے لحاظ سے مالیت کا تعین کر کے اسی کے مطابق زکوۃ نکالی جائے گی۔

فی الدر المختار: ”و تعتبر القيمة يوم الوجوب و قالا
يوم الأداء، و في السوائم يوم الأداء إجماعاً و هو
الأصح.“^(۱)

اور عالمگیری میں ہے:

” وأن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب، و عندهما
يوم الأداء و كذا كل مكيل أو موزون أو معدود.“^(۲)

(۲) اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ تھوک کے بھاؤ کا اعتبار ہوگا، یا پھر
فروختگی کا لحاظ کیا جائے گا؟

اس سلسلے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری، اصول سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
کاروبار جس نرخ کا ہو زکاۃ اسی کے لحاظ سے نکالی جائے، مثلاً کوئی ہول سیل کاروبار کرتا
ہے تو وہ ہول سیل قیمت کے مطابق زکاۃ دے اور جو ریٹیل کاروبار کرتا ہے وہ ریٹیل
قیمت کا لحاظ کرے۔ ہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ دونوں طرح کا کاروبار
کرتے ہیں، وہ کس قیمت کا اعتبار کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ فقهاء کے بیان کردہ
اصول ”انفع للفقراء“ کا لحاظ کرتے ہوئے ریٹیل کی قیمت پر زکاۃ دے۔

(۳) اراضی کی خرید و فروخت کرنے والے اپنی ملکیت میں جوز میں برائے
تجارت رکھتے ہیں، ان پر زکاۃ ہے یا نہیں اور ان کی زکاۃ کس نرخ کے اعتبار سے نکالی
جائے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ زمینوں پر اصل میں یا تو خراج ہے، یا عشر؛ کیوں کہ زمینیں
خرابی، یا عشری ہوتی ہیں، اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ سونے چاندی اور جانور کے

(۱) در مختار مع رد المحتار: ۲۱۱/۳

(۲) العالمگیری: ۱/۱۹۸

علاوہ دیگر چیزیں جو تجارت کے لیے ہوں ان میں زکاۃ اس وقت واجب ہوگی جب کہ کوئی مانع ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے دودفعہ زکاۃ لازم آئے۔ درمختار میں ہے:

” والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم إنما يزكي
بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدى إلى الشنى. قال
الشامي: هذا وصف في معنى العلة أي لا زكاة فيما نواه
للتجارة من نحو ارض عشرية او خراجية لثلا يؤدى الى
تكرار الزكاة؛ لأن العشر والخراج زكاة أيضاً.“ (۱)

لیکن اگر کسی زمین میں نہ خراج آئے نہ عشرہ واجب ہو وہ زمین مال تجارت ہو سکتی ہے؛ اس لیے ان پر زکاۃ ہے کیوں کہ یہ بھی مال تجارت ہے اور جیسا کہ گذرا، وجوب زکاۃ کے دن کی یادا یگی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا؛ مگر چوں کہ زمین جب تک فروخت نہ ہو جائے، اس کی قیمت قطعی طور پر متعین نہیں ہو سکتی؛ بل کہ کمی بیشی کا احتمال رہتا ہے؛ اس لئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حساب سے زکاۃ نکالی جائے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی موجودہ بازاری قیمت لگا کر اس کے مطابق زکاۃ دی جائے، البتہ ایک قول کے مطابق فروختگی تک انتظار کر لینے کی بھی گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رض سے مروی ہے کہ فرمایا: سامان کی فروختگی تک ادائے زکاۃ کے انتظار میں کوئی حرج نہیں۔ (۲)

کمپنی کے حصوں (شیرز) پر زکاۃ

تجارتی کمپنیاں جو اپنے شیرز فروخت کرتی ہیں ان پر زکاۃ ہوگی، یا نہیں؟ جواب

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۱۹۲/۳

(۲) فقه الزکاۃ: ۱/۲۲۸، بحوالہ الأموال: ۱/۳۳۶

یہ ہے کہ ہوگی؟ کیوں کہ یہ شیرز دراصل شیر ہولڈر کی ملکیت میں داخل ہیں، جن کو وہ برائے تجارت کمپنی میں لگایا ہوا ہے؛ لہذا اس پر ضرور زکوٰۃ لازم ہے، وھو ظاہر جدا۔

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمپنی کے شیرز کمپنی کی ساکھ اور نفع و نقصان کے پیش نظر باعتبار قیمت گھٹتے اور بڑھتے ہیں، مثلاً ایک شیر اور حصہ کمپنی کی شروعتات کے موقع پر پانچ ہزار کا تھا؛ مگر کمپنی کی ترقی اور زیادتی منافع کی وجہ سے وہی حصہ دس ہزار کو فروخت ہوتا ہے، تو اب زکوٰۃ اصل رقم کے اعتبار سے ہوگی، یا بازار کے موجودہ نرخ کے مطابق ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ حصہ مال تجارت کے قائم مقام ہیں اور ان کا مالک ان کی خرید و فروخت کرتا اور مال بڑھاتا ہے؛ لہذا سامان تجارت کی طرح ان حصے کی وہ قیمت معتبر ہوگی، جو بازار میں راجح ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حصے کی کمی بیشی کے ساتھ بیع کی جو توجیہ و تاویل کی ہے کہ ”اگر کسی کامپنی میں سو کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سو میں سے کچھ کا تو سامان ہے اور کچھ نقدی ہے اور بیع میں کمی بیشی خلاف جنس کی طرف پھیرنے سے جائز ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ سو میں سے مثلاً تینیں کا سامان ہے اور نقدی ستر ہے اور بیع اس کی دو سو سے ہو تو ان میں سے ستر تو ستر کے بدله میں ہیں اور باقی ایک سوتیس سامان کے بدله میں ہیں۔ (۱)

اس تاویل کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ زکاۃ موجودہ نرخ پر دینی چاہیے۔ واللہ اعلم کیوں کہ جب اس تاویل سے یہ کمی بیشی جائز قرار پاتی ہے، تو جب بازار میں کمپنی کے حصہ کی قیمت پانچ سے بڑھ کر دس ہو گئی تو جیسا کہ اوپر مذکور ہوا زکاۃ بازار کے موجودہ نرخ کے مطابق نکالی جائے گی۔

(۱) امداد الفتاوی: ۲۱/۲

بانڈز پر زکاۃ کا حکم

بانڈ جو کہ سند قرض ہے، اس پر زکاۃ آئے گی، یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ چوں کہ یہ قرض ہے جو دین قوی کہلاتا ہے، جس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں آئی ہے؛ اس لیے اس پر گذشتہ ایام کی زکاۃ بھی واجب ہے، البتہ ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وصول ہو جائے اور بانڈ کو کیش کرالیا جائے۔ **والله اعلم**



محور ثانی

نصاب زکاۃ

چاندی اور سونے میں سے کون سا نصاب اصل ہے؟

موجودہ دور میں جب کہ سونے اور چاندی کے نرخ میں بے حد تفاوت پایا جاتا ہے، اگر سونے کے نصاب کا نرخ دیکھا جائے تو وہ تمیں پینتیس ہزار تک پہنچتا ہے جب کہ چاندی کا نصاب صرف پانچ چھ ہزار میں بیٹھ جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ حرمتِ اخذِ زکاۃ وایجادِ زکاۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے مقرر کیا جانا چاہیے یا سونے کے حساب سے؟

اس مسئلہ پر ماضی قریب کے علماء اور معاصر علماء نے متعدد پہلوؤں سے بحث کی ہے اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کو اصل قرار دے کر اسی سے نصاب کا تعین کیا جائے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ چاندی کے نصاب پر اجماع ہے اور دوسرے اس لیے کہ چاندی کا نصاب مشہور و تحقیق حدیث سے ثابت ہے اور تیسرا اس وجہ سے کہ چاندی کا نصاب فقراء کے حق میں زیادہ مفید ہے۔

اس کے برخلاف بعض دیگر علماء جیسے ”شیخ ابو زہرہ، شیخ خلاف اور شیخ حسن“ نے سونے کے نصاب کو اصل قرار دینے کی تجویز کی ہے، علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے؛ اس لیے کہ اموال زکاۃ کو اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے کہ پانچ اونٹوں پر زکاۃ ہے، چالیس بکریوں پر زکاۃ ہے، پانچ

و سن کھجور، یا کشمش پر زکاۃ ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس عہد میں زکاۃ کے تمام نصابوں سے قریب سونا ہے چاندی نہیں؛ اس لیے مناسب یہی ہے کہ نصاب زکاۃ کے لئے سونے کو اصل قرار دیا جائے۔ (۱)

رقم المحرف نے اپنی اس تحریر میں پہلے اسی نقطہ نظر کے مطابق جواب لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس میں اگرچہ پہلے قول کے بر عکس فقراء اور مستحقین کے حق میں نستبائ فائدہ کم ہے، مگر امت مسلمہ کے عام افراد جن کے ذمہ زکاۃ ہے، ان کے حق میں سہولت ہے، اس کے علاوہ موجودہ دور میں چاندی کے نصاب کے اعتبار سے بہت ہی کم مقدار مال پر زکاۃ عائد ہوگی، جو اسلامی عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں مزید تبع و تلاش اور غور و فکر نے احقر کو اسی نتیجہ پر پہنچایا جو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے؛ لہذا اپنی سابقہ تحریر سے رجوع کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے دونوں نصاب اصل ہیں اور ان میں سے کوئی کسی کا تابع نہیں ہے؛ اس لیے جس کے پاس سونا ہو وہ سونے کے نصاب سے اور جس کے پاس چاندی ہو وہ چاندی کے لحاظ سے زکاۃ ادا کرے گا اور جس کے پاس دونوں میں سے کچھ کچھ ہو تو وہ ان میں سے جس کا بھی نصاب مکمل ہو جائے اس کا لحاظ کرتے ہوئے زکاۃ ادا کرے گا اور ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں سونے کے بجائے چاندی ہی کا نصاب پورا ہوگا، ہاں اگر کسی کے پاس نہ سونا ہونے چاندی ہو؛ بلکہ خالص روپیہ اور کرنی ہو تو وہ کس کا لحاظ کرے گا؟ اس میں بحث ہے اور جمہور کا یہی فیصلہ ہے کہ اس میں بھی چاندی کو اصل مان کر زکاۃ دینا چاہئے؛ اس لیے میں بھی اسی طرف رجوع کرتا ہوں۔

(۱) فقه الزکاۃ للقرضاوی: ۲۶۲/۱

محور ثالث

مصارف زکاۃ

مد زکاۃ سے فیس کی وصولی

مستحق زکاۃ طالب علم پر بسلسلہ قیام و طعام و تعلیم جو خرچ آتا ہے، مدرسہ کی مد زکاۃ سے اہل مدرسہ کیا اس کو ادا کر سکتے ہیں، یا اس رقم کا چیک اس طالب علم کے نام دے کر بعد کیش کرنے کے اس سے وصول کر کے مدرسہ میں جمع کر سکتے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری (چیک والی) صورت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، یہ تمیلیک کی معقول صورت ہے اور بلاشبہ جائز ہے؛ البتہ پہلی صورت میں احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ پہلے طالب علم، اہل مدرسہ کو اس بات کا وکیل بنادے، جب اہل مدرسہ طالب علم کے وکیل کی حیثیت سے مد زکاۃ سے مقررہ رقم فیس میں ادا کر دیں گے، تو جائز ہے۔

اب رہایہ سوال کہ مہتمم مدرسہ طلبہ کا وکیل ہے، یا نہیں؟ نیز زکاۃ دہندگاں کا وکیل ہے، یا نہیں؟

اس بارے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ تذكرة الرشید میں واضح و صریح ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہتمم طلبہ کا وکیل ہے اور بعض اعتبارات سے زکاۃ دہندگاں کا بھی وکیل ہو سکتا ہے۔ وہ فتویٰ یہ ہے:

”مہتمم مدرسہ کا قیم و نائب جملہ طلبہ جیسا کہ امیر نائب جملہ عالم کا ہے، پس جو شئی کسی نے مہتمم کو دی مہتمم کا قبضہ خود طلبہ کا قبضہ ہے، اس کے قبضہ سے ملک معطی

سے نکلا اور ملک طلبہ کا ہو گیا اور مہتمم بعض وجوہ میں وکیل معطلی کا بھی ہو سکتا ہے۔ (۱)
 یہی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور حضرت
 تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آخر میں اسی کی طرف رجوع فرمالیا تھا، نیز حضرت مولانا
 مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی نے بھی اسی کو اختیار فرمایا کہ اس کے خلاف
 سے رجوع کر لیا تھا۔ (۲)

الغرض مہتمم و اہل مدرسہ وکیل فقراء ہیں، لہذا جب وہ وکیل ہوئے تو طلبہ کی
 طرف سے ان کی ضروریات میں مدد زکاۃ سے خرچ کرنا ان کے لئے جائز ہے، پھر
 بھی اگر صراحةً تو کیل ہو جائے تو احتیاط کا تقاضا ہے۔ واللہ اعلم
مدارس کے سفر اکی حیثیت

عام طور پر مدارس میں وصولی چندہ کے لیے سفار کھے جاتے ہیں اور ان کو ان کا
 حق الخدمۃ دیا جاتا ہے، ان کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ”العاملین علیہما“ میں
 داخل ہو کر مستحق زکاۃ ہیں؟ اور کیا ان کو زکاۃ کی رقم سے ان کا معاوضہ دینا جائز ہے؟
 جواب یہ ہے کہ ہاں یہ عاملین صدقہ کے حکم میں داخل ہیں اور چوں کہ عاملین
 صدقہ کی حیثیت وکیل فقراء ہونے کی ہے؛ اس لیے ان کو زکوۃ کی مد میں سے ان کا حق
 خدمت دینا جائز ہے۔ جیسے کوئی فقیر کسی کو اپنے مقدمہ کا وکیل بنادے اور اس کا حق
 الخدمۃ زکوۃ کا مال، وصول کر کے اس سے ادا کر دے تو جائز ہے۔ حضرت مفتی شفیع
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اگرچہ یہ لکھا ہے کہ مدارس کے سفر

(۱) تذکرة الرشید: ۱/۱۶۲

(۲) دیکھو امداد المفتین: ۲/۱۰۸۵

مگر امداد المفتین میں صراحةً اس سے رجوع فرمایا ہے، اور سفر اوائل مدرسہ کو صدقہ کے عاملین کے حکم میں داخل فرمایا ہے اور حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی و حضرت سہار نپوری رحمہم اللہ سب کا یہی مسلک ظاہر کیا ہے۔ (۱)

زکاۃ کی وصولی پر کمیشن

آج کل بعض مدارس میں کمیشن پر چندہ وصول کیا جاتا ہے اور اس میں سے کہیں ۵۰%， اور کہیں ۳۰%، وصول کرنے والے کو دیا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ زکاۃ اور چندہ وصول کرنے والوں کو کمیشن دینا کیسا ہے؟ اور اس طرح وصول کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے؛ نہ اس صورت سے زکاۃ و دیگر عطیہ جات وصول کرنا جائز ہے اور نہ وصول کرنا جائز ہے؛ اس لیے کہ سفارت کا یہ معاملہ دراصل اجارہ ہے اور فقہاء نے اجارہ کے صحیح ہونے کے لیے متعدد امور کی شرط لگائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کام معلوم ہو اور دوسرے یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو اور ایک یہ ہے کہ مدت معلوم ہو وغیرہ اور ان کے مفقود ہونے کی صورت میں اجارہ کو فاسد قرار دیا ہے۔

علامہ ابن نجیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”وقد ضبطه الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله في مختصره فقال: إذا كان ما وقع عليه عقد الاجارة مجهاولاً في نفسه أو في أجرة أو في مدة الاجارة أو في العمل المستأجر عليه فالاجارة فاسدة.“ (۲)

(۱) دیکھو امداد المفتین: ۱۰۸۵/۲:

(۲) البحر الرائق: ۷/۵۳۰

(شیخ ابوالحسن کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر میں اس کا ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر عقد اجارہ جس پر واقع ہوا ہو وہ خود یا اس کی اجرت یا اس کی مدت یا وہ کام جس پر اجارہ کیا گیا ہے، مجھوں ہو تو وہ اجارہ فاسد ہے)

اور اس معاملہ میں نہ تو کام کی مقدار متعین ہے اور نہ اجرت معلوم ہے؛ کیوں کہ اس میں یہ طنہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے کام ہو گا اور نہ یہ طے ہوتا ہے کہ اجرت کیا ہو گی؛ بل کہ جو بھی وصول ہو، اس پر مقررہ فیصلہ کمیشن دیا جاتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھنٹے میں ایک سفیر کو ایک لاکھ کا چندہ وصول ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا پورا دن کئی کئی دنوں کی محنت کے باوجود بھی کچھ وصول نہ ہو؛ لہذا جس کو ایک ہی گھنٹے میں ایک لاکھ وصول ہو گئے، اس کو پچاس فیصلہ کمیشن کے مطابق پچاس ہزار دیے جائیں گے اور جس کو پورا مہنیہ محنت کے باوجود کچھ وصول نہ ہو ایسا بہت کم وصول ہو اس کو کچھ نہ دیا جائے گا یا بہت کم دیا جائے گا، الغرض نہ کام مقرر ہے اور نہ اجرت مقرر ہے۔

بعض لوگ اس دلیل پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقہاء نے صرف ایسی جہالت کو مفسد عقد کہا ہے جو مفضی الی النزاع ہو اور اس معاملہ میں فیصلہ طے ہو جانے کی وجہ سے کوئی نزاع نہیں ہوتا؛ اس لیے یہ جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول اپنی صحیح ہے کہ جہالت مفضی الی النزاع ہی مفسد عقد ہوتی ہے؛ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس میں کوئی اور مخلوط شرعی لازم نہ آئے اور یہاں ایک محظوظ لازم آتا ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں بسا اوقات قمار کی شکل لازم آتی ہے؛ کیوں کہ کبھی سفیر کو ایک گھنٹے میں ہزاروں کا نفع ہو جاتا ہے اور کبھی محنت کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔

اس کے علاوہ یہ معاملہ اس حدیث قبیز طحان کے خلاف ہے جس میں اجیر کی اجرت اسی کے عمل سے دینے کو منع کیا گیا ہے، اس طرح یہ معاملہ کئی طرح سے ناجائز ہے۔

زکاۃ کا حساب لکھنے والوں کی تخریج زکاۃ سے

رہا یہ سوال کہ حساب آمد و خرچ کے اندر ارج پر جو عملہ مقرر ہے، اس کی تخریج مدد کاۃ سے ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ زکاۃ کے حسابات لکھنے پر مدد کاۃ سے اس کی تخریج دینا جائز ہوگا؛ کیوں کہ یہ ان مستحق طلبہ ہی کا کام ہے، الہذا ان کے مال (مدد کاۃ) سے ان کے کام کی اجرت دینا درست ہونا چاہیے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ

مصرف زکاۃ ”فِی سَبِيلِ اللَّهِ“

آیت مصارف زکاۃ:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْخ﴾

میں زکاۃ کا ایک مصرف ”فِی سَبِيلِ اللَّهِ“ بتایا گیا ہے، اس کی تفسیر میں ائمہ مجتہدین و فقہاء متفقین میں سے دو قول ملتے ہیں۔

پہلا قول

پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، یعنی غازی کو جہاد کرنے کے لیے زکاۃ دی جاسکتی ہے، یہی اکثر علماء ائمہ مذهب اور مختار قول ہے۔ کما قال ابن حجر فی الفتح . (۱)

احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور علماء احناف نے اسی کو اظہر اور صحیح قرار دیا ہے۔ (۲)

(۱) فتح الباری: ۳/۳۳۲

(۲) دیکھو الشامی: ۳/۲۸۹

اور بہت سے اصحاب متون جیسے صاحب کنز الدقائق، صاحب المنار اور صاحب مختصر (امام قدوری) رحمہم اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، یہی قول امام شافعی رحمہم اللہ نے اور حضرات شوافع کا ہے۔ ”كتاب الام“ میں امام شافعی رحمہم اللہ نے تصریح کی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مد میں جہاد کرنے والوں کو زکوہ دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور کو اس مد سے نہیں دیا جائے گا۔ (۱)

”الفقه علی المذاہب الاربعة“ میں شافعیہ کا مسلک بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ وہ رضا کارانہ جہاد کرنے والا ہے جس کا دیوان میں کوئی مشاہرہ نہ ہو۔ (۲)

امام مالک رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، امام قرطبی مالکی رحمہم اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :

”قوله تعالى: ”وفي سبیل الله“ وهم العزوة وموضع الرباط
يعطون ما ينفقون في غزوهم، كانوا أغنياء أو فقراء، وهذا قول
أكثر العلماء وهو تحصیل مذهب مالك رحمہم اللہ .“ (۳)

مشہور مالکی فقیہ و مفسر قاضی ابن العربي فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا کہ میرے علم میں اس سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں (آیت صدقات) میں اس (فی سبیل اللہ) سے مراد جہاد ہے۔ (۴)

نیز حنابلہ سے بھی یہی مروی ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، ابن قدامہ عنبی رحمہم اللہ نے

(۱) کتاب الام للشافعی : ۱۸۵/۳

(۲) الفقه علی المذاہب الاربعة: ۱/۵۶۶

(۳) تفسیر قرطبی : ۱۰/۲۷۱

(۴) أحکام القرآن: ۲/۵۳۳

فرمایا کہ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ سے یہی مراد ہوتا ہے اور قرآن میں بھی چند مقامات کے سوا اس سے جہاد ہی مراد ہے، اس بنابر آیت صدقات میں ”فی سبیل اللہ“ سے جہاد ہی مراد ہو گا کہ یہی آیت کا ظاہر ہے۔ (۱) اس تفصیل سے واضح ہوا کہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد غازی ہے؛ البتہ بعض تفاصیل میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً احناف کے نزد یک غازی کو زکوٰۃ بشرط فقر دی جائے گی، جب کہ جمہور کے نزد یک فقر کی شرط نہیں ہے، اسی طرح کچھ اور امور میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

دوسراؤل

فی سبیل اللہ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حج ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہی ہے اور امام اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔ (۲) احناف میں سے امام محمد بن الحسن الشیعانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے۔ (۳) یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، مگر احناف نے پہلے قول ہی کو صحیح و اظہر قرار دیا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اگرچہ ایک روایت یہی ہے، مگر ان کے یہاں بھی صحیح قول اول ہی ہے، جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا۔

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج کا ”فی سبیل اللہ“ ہونا منقول ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے اور ابن حجر نے بتایا ہے کہ اس کو ابو عبید

(۱) الكافی: ۱/۳۳۵، المبدع: ۲/۲۱۱

(۲) فتح الباری: ۳/۳۳۲

(۳) الشامی: ۳/۲۸۹، بحر الرئق: ۲/۳۲۲، تفسیر روح المعانی: ۱۰/۱۲۳

نے موصولاً ”كتاب الاموال“ میں روایت کیا ہے؛ مگر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سند کے لحاظ سے مضطرب قرار دیا ہے۔ (۱)

اور ابن عمر کی روایت بھی ابو عبید نے ”الاموال“ میں ذکر کی ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے؛ مگر اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ حج ”فی سبیل اللہ“ ہے، زکوٰۃ دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور تابعین میں سے حضرت حسن سے بھی یہ بات مردی ہے، امام بخاری نے تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے اور ابن ابی شیبہ نے سند صحیح موصولاً روایت کیا ہے۔ (۲)

خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اگرچہ یہ قول مردی ہے؛ مگر یہ روایت مضطرب ہے اور ابن عمر سے اگرچہ سند صحیح یہ آیا ہے کہ حج ”فی سبیل اللہ“ سے ہے؛ مگر اس میں زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں اور یہ معلوم ہے کہ حج اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں؛ مگر زکوٰۃ دینے نہ دینے کا مسئلہ دیگر ہے؛ البته حسن سے ضروریہ منقول ہے اور سند صحیح منقول ہے؛ مگر جیسا کہ اوپر گذر اجمہور اس سے متفق نہیں ہیں؛ لہذا ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیر میں جمہور کی رائے سے ہی اتفاق کرنا چاہیے؛ البته کوئی دوسرا قول اختیار کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے کہ سلف میں سے بعض ائمہ اس کے ساتھ ہیں، اس ضروری وضاحت کے بعد اس سلسلہ کے سوالات پر نظر ڈالنا ہے۔

حضر حقیقی یا اضافی

پہلا سوال یہ ہے کہ آیت صدقات نے آٹھ اصناف کو تخصیص ذکر کر کے، ان کا

(۱) فتح الباری: ۳/۳۳۲

(۲) فتح الباری: ۳/۳۳۲

مصارفِ زکاۃ ہونا واضح کیا ہے اور شروع کلام ہی میں ”انما“ کلمہ حصر لا کر مصارفِ زکاۃ کو ان آٹھ اصناف میں محصور کر دیا ہے، یہ حصرِ حقیقی ہے، یا اضافی ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حصر اضافی قرار دیا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟

ظاہر ہے کہ اس حصر کو اگر غیرِ حقیقی اور اضافی قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مذکورہ اصناف کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اور دوسرے امور بھی مصرفِ زکاۃ ہو سکتے ہیں؛ مگر یہ بات جمہور علماء کے خلاف ہے؛ بل کہ خود احادیث کے بھی خلاف ہے، چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ صدقات میں سے مجھے دیجیے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی یا غیر نبی پر صدقات کو موقوف نہیں رکھا؛ بل کہ خود ہی اس میں فیصلہ اور حکم فرمایا اور اس کے آٹھ اصناف قرار دیے ہیں، پس اگر تو ان آٹھ میں سے ہے تو میں تجھے تیراق دوں گا۔ (۱) اس روایت کے ایک راوی عبد الرحمن بن زیاد الافریقی پر علمانے کلام کیا ہے؛ مگر اتنا یاد رہے کہ یہ متفق علیہ ضعیف نہیں ہیں، بعض ائمہ تعدیل و جرح نے اگرچہ ان کی تضعیف کی ہے، تاہم بعض ائمہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے۔ جیسے امام بخاری نے ان کو قوی اور مقارب الحدیث کہا ہے۔ ابن صالح نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، یعقوب بن شیبہ نے بھی ثقہ صدوق فرمایا ہے، ابن سفیان نے لاباس بہ کہا ہے، تیکی القطان نے بھی ثقہ گردانا ہے۔ (۲)

لہذا یہ روایت کم از کم حسن ہو گی کہ مختلف فیہ راوی کی روایت ہے، غرض اس سے معلوم ہوا کہ آٹھ اصناف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، سوائے ان کے کوئی اور زکاۃ

(۱) ابو داود: ۱۶۳۰

(۲) دیکھو تهذیب التهذیب لابن حجر: ۵۰۵/۲

کا مصرف نہیں ہو سکتا، گویا یہ حدیث آیت کریمہ کی شرح ہے، جو حصر کو حصرِ حقیقی قرار دے رہی ہے؛ اسی لیے علمانے بھی اس کو حقیقی حصر ہی پر محمول کیا ہے اور سب نے با تفاق ان آٹھ اصناف کے علاوہ کسی اور کوز کا ڈینے کا ناجائز ہونا بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں چند مفسرین کے قول نقل کرتا ہوں، امام النسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أى

هی مختصة بهم لا تتجاوز الى غيرهم، كأنه قيل: إنما هی
لهم لا لغيرهم.“ (۱)

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”أى الزكوات لهؤلاء المعدودين لا لغيرهم.“ (۲)

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”يقول تعالى ذكره: ”لا تنازل الصدقات إلا الفقراء

والمساكين ومن سماهم الله تعالى جل ذكره.“ (۳)

امام البغوي رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزيل میں لکھتے ہیں:

”بين الله تعالى في هذه الآية أهل أسمهم الصدقات

وجعلها لثمانية أصناف.“ (۴)

اور علامہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”انما“ فی هذه الآية حاصرة تقتضی وقوف الصدقات

(۱) تفسیر النسفی: ۲/۳۳۱ سورہ توبہ، آیت: ۶۰

(۲) تفسیر بیضاوی: ۳/۵۲ سورہ توبہ، آیت: ۶۰

(۳) تفسیر الطبری: ۱۰/۱۱۰ سورہ توبہ، آیت: ۶۰

(۴) معالم التنزيل: ۱/۲۱ سورہ توبہ، آیت: ۶۰

علی الشمانیة الأصناف۔ ”(۱)

اور مشہور حنبلی فقیہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

”ولا یجوز صرف الزکاۃ الی غیر مَنْ ذکر اللہ مِنْ بناء المساجد والقناطر والسدود والسقايات واصلاح الطرق وسد البثوق وتکفین الموتی والتوسعة علی الا ضياف وابشأه ذلك من القرب التي لم یذكرها اللہ تعالیٰ و ”إنما للحصر والإثبات تثبت المذکور وتنفي ما عداه . (۲)

اور علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”والاصل فيمن یجوز الدفع اليه ومن لا قوله تعالیٰ ”انما الصدقات للفقراء الآية، فمن کان من هذه الاصناف کان مصراً و من لا فلا؛ لأن ”انما“ تفید الحصر فیثبت النفى عن غيرهم.“ (۳)

یہ چند حوالے ہیں جن میں مفسرین وفقہا نے اس حصر کو حصر حقیقی مانتے ہوئے صرف انہی اقسام پر زکاۃ کو خرچ کرنے پر زور دیا ہے؛ لہذا اللہ کے رسول کی تشریع اور اسی کے مطابق حضرات فقہا کی تصریح کے خلاف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق کہ یہ حصار اضافی ہے غیر مقبول ہے۔

فی سبیل اللہ سے مراد غزوہ ہے
دوسرے سوال یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کی تعبیر قرآن و سنت میں کیا جہاد ہی کے

(۱) تفسیر الشعاعی: ۱۸۸/۳ سورہ توبہ، آیت: ۲۰

(۲) المغنى: ۱۲۵/۲ سورہ توبہ، آیت: ۲۰

(۳) فتح القدیر: ۲۶۲/۲ سورہ توبہ، آیت: ۲۰

لیے آئی ہے اور اس سے کیا کچھ اور امور خیر مراد نہیں لیے جاسکتے؟

جواب یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کی تعبیر عام طور پر قرآنی و حدیثی استعمالات میں جب مطلق آئے تو غزوہ و جہاد ہی مراد ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ الزکاۃ میں سیر حاصل بحث کر کے اور قرآن و سنت کے ذخیرہ میں اس کے استعمالات کا تتبع واستقرار کر کے ثابت کیا ہے، ہم اس تحقیق سے پورا پورا اتفاق کرتے ہیں۔

تفسیر میں اقوال سلف سے ہٹ کر کوئی قول اختیار کرنا جائز نہیں
 تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیر میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے صرف دو قول منقول ہیں: ایک یہ کہ مراد جہاد ہے، دوسرا یہ کہ مراد حج ہے، تو کیا کسی کو اس سے ہٹ کر تیسرا، یا چوتھا قول اختیار کرنے کی گنجائش ہے؟ یا نہیں۔
 اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر میں سلف سے صرف دو قول مروی ہوں تو اس کے بعد لغت، قیاس، عقل وغیرہ کسی ذریعہ سے بھی تیسرا، یا چوتھا قول ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

علامہ ابن تیمیہ فتاوی میں فرماتے ہیں:

”ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف
 تفسيره من جهة النبي لم يتحج ذالك إلى أقوال أهل
 اللغة.“ (۱)

یہ ظاہر ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیر اللہ کے نبی ﷺ سے وارد ہوئی ہے،

(۱) فتاوی شیخ الاسلام: ۱۳/۲۷

چنانچہ حدیث میں آپ نے فرمایا:

”لا تحل الصدقۃ لغنى الا لخمسة لغاز فی سبیل اللہ“ الخ. (۱)

اس حدیث میں ”فی سبیل اللہ“ کے عنوان سے آپ نے صرف غازی کو پیش کیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اس سے صرف غازی مراد ہے، اس کی توضیح یہ ہے کہ اس حدیث میں غنی لوگوں میں سے جن کو زکاۃ دینا جائز قرار دیا ہے، ان میں ایک غازی ہے، اگر ”فی سبیل اللہ“ سے مراد غازی کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا تو حدیث میں لانفی اور الا سے جو حصر پیدا کیا گیا ہے وہ غلط ہوتا؛ کیوں کہ اس حدیث میں مذکور اور چار مصارف ”فی سبیل اللہ“ سے ہٹ کر ہیں اور ”فی سبیل اللہ“ کے عنوان سے صرف غازی کو پیش کیا ہے۔ اب اگر قرآن میں ”فی سبیل اللہ“ سے غازی مراد نہ لیا گیا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شرط فقر ملحوظ ہو، پھر تو یہ صرف تفسیر میں اختلاف ہوا، حکم زکاۃ میں نہیں، اور اگر شرط فقر نہ ہو تو مطلب یہ ہو گا کہ ”فی سبیل اللہ“ میں غازی کے علاوہ بھی انگیا بھی داخل ہیں، جب کہ حدیث کا حصر اس کو باطل کر رہا ہے، پس معلوم ہوا کہ اس میں صرف غازی داخل ہونا چاہیے۔ *والله اعلم*

پس جب حدیث و سنت نے مراد کو واضح کر دیا تو اب اہل لغت وغیرہ کی طرف جانے کی کوئی ضروت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کا رد کیا ہے جو تفسیر میں سلف سے صرف دوقول ہونے کے باوجود، تیسا قول ایجاد کرتے ہیں اور اس کو پوری امت کی تضليل کرنے کے متراوی قرار دیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”قالَ كثيْرٌ مِّنْهُمْ إِنَّ الْأَمْمَةَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ الآيَةِ“

علی قولین جاز لمن بعد هم أحداث قول ثالث، فجوزوا

(۱) أبو داود: ۱۶۳۵، ابن ماجہ: ۱۸۳۱، موطا مالک: ۹۱۹، أحمد: ۱۱۵۳۸

ان تكون الأمة مجتمعة على الصلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتبعون ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا.“^(۱)
 (ان لوگوں میں سے بہت سے یہ کہتے ہیں کہ اگر امت آیت کی تفسیر میں دو اقوال پر اختلاف کرے، تو بعد میں آنے والوں کے لیے تیسرا قول ایجاد کرنا جائز ہے، پس ان لوگوں نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ امت قرآن و حدیث کی تفسیر میں گمراہی پر جمع ہو سکتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کرے اور اس سے ایسے معنی مراد لے جسے صحابہ و تابعین نے نہ سمجھا ہو؛ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں، اگر یہ اس قول کے ان مضرات پر غور کرتے تو یہ بات نہ کہتے)

اور ظاہر ہے کہ پوری امت کی تحلیل، یا تجھیل سوائے جہالت و ضلالت کے کچھ نہیں؛ اس لیے جب سلف کرام کسی بات پر قائم ہو جائیں تو اس کے خلاف کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَا دَارَهُ

چوخا سوال یہ ہے کہ ”فِي سَبِيلِ اللّٰهِ“، جس کی تشریح و تفسیر کسی قدر تفصیل کے ساتھ اوپر عرض کی گئی، اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ جواب یہ ہے کہ چوں کہ سلف سے اس سلسلہ میں صرف دو قول منقول ہیں؛ لہذا ہمارے نزدیک اس سے غزوہ یا حج ہی

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ : ۱۳/۵۹

مراد ہے اور اس کے دائرہ میں بقول احناف محتاج محتاج غازی، یا محتاج حاجی اور دیگر ائمہ کے قول پر مطلق غازی یا مطلق حاجی آتے ہیں اور احناف میں سے بعض فقہاء نے جو طالب علم کو اس کا مصدق قرار دیا ہے، انہوں نے خود ہی فقر کی قید بھی لگادی ہے؛ اسی لیے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت کی مراد میں اختلاف ہے، حکم میں کوئی اختلاف حقیقی نہیں؛ کیوں کہ طالب علم اگرچہ ”فی سبیل اللہ“ میں داخل ہیں؛ مگر ان کو زکاۃ فقیر ہونے کی حیثیت سے دی جائے گی۔

علامہ حصلفی نے طالب علم کو ”فی سبیل اللہ“ کا مصدق بتانے کے بعد لکھا ہے:

”وثمرة الاختلاف في نحو الاوقاف“

اس پر شامی نے فرمایا:

”يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في المراد بالآلية لا في الحكم، ولذا قال في النهر: والخلف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر“ الخ. (۱)

اور جن لوگوں نے بلا قید فقر طالب علموں کو مصرف زکوۃ قرار دیا ہے، ان کا قول مرجوح اور غیر معتمد ہے، چنانچہ طحطاوی نے فرمایا:

”وهذا الفرع مخالف لا طلاقهم الحرمة في الغني ولم يعتمد أحد.“

(یہ جزئی غنی کو زکاۃ دینے کے سلسلہ میں فقہاء کے اطلاق حرمت کے خلاف ہے اور اس پر کسی نے اعتماد نہیں کیا)، اس پر شامی نے تائید کرتے ہوئے لکھا:

(۱) در مختار مع الشامی: ۲۸۹/۳

”قلت : و هو كذاك والا وجه تقييده بالفقير .“ (۱)

خلاصہ یہ کہ جن فقہا نے طالب علم کو بشرط فقر مصرف زکاۃ قرار دیا ہے، ان کے مسلک پر طالب علم کو زکاۃ بجیت فقیر دی جاتی ہے اور جنہوں نے بلا قید فقر طالب علم کو دینا جائز قرار دیا ہے، ان کا قول جمہور کے نزدیک غیر راجح؛ بل کہ غیر معتمد وغیر مقبول ہے۔ اسی طرح جن حضرات فقہا نے ”فی سبیل اللہ“ میں تمام امور خیر کو داخل کیا ہے، جیسے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فقر کی شرط لگائی ہے؛ لہذا ان امور خیر میں زکاۃ دینا بعجه فقر ہوا۔ الغرض ہمارے نزدیک ”فی سبیل اللہ“ میں اصلاً واصالتہ عازی یا حاجی داخل ہے، یہی اس کی صحیح تفسیر ہے۔

فی سبیل اللہ میں فقر کی شرط

اس ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کا مصدق حاجی ہو یا عازی ان کو بشرط فقر مستحق زکاۃ کہا جائے گا یا بلا قید فقر؟ جواب یہ ہے کہ اس میں ائمہ اجتہاد ہی سے اختلاف چلا آرہا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک فقر شرط ہے۔ علامہ ابن حکیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ”البحر الرائق“ میں ”فی سبیل اللہ“ کی مراد بتانے کے بعد فرمایا:

”ولَا يخفى أَنْ قِيدَ الْفَقْرُ لَابْدَ مِنْهُ عَلَى الْوِجْهِ كَلْهَا“

اس پر شامی نے ”منحة الخالق“ میں ”نهر الفائق“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ:

”ان الاصناف كلها سوى العامل يعطون بشرط الفقر“ (۲)

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف عازی کو دیا جائے گا، خواہ وہ غنی ہو، یا فقیر،

(۱) الشامي: ۲۸۶/۳

(۲) البحر الرائق و منحة الخالق: ۲۲۲/۲

جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کتاب الام“ میں اس کی تصریح کی ہے۔ (۱) اسی طرح علمائے مالکیہ کے نزدیک بھی فقر شرط نہیں؛ بل کہ غازی غنی ہو یا فقیر دونوں صورتوں میں اس کو زکاۃ دی جا سکتی ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”وَهُمُ الْغَزَاةُ وَمَوْضِعُ الرِّبَاطِ، يَعْطُونَ مَا يَنْفَقُونَ فِي
غَزْوَةِ هُمْ، كَانُوا أَغْنِيَاءِ أَوْ فَقَرَاءِ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ
وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذَهَبِ مَالِكٍ۔“ (۲)

اسی طرح حنابلہ میں سے علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب ”الکافی“ میں تصریح کی ہے کہ غازی کو غنی ہونے کے باوجود زکاۃ میں سے دیا جا سکتا ہے؛ کیوں کہ وہ مسلمانوں کی مصلحت سے لیتا ہے۔ (۳)

مصارف زکاۃ اور قیاس

بعض حضرات نے ”فی سبیل اللہ“ کا مصدق جہاد عسکری ہی کو فرار دینے کے باوجود یہ کہا ہے کہ موجودہ زمانہ میں قلمی، فکری، ثقافتی جہاد بھی اسی طرح ضروری ہے، جس طرح پہلے دور میں عسکری جہاد ضروری تھا اور جس علت سے جہاد عسکری میں زکاۃ دینا جائز ہے، اسی علت کی بنا پر قلمی، فکری، ثقافتی جہاد پر بھی زکاۃ لگائی جا سکتی ہے۔

شیخ یوسف القرضاوی نے فقہ الزکاۃ میں اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور اسی رائے کو پیش کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ رائے ونظر یہ صحیح ہے، یا نہیں؟

(۱) الام: ۲۰/۲

(۲) قرطبی: ۱۰/۲۷۱

(۳) الكافی: ۲/۲۰۱

جواب یہ ہے کہ اگر یہ قلمی و فکری اور شافتی جہاد کرنے والے لوگ محتاج و مستحق زکاۃ ہیں، تب تو ان کو زکاۃ دینا جائز ہوگا جیسا کہ طالب علم وغیرہ کو بشرطِ فقر دینا جائز قرار دیا گیا ہے اور یہ حضرات چوں کہ دینی کاموں اور دعوتی کا رواںیوں میں لگے ہوتے ہیں؛ اس لیے ان فقراء کو دینابنیست عالم فقرا کے فضل ہوگا، جیسا کہ طالب علم کے سلسلہ میں علمانے لکھا ہے۔

اسی تقریر سے یہ شبہ بھی دور ہو جاتا ہے، کہ جب ان لوگوں کو بشرطِ فقر دیا جائے گا تو یہ بد فقراء زکاۃ دی گئی، پھر ان کو ”فی سبیل اللہ“ کی مد میں شامل کرنے کا کیا مطلب اور کیا ضرورت؟

جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اگرچہ فقیر ہونے کی حیثیت سے مستحق زکاۃ ہوئے ہیں، تاہم ان میں اور عالم فقرا میں ایک وصف کے لحاظ سے بڑا عظیم فرق ہے کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو الگ سے بیان کیا گیا۔
بح الرائق میں اسی کو فرمایا ہے:

”فَإِنْ قُلْتَ: مِنْ قَطْعِ الْغَزَا وَالْحَجَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَطْنِهِ مَالٌ فَهُوَ فَقِيرٌ وَإِلَّا فَهُوَ بْنُ السَّبِيلِ، فَكَيْفَ تَكُونُ الْأَقْسَامُ سَبْعَةً؟ قُلْتَ: هُوَ فَقِيرٌ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ بِالْانْقِطَاعِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ مَغَايِرًا لِلْفَقِيرِ الْمُطْلَقِ الْخَالِيِّ عَنْ هَذَا الْقِيدِ.“ (۱)

اور اگر یہ لوگ محتاج و فقیر نہیں ہیں، تب احناف کے نزدیک تو کسی بھی طرح وہ مستحق زکوٰۃ نہ ہوئے؛ کیوں کہ ان کے نزدیک عسکری جہاد کرنے والے کو بھی بشرط

نقد دیا جاتا ہے جب یہ فقیر نہیں تو ان کو دینا ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا اور دیگر ائمہ کے مسلک پر غنی مجاہد کو دینا اگرچہ جائز ہے، مگر یہ بات خود ثابت نہیں کہ قلمی، شاقی و فکری جہاد بھی عسکری جہاد کی طرح ”فی سبیل اللہ“ کا مصدقہ ہے اور اشتراک علت کی بناء پر قیاس کے ذریعہ دونوں کو ایک قرار دینا اور حکم کو ایک سے دوسرے کی طرف متعددی کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیوں کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے بموجب مصارفِ زکاۃ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کے فیصلہ پر نہیں رکھا ہے؛ بل کہ خود ہی ان کو مقرر فرمادیا ہے۔ (کماروی فی الحدیث) لہذا یہ محل قیاس نہیں ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اس پر اگر یہ شبہ کیا جائے کہ فقہا نے بعض موقع پر مصارفِ زکاۃ میں قیاس کے ذریعہ حکم کو متعددی کیا ہے۔ اگر یہ محل قیاس نہ تھے تو انہوں نے یہ کیسا کیا؟ مثلاً فقہا احتفاف نے اس شخص کو جس کامال جاتا رہا ہوا اور اسے اس پر قدرت نہ ہو، ابن السبیل (مسافر) کے ساتھ ملحق کیا ہے اور زکاۃ دینا اس کو جائز قرار دیا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے زیلیعی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

”والحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت لأنه فقير يداً وإن كان غنياً ظاهراً۔“ (۱)

تو جواب یہ ہے کہ یہ قیاس نہیں ہے؛ کیوں کہ قیاس کہتے ہیں غیر منصوص کو منصوص پر اشتراک علت کی بناء پر منطبق کرنا اور یہاں نہیں ہے؛ بل کہ ایک منصوص حکم میں اس کے ایک فرد کو داخل کرنا ہے، چنانچہ ”من هو غائب عن ماله“ کو فقیر ہونے کی

(۱) الشامی: ۲۹۰/۳

بنابر زکاۃ کا مستحق قردا یا گیا ہے، اس کوابن اس بیل میں شمار کرنا محض ایک نکتہ کی بنابر ہے، ورنہ وہ فقیر کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ہی مستحق زکاۃ ہے، جیسے علمانے لکھا ہے کہ کسی نے دوسرے کو قرض دے دیا اور وہ ابھی وصول ہونے والا نہ ہوا اور اس دینے والے کو

خرچ کے لیے حاجت پڑھ جائے تو اس کو بھی زکاۃ دی جاسکتی ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمْ

الغرض ہمارے نزد یک مختلف دینی سرگرمیوں اور دعوتی کاموں کے لیے زکاۃ کا دینا جائز نہیں، جیسا کہ جمہور علماء کا نہ ہب ہے۔ اور ”فی سبیل اللہ“ کا دائرہ جہاد عسکری و حج تک ہی وسیع ہے اور دوسرے امور اس میں داخل نہیں اور اگر اس میں داخل ہیں

بھی تو وہ فقر کی شرط سے مشروط ہیں۔ وَاللهُ أَعْلَمْ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مصرف زکاۃ ”فی سبیل اللہ“،

کے بارے میں ایک اہم استفتا کا جواب

نوٹ: مولانا محمد شہاب الدین ندوی مرحوم (بانی فرقانیہ آکیڈمی بنگور) کی جانب سے مصرف زکاۃ کے سلسلہ میں ایک اہم اور طویل استفتا احرقر کے پاس برائے جواب آیا تھا، جس کا جواب احرقر نے علمی انداز پر دیا، چون کہ سوال اور جواب دونوں اہم ہیں؛ اس لئے یہاں اس کو بھی اس مقالہ کا جز بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مولانا شہاب الدین ندوی مرحوم مصرف زکاۃ ”فی سبیل اللہ“ میں حسب ضرورت توسعہ کے قائل تھے اور اس سلسلے میں ان کے بعض مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں؛ مگر یہ مسلک جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابلِ التفات سمجھا گیا اور علمانے ان پر رد بھی لکھا ہے، مولانا کی اس سلسلہ کی کاوشوں میں سے ایک یہ استفتا بھی ہے، جو انہوں نے علماء کے پاس بھیجا تھا تاکہ ان کے نظر یئے کی تائید حاصل کی جاسکے؛ مگر غالباً یہ بات حاصل نہ ہو سکی۔

محمد شعیب اللہ

سوال نامہ فرقانیہ اکیڈمی، بنگلور

محترم المقام جناب مولانا محمد شعیب اللہ خان صاحب
السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

تمہری
پرسش

مصارف زکاۃ میں ایک اہم مصرف ”فی سبیل اللہ“ بھی ہے (توبہ ۶۰) مگر اس کے مفہوم اور مصدق کے بارے میں فقہا کرام اور علماء امت کے درمیان کافی اختلافات موجود ہیں؛ مگر یہ اختلافات بنیادی نہیں بل کہ فروعی قسم کے ہیں؛ کیوں کہ ان میں جائز و ناجائز کی بحث پیدا نہیں ہوتی؛ بل کہ ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ راجح اور مرجوح کی سی ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں ”فی سبیل اللہ“ کی جو چار تاویلیں کی گئی ہیں وہ چاروں ہی وقت اور حالات کی مناسبت سے قابل عمل تسلیم کی گئی ہیں، جیسا کہ درمختار اور رد المحتار کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

چنانچہ یہ چار تاویلیں اس طرح ہیں:

(۱) فی سبیل اللہ سے مراد محتاج غازی ہے (۲) اس سے مراد محتاج حاجی ہے (۳) اس سے مراد طالب علم ہے (۴) اس میں تمام امور خیر داخل ہیں۔ متفقہ میں نے اپنے دور میں ترجیح اولین دو اصناف کو دی ہے جب کہ متاخرین آخری دو اصناف کی ترجیح کے قائل ہیں۔

بہ ہر حال ہر دور میں ایسے علماء کافی تعداد میں پائے گئے ہیں، جو دوسرے موقف کے قائل ہیں اور ان میں حنفی بھی ہیں اور شافعی بھی، مالکی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی،

قدیم بھی ہیں اور جدید بھی۔ اور اس سلسلے میں بعض علماء مجتہدین مثلًا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور یمنی عالم محمد بن اسماعیل صفائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سبل السلام کی آراء کافی وزنی اور قابل قدر ہیں، چنانچہ راقم سطور نے اپنے ایک مضمون میں اس فقہ کے تمیز سے زیادہ علماء اور فقہاء اور مفسرین کی رایوں کا استقصا کیا ہے جو "فی سبیل اللہ" کی توسعی یا عمومیت کے قائل ہیں۔

مگر آج کل کے بعض مقلد جامد قسم کے اہل علم ان سب علماء کی رایوں اور ان کے دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے محض پہلے قول پراڑ گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جمہور کا مذهب ہے جس سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اور اب اس مناقشے نے ایک اچھے خاصے نزاع کی شکل اختیار کی ہے۔ اس سلسلے میں بعض ایسے سوالات ابھر کر سامنے آگئے ہیں، جن کا جواب ناگزیر معلوم ہوتا ہے، ورنہ انتشار فکری کے باعث امت کا شیرازہ منتشر ہو سکتا ہے؛ لہذا علماء کرام کی خدمت میں اس سلسلے کے بعض سوالات بغرض جواب پیش کئے جا رہے ہیں، امید ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان سوالات کے مدلل جوابات عنایت فرمائیں گے۔

سوالات:

- (۱) فی سبیل اللہ کے صرف غزوہ، یا جہاد کے ساتھ مخصوص ہونے کی کیا دلیل ہے؟
- (۲) حدیث نبوی "لایحل الصدقۃ لغنی الا لخمسة، لغازی فی سبیل الله او لعامل علیها او لغارم....."

(مالدار شخص کے لیے زکاۃ لینا صرف پانچ صورتوں میں جائز ہو سکتا

ہے۔ (۱) جب کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہو۔ (۲) جب کہ زکاۃ وصول

کرنے والا ہو۔ (۳) جب کوہ مقروض ہو۔ (۱)

اس سے تو ایک مالدار شخص کے لیے زکاۃ کا مال لینے کا محض جواز ثابت ہو رہا ہے، نہ کہ اس کا واحد مصدق (دیکھیے کتاب الاموال از ابو عبید) لہذا اس سے یہ مفہوم نکالنا کر فی سبیل اللہ کے تحت سوائے غازی کے اور کسی کو زکاۃ لینا جائز نہیں ہے، کس منطق کی رو سے صحیح ہو گا؟

(۳) ”فی سبیل اللہ“ کے صرف غزوہ، یا جہاد کے ساتھ مخصوص نہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے حج کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل قرار دیا ہے، چنانچہ مسند احمد، مسند رک او ر صحیح ابن خزیمہ کے علاوہ ابو داؤد میں اس موضوع پر حضرت ام معقل صحابیہ رضی اللہ عنہ سے تین روایات مروی ہیں، جن کے مطابق رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ان کے شوہر سے زکاۃ کا اونٹ حج کے لیے دلواتے ہوئے فرمایا: اعطها فلتتحج علیه فانہ فی سبیل اللہ۔ (ابوداؤد کتاب الحج) (تم وہ اونٹ ام معقل کو دیدوتا کہ وہ اس پر سورہ وکر حج کریں کیوں کہ حج یقیناً فی سبیل اللہ میں شامل ہے) اور امام بخاری کی تصریح کے مطابق حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو لاس رضی اللہ عنہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل تھے۔ (بخاری کتاب الزکاۃ و کتاب النفسیر)

اور ائمہ فقہ میں امام محمد، امام احمد ابن حنبل اور امام اسْلَمْ بن راہویہ رحمہم اللہ کا مسلک بھی یہی ہے، علماء مجتہدین میں علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی اور علامہ شوکانی رحمہم اللہ وغیرہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

بہر حال کہا جاتا ہے کہ فی سبیل اللہ میں غزوہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو شامل

(۱) أبو داؤد: کتاب الزکاۃ : ۱۶۳۵

کرنے سے مصارف زکاۃ آٹھ میں منحصر نہیں رہیں گے، بل کہ نو دس اور گیارہ بارہ ہو جائیں گے جو مصارفِ زکاۃ والی آیت کی رو سے ”انما“ کے خلاف ہے؛ مگر اور پر مذکور صراحتوں کے ملاحظہ کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حج کو ”فی سبیل اللہ“ میں شامل کر کے خود رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اور آپ کے صحابہ نے مصرفِ زکاۃ کے آٹھ میں منحصر ہونے کے خلاف ایک نئی اور نویں مد کا دروازہ کھولا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ نویں مد نہیں ہے، بل کہ ”فی سبیل اللہ“ میں حسب ضرورت توسعی قرار دینی پڑے گی، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے گرامی ہے، اسی طرح موصوف کی رائے کے مطابق اس میں حسب ضرورت بعض دیگر تمدنی امور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ (۱)

(۲) درمختار اور اس کی شرح رد المحتار (فتاویٰ شامیہ) میں مذکور فی سبیل اللہ کی چار تاویلیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فتاویٰ ظہیریہ اور فتاویٰ مرغینانی کی رو سے اس سے مراد طالب علم ہے۔ (رد المحتار / ۲۷ مطبوعہ کوئٹہ) فتاویٰ ظہیریہ کے مؤلف قاضی ظہیر الدین بخاری (م ۶۱۹ھ) ساتویں صدی کے عالم ہیں جن کے فتویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سو سال سے اب تک عمل کیا جا رہا ہے اور عربی مدرسون کے طلبہ کو بھی زکاۃ کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے، جب کہ اصولی طور پر یہ طبقہ زکاۃ کے آٹھ مصارف میں منصوص طور پر شامل نہیں ہے۔ غرض جب طالب علم بھی ”فی سبیل اللہ“ میں شامل ہیں، تو پھر اس موقعہ پر حسب ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں: (الف) فی سبیل اللہ کا واحد مصدق غزوہ و جہاد کہاں رہا؟ (ب) کیا اس سے جمہور کے مسلک پر حرف نہیں آئے گا؟ (ج) کیا اس سے مصارفِ زکاۃ کے آٹھ میں منحصر ہونے کی تردید نہیں ہوگی؟ (د) جن علمانے اس قسم کا فتویٰ دیا اور جنہوں نے اس پر

(۱) دیکھئے حجۃ اللہ البالغہ ۲/۲۵

عمل کیا، کیا وہ سب دین و شریعت سے منحرف تھے؟ (ہ) اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر ہمارے علماء کرام نے آٹھ سو سال سے اب تک اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی؛ بل کہ خاموشی کے ساتھ اس پر عمل کیوں کرتے رہے؟ (۵) مذکورہ بالا فتویٰ کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ طلبہ علم کے ”فی سبیل اللہ“ میں شامل ہونے کی دلیل کیا ہے (ب) پھر کیا صرف طلبہ علم ہی اس مصرف میں شامل ہو سکتے ہیں یا علماء اور دینی خدمت گاروں کو بھی اس میں شامل ہونے کی گنجائش موجود ہے؟ (ج) اگر نہیں ہے تو پھر ان دونوں طبقوں میں تفریق کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس دلیل سے بھی طلبہ کسی مصرف میں شامل ہوں گے، بالکل اسی دلیل سے خود علماء بھی اس میں شامل ہوں گے۔

(۶) کہا جاتا ہے کہ وہ علماء جو علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں، انہیں فی سبیل اللہ میں شامل کرنے سے مصارف زکاۃ کے آٹھ میں منحصر ہونے پر حرف آئے گا جو ”انما“ کی تصریح کے خلاف ہے تو اب سوال یہ ہے کہ علماء کے زکاۃ لینے سے یہ بات ہو سکتی ہے، تو پھر طالب علموں کو بھی اس میں شامل کرنے سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ (ب) قرآن کے آٹھ مصارف میں اگر علماء کا نام منصوص طور پر مذکور نہیں ہے تو طلبہ کا نام ان میں کہاں پر موجود ہے؟

(۷) اگر یہ کہا جائے کہ طلبہ فقراء و مسَاکین کے مصرف میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اس میں خود علماء کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ ظاہر ہے کہ فقر و احتیاج کا وصف جن جن لوگوں پر بھی صادق آئے وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، خواہ وہ طلبہ ہوں یا علماء یا عام محتاج جن میں ہر قسم کے معذور و مجبور اور بے سہار اور بے کس لوگ سب ہی شامل ہو سکتے ہیں (ب) لہذا اس موقع پر ایک اہم سوال یہ پیدا

ہوتا ہے کہ جب فقر اور مساکین میں ہر قسم کے محتاج لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو پھر طلبہ کو آٹھ سو سال پہلے ”فی سبیل اللہ“ میں شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ (ج) کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ فقر اور مساکین میں شامل نہیں ہیں؟ (د) نیز یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زکاۃ کی رقم صرف طلبہ کے خود دنوشت ہی پر صرف کی جائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور قرآن و حدیث، یا اصل فقہی مأخذ میں اس کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟

(۸) امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۵۸ھ) کا یہ فتویٰ کہ ”فی سبیل اللہ“ میں تمام امور خیر شامل ہیں (بدائع الصنائع ۲/۲۵) کیا فی سبیل اللہ میں صرف غازی شامل ہونے کے دعوے کے خلاف نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں دعووں یا فتووں میں کھلا ہوا تناقض یا تضاد موجود ہے اور یہ دونوں دعوے بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے؛ لہذا ماننا پڑے گا کہ غازی فی سبیل اللہ کا واحد مصدق نہیں (ب) امام کاسانی کے اس فتویٰ کو علماء احناف میں قبولیت عامہ حاصل ہے اور اس بنیاد پر موجودہ دور میں دینی خدمت گاروں کو بھی فی سبیل اللہ میں شامل قرار دیا جا رہا ہے یعنی ان علماء کو جو علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوں؛ مگر اس کے بر عکس بعض مقلد قسم کے اہل علم اس قسم کی صدائ بلند کرنے والوں کو گمراہ یا دین سے منحرف قرار دے رہے ہیں؛ لہذا اس موقع پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے امور خیر ہو سکتے ہیں جن میں علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت شامل نہ ہو؟ کیا اس سے بڑھ کر دین کی کوئی اور خدمت ہو سکتی ہے؟

(۹) اگر امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ غلط اور باطل ہے تو پھر ہمارے علماء کرام نے آٹھ سو سال سے اب تک اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ بل کہ اس کی حمایت کیوں کرتے رہے اور وہ پندرہویں صدی ہی میں مردود کیوں ہو جائے؟ چنانچہ

اس فتویٰ کے قائل و مؤید بڑے بڑے علماء احناف مثلًا علامہ ابن نجیم صاحب البحر الرائق، علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب درختار، علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب ردا اختار، علامہ شہاب الدین آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی اور مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر معارف القرآن کے علاوہ بہت سے علماء بھی ہیں اور ان سب کے فتاویٰ اور رائے میں راقم سطور نے اپنے مضامین میں جمع کردیے ہیں؛ نیز علماء احناف کے علاوہ بہت سے شافعی، مالکی اور اہل حدیث علماء کی رائے میں بھی اسی کے موافق ہیں اور عصر جدید میں ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ وہ شمار سے بھی باہر ہے، ظاہر ہے کہ اتنے سارے علماء کسی غلط رائے پر متفق نہیں ہو سکتے اور پھر ایسی صورت میں جب کہ اس کی تائید خود حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے؛ لہذا ذیل میں بطور نمونہ صرف دو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، چنانچہ ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث ہے جو صحیح ابن حبان، مسند احمد اور مسند رک حاکم میں بھی مروری ہے:

«من دخل فی مسجدنا هذَا لیتَعْلُمْ خیرًاً أَوْ یَعْلَمْهُ کانَ

کالمجاهد فی سبیل الله»

(رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جو کوئی ہماری اس مسجد میں خیر کی کوئی بات سکھنے یا سکھانے کی غرض سے آیا تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے)

چنانچہ اس حدیث کے مطابق (لیتَعْلُمْ خیرًاً أَوْ یَعْلَمْهُ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ طالب علم کے ساتھ خود معلم بھی فی سبیل اللہ میں ایک مجاہد کی طرح داخل و شامل ہیں۔ یہ ایک منصوص دلیل ہے جو علم دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلہ میں پیش کی جا سکتی ہے۔

اب جہاں تک فی سبیل اللہ کی توسعی یا عمومیت کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں بھی ایک ایسی حدیث موجود ہے جس سے خود علمائے متفقین نے اس موضوع پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب الدیات اور مسلم کتاب القسامۃ کے تحت مذکور ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جنگ خیبر کے موقع پر ایک مقتول شخص کا خون بہا (سوانت) زکاۃ کے اونٹوں میں سے ادا کیا۔ ”فوداہ مائۃ من إبل الصدقۃ“^(۱)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ قاضی عیاض کے بیان کے مطابق بعض علماء مصالح عامہ میں زکاۃ صرف کرنا جائز سمجھتے ہیں اور ان کی دلیل یہ اور دوسری ہے۔^(۲)

ظاہر ہے کہ کسی شخص کا خون بہا ادا کرنا زکاۃ کے آٹھ منصوص مصارف کے خلاف ہے اور بقول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک شافعی عالم ابو سحاق مرزوqi رحمۃ اللہ علیہ بھی اس قسم کے جواز کے قائل تھے۔^(۳)

(۱۰) بہر حال امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کو علماء احناف میں قبول عامہ حاصل ہے اور فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں بھی اسے مستند قرار دیا گیا ہے جسے مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی نے مرتب کیا ہے۔^(۴)

اور یہ فتویٰ مفتی صاحب نے درمختار سے نقل کیا ہے جو فقه حنفی کی سب سے زیادہ مقبول و متدلول کتاب تسلیم کی جاتی ہے؛ لہذا اس فتویٰ کی موجودگی میں اب بعض علماء کا

(۱) البخاری: ۲۸۹۸ و مسلم: ۱۶۶۹

(۲) فتح الباری: ۲۳۵/۱۲

(۳) شرح نووی: ۱۲۸/۱۱

(۴) دیکھیے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۲۸۲/۶ طبع ثانی

یہ کہنا کہ وہ اہل علم جو کسی علمی و دینی خدمت میں مشغول ہوں، وہ بجائے زکاۃ مفروضہ کے محض نفل صدقات یا عطیہ جات پر اکتفا کریں، کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مذکورہ بالا فتویٰ کی نفی ہوتی ہے، تو کیا یہ بات جائز ہوگی کہ بغیر کسی معقول وجہ کے کوئی شخص کسی بھی مستند فتویٰ کو جب چاہے قابل استدلال قرار دے اور جب چاہے اسے ردیٰ کی ٹوکری میں پھینک دے؟

نوط:

واضح رہے اس موقع پر (غنا) اور (تملیک) کی بحثیں چند اس اہمیت نہیں رکھتیں، جو محض ضمی نو عیت کی ہیں، اصل اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل علم جو علم دین کی تعلیم و تدریس یا اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں، وہ آیا زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں، یا نہیں؟ خواہ وہ فقرا و مساکین کے مصرف میں داخل سمجھے جائیں یا فی سبیل اللہ کے مصرف میں؟ امید ہے کہ ہمارے علماء کرام ان تمام سوالات کا معقول اور شفیعی بحث جواب دے کر ہماری ملت کو ڈھنی انتشار سے بچائیں گے۔

خاکسار

محمد شہاب الدین ندوی

جو بات سمجھنے کا پتہ یہ ہے:

فرقا نیہا کیڈمی ٹرست ۱۶۲۵ داسر بلی، بنگلور ۵۶۰۰۵۷

۷/رجب ۱۴۳۲ھ / ۱/۹۲ء

الجواب ومنه الحق والصواب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين:

(۱) جن حضرات نے ”فی سبیل اللہ“ کو غزوہ و جہاد کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے ان کی دلیل ایک تو خود یہ الفاظ ”فی سبیل اللہ“ ہیں کہ عرف شرع میں یہ لفظ جہاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ (۱)

اور اگر چہ یہ لفظ دوسری عبادات و طاعات کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے؛ لیکن یہ مجاز ہے اور بلا وجہ کسی کو حقیقت سے مصروف کرنا درست نہیں۔

دوسرے یہ کہ حدیث میں ”لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة“، اخن میں غنی لوگوں میں سے جن کو زکوہ دینا جائز قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک ”غازٰ فی سبیل اللہ“ ہے، اگر ”فی سبیل اللہ“ غازی کے ساتھ خاص نہ ہوتا، تو یہ حصر غلط ہوتا جو اس حدیث میں ”لاغنی“ اور ”الا“ سے پیدا کیا گیا ہے؛ کیوں کہ اس حدیث میں مذکور اور چار مصارف (فی سبیل اللہ) سے ہٹ کر ہیں اور فی سبیل اللہ کے عنوان سے صرف غازی کو پیش کیا گیا ہے، اب اگر قرآن میں مذکور ”فی سبیل اللہ“ کو غازی سے مخصوص نہ قرار دیا گیا اور اس کو عام رکھا گیا تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو فقر کی شرط اس میں ملحوظ ہوگی، یا نہ ہوگی؟ اگر فقر کی شرط ملحوظ ہوگی تو کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں؛ بل کہ یہ اختلاف لفظی ہوگا کہ ”فی سبیل اللہ“ غازی سے مخصوص ہے یا نہیں؟

کما قال الشامي تحت قول الدر المختار: (وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف) ما نصه: يشير الى ان هذا

(۱) كما قال الإمام أبو يوسف على ما في المسبوط للسرخيسي: ۳/۱۱

الاختلاف إنما هو في تفسير المراد بالآية لا في الحكم، ولذا قال في النهر والخلف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر الخ. (۱)

اور اگر فقر کی شرط نہ ہوگی تو مطلب یہ ہوگا کہ ”فی سبیل اللہ“ کے تحت بہت سے اور اغنا بھی داخل ہیں، جب کہ حدیث غازی کے سوا کسی اور کو ”فی سبیل اللہ“ کے تحت غنی ہونے کی صورت میں مصرف زکاۃ قرار نہیں دیتی، بل کہ حصر کے ذریعہ اس کی نفی کرتی ہے۔

(۲) اس نمبر کا جواب ان حضرات کے نقطہ نظر کے مطابق جو ”فی سبیل اللہ“ میں صرف غازی کو داخل کرتے ہیں، سوال نمبر ایک کے تحت مذکور ہو چکا کہ اس حدیث سے یہ مفہوم کیسے نکالا گیا۔

(۳) بلاشبہ سوال میں مذکور روایات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ میں منقطع الحاج بھی داخل ہے اور ان ہی کے پیش نظر بعض ائمہ اس کی طرف گئے ہیں، جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ؛ مگر اس کو حسب ضرورت توسع کے بجائے ”فی سبیل اللہ“ کا ایک مصدقہ قرار دینا چاہیے، رہی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو احقر کی جہاں تک نظر ہے متفقہ میں و متاخرین میں سے شاید کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ (حسب ضرورت توسع) کے عنوان سے ہر چیز کو اس میں کھپانے کی گنجائش ہے۔

(۴) اس نمبر کے تحت فتاویٰ ظہیریہ اور مرغینانی کے حوالہ سے طالب علم کو جو ”فی سبیل اللہ“ کا مصدقہ قرار دیا گیا ہے اور اس پر سوالات قائم کئے ہیں، حقیقت یہ ہے

(۱) الشامي: ۳۲۳/۲:

احکام زکاۃ۔ جدید حالات کی روشنی میں

کہ سائل نے زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیا ہے؛ کیوں کہ درمختار اور ردا مختار، جن کے حوالہ سے سائل نے اوپر کا قول نقل کیا ہے، ان دونوں میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ اس سے اگر طالب علم مراد ہے تو اس کو فقر کی وجہ سے دیا جاتا ہے نہ کہ طالب علم ہونے کی بناء پر، چنانچہ درمختار میں اسی کے بعد یہ عبارت ہے

”وثمرة الاختلاف في نحو الأوقاف“

اور اس کا مقصد شامی نے واضح کیا ہے:

”يشير إلى أن هذا الاختلاف إنما هو في المراد بالآلية لا في الحكم، ولذا قال في النهر والخلف لفظي للاتفاق على أن الأصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر، فمنقطع الحاج أى وكذا من ذكر بعده (أى في الدر) يعطى اتفاقاً.“ (۱)

اور صاحب بحر نکھا ہے:

”ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه في الوجوه كلها، فحينئذ لا يظهر ثمرته في الزكاة.“ (۲)

اور اسی طرح فتح القدیر میں بھی ہے:

”ثم لا يشكل أن الخلاف فيه (أى في تفسير المراد بسبيل الله) لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر“ . (۳)

(۱) الشامي: ۳۲۳/۲

(۲) بحر الرائق: ۲۲۲/۲

(۳) فتح القدیر: ۲۶۲/۲

اور جن حضرات نے بلا قید فقر بھی طالب علم کو مصرفِ زکاۃ قرار دیا ہے، ان کا قول مرجوح ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ اس قول کے ذکر کرنے اور اس کی توضیح کے بعد طباطب اول رحمۃ اللہ نے لکھا ہے:

” وَهُذَا الْفَرْعُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمُ الْحُرْمَةَ فِي الْغَنَاءِ ،
وَلَمْ يَعْتَمِدْ أَحَدٌ . ”

نیز شامی نے بھی اسی کے بعد اپنی رائے ظاہر کی ہے:

” قلت وَهُوَ كَذَالِكَ ، وَأَلَا وَجْهَ تَقْيِيدِهِ بِالْفَقِيرِ . ” (۱)

اس وضاحت کے بعد سائل کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اسی قید کے محوظہ رہنے سے، یا اس سے صرف نظر کرنے سے سوالات پیدا ہوئے ہیں، تاہم نمبروار جواب بھی اشارۃ لکھا جاتا ہے:

(الف) جب قید فقر عموم کے قائلین کے پاس محوظ ہے تو جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں لکھا گیا، یہ اختلاف صرف لفظی ہے، لہذا (فی سبیل اللہ) کو جہاد کے ساتھ مخصوص قرار دینے والوں میں اور عمومیت کے قائلین میں اختلاف ہی نہیں ہے جس کا تاثر سائل نے دینا چاہا ہے؛ لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جو لوگ اس میں عموم کے قائل ہی نہیں ہیں اور صرف غزوہ سے ”فی سبیل اللہ“ کی تفسیر کرتے ہیں وہ بلاشبہ اس کی دیگر تفسیروں کو قبول ہی نہیں کرتے تو یہ سوال آخر کس سے ہے؟

(ب) حرف نہیں آئے گا؛ اس لیے کہ اختلاف لفظی ہے۔ (کما مر مراراً)

(ج) عموم کے قائلین کے نزدیک لفظ (فی سبیل اللہ) ایک وسیع مفہوم کا حامل لفظ ہے، جس کے افراد و جزئیات غزوہ و جہاد، طلب علم وغیرہ ہیں، اس تفسیر کی رو سے

(۱) الشامی: ۲/۳۲۰

بلاشبہ مصارف زکاۃ / ۸ ہوتے ہوئے بھی یہ سب افراد اس میں داخل ہو سکتے ہیں؛ مگر جیسا کہ گذر اس سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالا جاسکتا کہ فقیر و مدار سب کو زکاۃ دی جاسکتی۔
 (د) جب اختلاف کا لفظی ہونا معلوم ہو گیا تو پھر یہ سوال ہی کیوں پیدا ہو گا؟
 ہاں البتہ یہ سوال وہاں اٹھتا ہے جہاں فقر کی شرط کے بغیر بھی ان سب مددوں میں خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ (کما قال بعض الفقهاء) تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ان علماء کا یہ فتویٰ اگر چھتی صحیح نہیں ہے، لیکن ان علماء نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا؛ الہذا معدور ہیں، مگر ان کے قول پر فتویٰ دینا افتاء بالمرجوح ہے جو کہ باطل ہے (کما فی رسم المفتی) و فی البحر الرائق : لا يجوز له الافتاء بالقول المهجور لجر منفعة. (۱)

اور اس قول پر کسی کا اعتماد نہ کرنا طحاوی سے اوپر نقل ہو چکا ہے۔

(ه) اگر فقر کی شرط کے ساتھ عمومیت مرادی جائے تو اختلاف ہی نہ رہا، پھر کسی کو رد کرنے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کیا ضرورت؟ اور اگر بلا قید فقر عمومیت مرادی جائے تو اس کے خلاف برابر آواز اٹھائی گئی ہے، چنانچہ طحاوی نے اور شامی نے اس پر رد کیا ہے، اور اس قول پر اعتماد نہ کرنا خود اس کے خلاف عملی محاذ آرائی ہے۔ پھر بعد کے دوروں میں بھی علماء اس کا مرجوح و ناقابل اعتبار ہونا بیان کرتے رہے ہیں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”او بعض فقهاء نے جو طالب علم کے لیے مطلق اخذ زکاۃ جائز رکھا ہے، وہ غیر معتمد ہے، فی الطحاوی : وهذا الفرع مخالف لاطلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمد ه احد ،

پس قول مرجوح پر افتباطل ہے۔^(۱)

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں کئی جگہ تصریح کی ہے کہ:

طالب علم محتاج ہو تو زکاۃ لے سکتا ہے؛ ورنہ نہیں، اور جو بعض فقہاء نے

اس کے لیے بلا فقر بھی اجازت دی ہے یہ جمہور کے خلاف ہے۔^(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور یہ کہنا کہ ”اس پر عمل کیا جاتا رہا ہے“، حقیقت واقعہ کے خلاف ہے، کما مر۔

(۵) اس نمبر کا جواب یہ ہے کہ جن فقہاء نے طالب علم کو بشرط فقر ”فی سبیل اللہ“ کا مصدق قرار دیا ہے، ان کے نزدیک بلاشبہ اسی فقر کی شرط سے علام و خدمت گزار ان دین بھی داخل ہو سکتے ہیں۔

(۶) اس نمبر کا جواب اوپر کی تفصیل سے خود ہی نکل آیا؛ لہذا اعادہ کی حاجت نہیں۔

(۷) بلاشبہ علاماً بل کہ عام لوگ بھی فقر و احتیاج کے وصف سے مستحق زکاۃ

ہو سکتے ہیں، اس سے کس کو کب انکار ہے؟

(ب) جن حضرات نے طالب علم کو اس میں شامل فرمایا، ان کے پیش نظر جیسا کہ پہلے بھی گذر ا ”فی سبیل اللہ“ کے الفاظ کا عموم ہے، یہ نہیں کہ کسی نے خواہ مخواہ کوئی ضرورت محسوس کر کے اس میں ان کو شامل کر دیا ہو اور اسی کو بنیاد بنا کر کوئی آئندہ بھی حسب ضرورت توسعی کی بے معنی رث لگا کر جی چاہی و من مانی تفسیریں کرنے لگے۔

(ج) یہ مطلب نکالنا درست نہیں؛ کیوں کہ طلبہ کو ”فی سبیل اللہ“ میں محض اس کے لفظی عموم پر نظر کر کے داخل کیا گیا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مصرف دوسرے

(۱) امداد الفتاویٰ: ۲/۱۹

(۲) فتاویٰ دارالعلوم: ۶/۲۲۲، ۶/۲۵۲

مصرف میں داخل رہے، جیسے خود اسی آیت مصارف میں فقیر و مسکین ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ ایک تفسیر پر فقیر میں مسکین اور ایک تفسیر پر مسکین میں فقیر داخل ہے۔ رہی یہ بات کہ جب فقیر و مسکین میں طلبہ داخل تھے، تو اس (فی سبیل اللہ) میں داخل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ یہ ایک نکتہ کی وجہ سے ہے، وہ یہ کہ طالب علم عام فقراء سے ممتاز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سیکھنے میں لگا کر دوسرا مشغولیتوں سے علاحدہ ہو چکا ہے، جیسا خود ”فی سبیل اللہ“ سے غازی مراد لینے اور اس میں فقر کی قید لگانے والے حضرات نے غازی کے بارے میں بھی یہی سوال پیدا کر کے یہی

جواب دیا ہے۔

بحر الرائق میں ہے:

”فَانْ قُلْتَ مِنْ قَطْعِ الْغَزَاةِ أَوِ الْحَجَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَطْنِهِ
مَالٌ فَهُوَ فَقِيرٌ وَإِلَّا فَهُوَ ابْنُ السَّبِيلِ، فَكِيفَ تَكُونُ الْأَقْسَامُ
سَبْعَةً؟ قُلْتَ : وَهُوَ فَقِيرٌ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِ بِالْانْقِطَاعِ فِي
عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَكَانَ مَغَايِرًا لِلْفَقِيرِ الْمُطْلَقِ الْخَالِيِّ عَنْ
هَذَا الْقِيدِ، كَذَا فِي النَّهَايَةِ.“ (۱)

پس طلبہ فقیر و مسکین میں داخل ہونے کے باوصاف ”فی سبیل اللہ“ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، ولا منافاة بینہما۔

(د) ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے یہ کہا ہے؟ البتہ فقہائے یہ ضرور کہا ہے کہ طلبہ کو زکاۃ کا مالک بنادیا جائے، خواہ وہ خوردنوش کی اشیاء کے کر ہو یا کتب وغیرہ دے کر، صرف خوردنوش پر زکاۃ کو صرف کرنے کی بات ہمارے خیال میں بے بنیاد ہے۔

(۱) البحر الرائق: ۲/۲۲۲

(۸) بدائع میرے پاس نہیں کہ اس کی طرف مراجعت کی جاتی، تاہم اتنا عرض ہے کہ بدائع سے دوسرے فقہاء نے ان کی یہ بات نقل کی؛ مگر اس کو اسی پر محول کیا ہے کہ ”فی سبیل اللہ“ کے تحت جن کو دیا جائے فقر کی شرط سے دیا جائے۔

چنانچہ درمختار میں یہ کہہ کر کہ وفسره فی البدائع بجمعیع القرب،

فوراً یہ کہا کہ ”وثمرة الاختلاف فی نحو الأوقاف“ (۱)

اس سے واضح ہوا کہ صاحب درمختار نے بھی ان کے قول کو فقر کی شرط کے ساتھ مقید کر دیا ہے (کیوں کہ فی سبیل اللہ کی مراد میں اس اختلاف کے شرہ کو وہ اوقاف کے مسائل میں مان رہے ہیں، نہ کہ زکاۃ کے مسائل و احکام میں) معلوم ہوا کہ جمیع القرب مراد ہونے کی صورت میں بھی زکاۃ کے مسائل و احکام میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قید فقر ملحوظ ہو) اور ممکن ہے کہ صاحب بدائع نے اس کی تصریح کی ہو، اسی طرح شامی نے بدائع کی عبارت کو متحاج کے ساتھ مقید کیا ہے، کہتے ہیں:

”وقد قال في البدائع في سبیل اللہ جمیع القرب
فیدخل فيه کل من سعی في طاعة اللہ وسبیل الخیرات
إذا كان محتاجاً“

یہ شامی نے شریبلی سے نقل کیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حصلفی، شامی اور شریبلی سب نے بدائع کی اس عبارت کو فقر سے مقید کیا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان حضرات نے یہ قید لگائی ہے، یا خود صاحب بدائع نے۔ البتہ اتنا اور کہتا ہوں کہ جمیع القرب کے الفاظ سے سائل جو عموم خیال فرمارہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے؛ کیوں کہ

(۱) درمختار مع الشامی: ۳۲۳/۲

صاحب بدائع نے ایک جگہ یہ تصریح کی ہے کہ مساجد اور رباتات اور سقايات و اصلاح قناطر و تکفین موتی اور دفن موتی میں زکاۃ لگانا جائز نہیں ہے۔
ان کی عبارت یہ ہے:

”وبهذا (بشرط التملیک) يخرج صرف الزکاة إلى
وجوه البر من بناء المساجد والرباطات والسقايات
واصلاح القنطر وتكفين الموتى ودفهم لأنه لم يوجد
التملیک أصلا.“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ہر نیکی میں صرف کرنا جمیع القرب سے مراد نہیں ہے، تو
جب ان کی یہ عبارت مذکورہ مصارف نہ ہونے سے خاص و مقید ہے، تو اس میں فقر کی
بھی قید ہو سکتی ہے جیسا کہ علمانے مقید کیا ہے۔
جب قید فقر ملحوظ ہے، تو نہ تضاد ہے نہ اختلاف۔ (کما مر مرارا)

نوت:

جب احرقر نے آج سے تقریباً پندرہ برس پہلے ۲۸ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ کو یہ جواب
لکھا تھا تو اس وقت بدائع پیش نظر نہ تھی، اب بدائع کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ صاحب
بدائع نے اس سلسلہ میں زکاۃ کے بیان کے شروع ہی میں اس قدر واضح کلام کر دیا
ہے کہ ان کے کلام کے سمجھنے میں کسی معمولی درجہ کی سمجھ بو جھ رکھنے والے کو بھی کسی قسم
کی دشواری پیش نہیں آ سکتی، چہ جائیکہ کسی عالم و فاضل کو، چنان چہ وہ فرماتے ہیں:

”والآلية خرجت لبيان مواضع الصدقات و مصارفها
ومستحقيها، وهم وإن إختلفت إساميهم فسبب الاستحقاق

(۱) بکوالہ امداد المفتین :۰۷۱ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ

فی الکل واحد، وهو الحاجة إلا العاملین علیها۔“ (۱)

اس وضاحت کے بعد کسی کو کیا حق ہے کہ صاحب بدائع کے کلام سے وہ بات اخذ کرے جو ان کا مقصود نہیں اور اس سے بھی زیادہ واضح یہ کہ خود صاحب بدائع نے جہاں یہ لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ سے تمام قرب و طاعات مراد ہیں، وہیں یہ وضاحت فرماتے ہیں:

”وَأَمَا قَوْلُهُ : وَفِي سَبِيلِ اللهِ عِبَارَةٌ عَنْ جَمِيعِ الْقَرْبِ ،
فِيدُخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَ سَبِيلِ
الْخَيْرَاتِ أَذَا كَانَ مُحْتَاجًا۔“ (۲)

اب غور سمجھیے کہ جب خود صاحب بدائع نے اپنے قول کی مراد واضح کر دی ہے تو ان کے قول سے خود ان کی مراد کے خلاف مراد لینا کہاں تک درست ہے؟

(ب) علما نے ان کے فتوی کو بشرط فقرہ مانا ہے؛ لہذا اس لحاظ سے کوئی بھی تعلیم و تدریس، نشر و اشاعت دین کو اس کے عموم سے خارج نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہے تو غلط ہے۔

(۹) اوپر عرض کر چکا ہوں کہ بقید فقرہ اس کو مانا گیا ہے، پھر مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر واقعۃ ان کا فتوی بلا اس قید کے ہے، تو اس کی تردید علما نے کی ہے، جیسا کہ اوپر اس کو بھی واضح کر چکا ہوں اور جن علما کا نام گرامی آپ نے اس نمبر میں درج فرمایا ہے، ان سب نے اس فقرہ کی شرط کے ساتھ ہی اس قول کی تائید کی ہے۔ صاحب بحر و در مختار و رد المحتار کے اقوال گذر چکے ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر میں آیت مصارف کے تحت لکھا ہے:

(۱) بدائع الصنائع: ۲/۴۳

(۲) بدائع: ۲/۲۵

”جن حضرات فہمانے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کو اس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ وہ فقیر و حاجت مند ہوں۔“ (۱)

رہا مستفتی کا حدیث سے یہ استدلال کہ طالب علم بھی ”فی سبیل اللہ“ میں داخل ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اسی سے علمانے بھی اس کو ”فی سبیل اللہ“ میں داخل کیا ہے، مگر قید فقر ملحوظ رکھی گئی ہے اور مستفتی کا یہ کہنا کہ ”فی سبیل اللہ“ میں عام مصالح بھی داخل ہیں اور حدیث بخاری و مسلم سے اس پر استدلال یہ صحیح نہیں، یہ اگرچہ بعض علماء کا قول ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے جس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے؛ مگر انہے اربعہ اور ان کے تبعین میں سے کسی کا یہ مسلک نہیں ہے، جیسا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اور امداد المفتین میں تحقیق کی ہے۔

پھر یہ استدلال بھی (من ابل الصدقۃ) کے الفاظ سے ہے جس کے بارے میں حدیثی و فقہی کئی بحثیں ہیں، مثلاً یہ کہ ابن سعید اور ابو لیلیٰ کی روایت میں اس کی جگہ (من عنده) کے الفاظ ہیں اور حماد بن زید کی روایت میں من قبلہ (بکسر القاف وفتح المؤحدة) یعنی ”اپنی طرف سے“ کے الفاظ آئے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ دیت کا ادا کرنا صدقہ کے اونٹوں سے نہیں بل کہ اللہ کے نبی ﷺ کے اپنے اونٹوں سے تھایا اپنی طرف سے بیت المال سے دیت ادا فرمائی۔ (۲)

(۱) معارف القرآن: ۳۰۸/۳

(۲) فتح الباری: ۲۳۵/۱۲

فہی اعتبار سے یہ احتمال ہے کہ زکاۃ کے مال سے بطور قرض لے کر دیت ادا فرمائی ہو کہ مال فی سے ادا کر دیں گے یا مقتول کے اولیاً مستحق زکاۃ ہوں وغیرہ۔^(۱) جب اتنے احتمالات ہیں تو اس سے استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ پھر جمہور علماء کے خلاف؟ لہذا مستفتی کی یہ بات سراسر غلط ہے اور ابو اسحاق شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جمہور کے خلاف ہے جیسا کہ خود نووی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کے بیان سے واضح ہوتا ہے؛ لہذا وہ قابل اتباع نہیں ہے، یا قابل تاویل ہے اور یہی اولی ہے۔

(۱۰) اس پر کئی مرتبہ اور عرض کیا گیا ہے کہ اس میں فقر کی شرط ہے اور خود مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے بھی اور پردیے گئے ہیں، جس میں تصریح کے ساتھ فقر کی شرط کو لازم قرار دیا گیا؛ لہذا اس شرط کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ اور اسی لیے علماء اس شرط کو لازم کہتے ہیں اور اس کے خلاف کو بے راہروی۔

نوط کا جواب

آخر میں مستفتی کا یہ کہنا کہ غنا اور تملیک کی بحث چند اس اہمیت کے قابل نہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ یہی وہ مسئلہ اور بحث ہے جس سے ساری بحثیں پیدا ہوئی ہیں اور اگر یہ بحث اہم نہ ہوتی تو ائمہ اربعہ اور ان کے تبعین کو اس سلسلے میں وضاحت کرنے اور بحثیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جس کو انہوں نے اہم سمجھا اس کو اپنے مفاد کے لیے غیر اہم کہنے لگے تو اس کا کیا علاج ہے؟ پھر غنا کی بحث کی اہمیت تو خود جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے بھی ظاہر ہے:

«لا تحل الصدقة لغنى»^(۲)

نیز ابو داؤد میں ”لاحظ فيها لغنى“ آیا ہے، آخر اللہ کے نبی ﷺ کی اس حدیث سے

(۱) فتح الباری: ۲۳۵ / ۱۲

(۲) رواه جمع من المحدثين، انظر تخریجه في الدرایة علی هامش الهدایة: ۱/۱۸۶

یہ اہتمام کیوں سوچا؟ جب کہ یہ کوئی قابل اہتمام بات ہی نہ تھی، اسی طرح تملیک کی اہمیت بھی حضرات علام کی تحریرات سے واضح ہے۔ دیکھیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”اماۃ التشکیک“ مندرجہ امداد المقتین فقط۔

محمد شعیب اللہ خان عُنْفَی عنہ
دارالافتاء، مدرسہ مسیح العلوم بنگلور
۱۴۳۲ / رب جب



حرام کار و بار کے لیے

املاک کا اجارہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حرام کاروبار کے لیے

املاک کا اجارہ

سوال:

بے خدمت حضرت مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

درج ذیل مسئلے میں کے بارے میں شرع متین کا کیا حکم ہے کہ مساجد کے املاک کو بعض لوگ (جو ذمے دار ہوتے ہیں) سودی کاروبار کے لیے کرایہ پر دیے ہوئے ہیں اور اس سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے، وہ مصارف مسجد میں خرچ ہوتا ہے۔ مثلاً امام و موزون کی تنخواہ میں یادگیر مصارف میں، شہربنگور میں دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد کی املاک سودی کاروبار کرنے والے بینکوں کو کرایہ پر دی جا رہی ہیں، جس میں شہر کی چھ یا سات مساجد شامل ہیں اور آئندہ بھی دوسری مساجد کا اس طرح کرنا قرین قیاس ہے۔ اور اس معاملے کو دیکھ کر لوگ اپنی جائیداد بھی سودی کاروبار کے لیے کرایے پر دے رہے ہیں، ان کے پاس یہ وجہ جواز ہے کہ مساجد کے ذمے دراروں نے ایسا کیا ہے اور مساجد کی املاک کو سودی کاروبار کے لیے دیا گیا ہے۔

اس سلسلے میں ان سوالوں کا جواب مطلوب ہے:

- (۱) مساجد کی یا اپنی جائیداد کو سودی کاروبار کرنے والوں کو کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟
- (۲) اس معاملے سے حاصل ہونے والا کرایہ حلال ہے یا حرام؟
- (۳) اس کرایہ سے تنخواہ پانے والے امام کے پیچھے جب کہ اس کو اس کی اطلاع ہے، نماز پڑھنا اور اس کو امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

فقط

حبيب اللہ خان

سکریٹری مسجد بیداہل سنت والجماعت

محلہ بیدواڑی، بنگلور

الجواب و منه الحق والصواب

سوال میں مذکور صورت چوں کہ زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اس میں بعض لوگوں کو فقہا کی بعض عبارتوں سے کچھ غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی ہے؛ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ذراوضاحت و تفصیل سے لکھوں؛ تاکہ ایک طرف شرعی و فقہی نقطہ نظر سے مسئلے کا جواب معلوم ہو جائے اور دوسری طرف جن لوگوں کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے، ان کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے۔
واللہ الموفق والمعین۔

حرام کاموں کی اعانت ناجائز ہے

یہ ظاہر ہے اور سب کو معلوم بھی ہے کہ اسلام میں سودی لین دین، حرام اور سخت ممنوع ہے، اس میں کسی مسلمان کوشک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام کا یہ اصول و قاعدہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو حرام و ممنوع ٹھہرا تا ہے، تو اسی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ناجائز قرار دیتا ہے، جن سے اس حرام کام کو افراد یا معاشرے میں درآنے کا موقع ملتا ہو؛ اس کے لیے راستے ہموار ہوتے ہوں اور اس کو کسی بھی طور پر تقویت پہنچتی ہو، اسی وجہ سے حرام اور باطل کاموں پر اعانت و مدد کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے۔

قرآن و حدیث سے دلائل

چنانچہ قرآن و حدیث میں حرام و باطل کاموں پر اعانت و مدد کو صاف طور پر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ پہلے چند نصوص ملاحظہ فرمائیے:

(۱) قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ﴾ (المائدة: ۲۶)

(تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد و اعانت نہ کرو)

(۲) حدیث میں ہے:

«أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَتُ الْخَمْرِ بِعِينِهَا وَشَاربِهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعِهَا وَمَبْتَاعِهَا وَعَاصِرِهَا وَمَعْتَصِرِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا.» (۱)

(رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ لعنت کی گئی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، خڑوانے والے پر، اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر اور اس پر جس کے پاس وہ لے جائی گئی اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔)

ان نصوص قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کے کام پر کسی کی امداد و اعانت کرنا ناجائز اور موجب لعنت ہے۔

سودی کاروبار کے تعاون کی حرمت

اس کے علاوہ خاص طور پر سودی کاروبار کے تعاون کی حرمت بھی احادیث میں وارد ہوئی ہے، چنانچہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے:

(۱) ابن ماجہ: ۳۳۷۱، أبو داود: ۳۸۹

«عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» (۱)

(حضرت جابر رضي الله عنه نے فرمایا کہ رسول ﷺ کے رسول ﷺ نے سود، سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی حسابات لکھنے والے اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب (گناہ میں) برابر ہیں۔)

اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول ﷺ کے رسول ﷺ نے صرف سود کھانے والے پر لعنت نہیں فرمائی ہے؛ بل کہ آپ نے سود دینے والے اور سودی حسابات لکھنے والے اور اس معاملے پر گواہ بننے والے کو بھی ملعون قرار دے کر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ بھی سود کھانے والے کے برابر گناہ گار ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سودی کاروبار کی امداد و اعانت ہے، جس سے یہ معاملہ ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ وسعت اختیار کرے گا اور مضبوط ہو جائے گا، جو اسلام کے مقاصد کے سراسر خلاف ہے۔ الغرض اس سے معلوم ہوا کہ سودی کاروبار کی اعانت و امداد ناجائز اور سود کھانے کے برابر گناہ کا کام ہے۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے:

”فیه تحريم الإعانة على الباطل“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باطل کاموں پر اعانت و امداد حرام ہے۔ (۲)

(۱) مسلم: ۲۷/۲

(۲) شرح مسلم: ۲۸/۲

مسئلے کی وضاحت

ان وضاحتوں اور تفصیلات کے بعد زیر بحث سوال پر غور کیجئے کہ سودی کاروبار کے لیے بینک کو یا کسی اور کو مکان کرایہ پر دینا کیا سودی کاروبار کی ترقی میں اعانت نہیں ہے؟ کیا اس سے سودخواروں کی سودخواری میں اضافہ نہ ہوگا؟ کیا اس سے لوگوں کا خون چونے میں ان کو آسانی فراہم نہ ہوگی؟

جب ان سب سوالوں کا جواب ”ہاں“ میں ہے، تو پھر کیا یہ حرام کام کی اعانت و امداد نہ ہوئی، جس سے اسلام نسبتی کے ساتھ روکا ہے اور اس کو بھی سودخواری کے برابر کا گناہ قرار دیا ہے۔ الغرض سودی کاروبار کے لیے بینک کو یا کسی اور کو مکان کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے؛ بل کہ گناہ کا کام ہے۔

حضراتِ فقہاء کے اقوال

چنانچہ حضراتِ فقہائے کرام میں سے امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نیز امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ نے کسی حرام کام کے لیے کرایہ پر مکان دینے کو ناجائز قرار دیا ہے، چنانچہ فقہ خفی کی مشہور کتاب در مختار میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ یہود و نصاری و مجوس کی عبادت گاہوں کے لیے یا شراب بیچنے کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ لکھا ہے:

و قالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قال

(۱) الثالثة.

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۲۹۲/۶

(صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ) نے فرمایا کہ یہ درست نہیں؛ کیوں کہ یہ گناہ پر اعانت و امداد ہے اور یہی قول ہے، تینوں ائمہ (شافعی، مالک و احمد رحمہم اللہ) کا۔)

امام شمس الائمه سرخسی رحمہما اللہ ذمی (کافر) کو شراب بیخنے کے لیے مکان کرایہ پر دینے کے بارے میں لکھتے ہیں:

”لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ مُعْصِيَةٌ فَلَا يَنْعَدِدُ الْعَدْ عَلَيْهِ وَلَا أَجْرٌ لَهُ
عندہما۔“ (۱)

(امام محمد و امام ابو یوسف رحمہما اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ گناہ کا کام ہے، لہذا یہ معاملہ منعقد نہ ہوگا اور نہ کرایہ ملے گا۔)

اسی طرح دیگر کتب فقہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ (۲)

امام ابو اسحاق الشیرازی الشافعی نے ”المهدب“ میں لکھا ہے:

”وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحْرَمَةِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ فَلَا يَجُوزُ
أَخْذُ الْعُوْضِ عَلَيْهِ كَالْمِيَّةِ وَالدَّمِ۔“ (۳)

اس سے واضح ہوا کہ قرآن و حدیث کے نصوص کے مطابق حضرات فقہائے کرام نے بھی حرام کاروبار کے لیے کرایہ پر مکان دینے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور اس کو اعانت علی المعصیۃ میں شامل فرمایا ہے۔

(۱) المبسوط للسرخسی: ۱۶/۳۷

(۲) الفتاوى الهندية: ۲/۳۲۹، بدائع الصنائع: ۲/۱۹۰، البحر الرائق: ۸/۲۰۲

(۳) المهدب: ۱/۳۹۲

امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مسلک کی تحقیق

اوپر کی تفصیل و توضیح سے اصل مسئلے کا شرعی و فقہی نقطہ نظر سے جواب واضح طور پر معلوم ہو چکا ہے؛ البتہ یہاں یہ بات بھی صاف کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے میں امام اعظم رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی کیا رائے ہے؟ کیوں کہ بعض کتابوں میں امام صاحب کی طرف جواز کا قول منسوب کیا گیا ہے، جس سے بعض حضرات کو سخت دھوکہ ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض مفتیان کرام کو بھی اس جگہ مغالطہ لگا ہے؛ نیز بعض مخالفین نے اس سے امام اعظم رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر طعن و تشنیع کا جواز تلاش کر لیا ہے؛ لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مسلک کی تحقیق کی جائے۔

جواز کی روایت

یہ صحیح ہے کہ بعض فقہی کتابوں میں امام اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے، کہ آپ نے حرام کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز قرار دیا ہے۔
چنانچہ ”الدرالمختار“ میں ہے:

”جاز إجارة بيت بسواد الكوفة أى قراها لا بغيرها على الأصح ليتخدنها بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو بيع فيه الخمر، قال الشامي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هذا عنده وعندهما مكروه۔ (۱)“
(کوفہ کے قریوں میں نہ کہ اس کے علاوہ میں، گھر کرایہ پر دینا تاکہ آتش کدہ یا مندر یا چرچ یا شراب خانہ بنائے جائز ہے اور شامي نے فرمایا کہ یہ امام اعظم کے نزدیک مسئلہ ہے اور ان دو حضرات امام

(۱) الدرالمختار مع الشامي: ۲/ ۳۹۲

ابو یوسف و امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے)

اسی طرح ”الهدایہ“ میں ہے:

”من آجر بیتاً لیتخد فیه بیت نار او کنیسة او بیعة او
بیاع فیه الخمر بالسواد فلاباس به، وهذا عند ابی
حنیفة رحمۃ اللہ علیہ .“ (۱)

(جو شخص اجرت پر مکان دے؛ تاکہ اس میں آتش کدھ (مجوس کا
عبادت خانہ) یا کنیسه (یہود کا عبادت خانہ) یا بیعہ (عیسائی عبادت
خانہ) یا شراب خانہ بنالیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔)

مگر اس میں دو بحثیں ہیں، ایک یہ کہ اس جگہ جائز ہونے کے کیا معنی ہیں؟
دوسرے یہ کہ اس جواز کی کوئی شرط بھی ہے یا بلا کسی قید و شرط کے یہ جائز ہے، ان
دوبھتوں کو ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

”جواز“ کے معنی کیا ہیں؟

پہلی بحث یہ کہ فقہائے کرام نے جو یہ لکھا ہے کہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
حرام و ناجائز کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے، اس میں جائز ہونے کے
معنی کیا ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ فقہاء کے کلام میں لفظ جواز دو معنوں میں استعمال
ہوا ہے: ایک حلال و مباح ہونے کے معنی میں، دوسرے کسی کام کے صحیح و منعقد
ہو جانے کے معنی میں، اس سے قطع نظر کہ اس کام سے گناہ ہو گا یا نہیں، فقہاء کے کلام
میں لفظ جواز پہلے معنی کی طرح دوسرے معنی میں بھی بہ کثرت استعمال ہوا ہے۔

مثلاً فقہا نے لکھا ہے:

(۱) ”فَإِنْ أَبْدَلَ التَّكْبِيرَ بِاللَّهِ أَجْلَ أوِ الرَّحْمَانِ جَازَ.“

(اگر تکبیر تحریم کے وقت (اللہ اکبر) کے بے جائے کوئی ”اللہ اجل“ یا ”اللہ الرَّحْمَن“ وغیرہ الفاظ استعمال کرے، تو اس کی نماز جائز ہے۔) (۱)

حال آں کے خود فقہا نے لکھا ہے:

”وَصَحُ شَرْوَعٌ أَيْضًا مَعَ كُراْهَةِ التَّحْرِيمِ بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ.“ (۲)

(سبحان الله اور لا إله إلا الله کہہ کر نماز شروع کرنے سے نماز کا شروع کرنا کراہت تحریمی کے ساتھ صحیح ہوگا۔)

معلوم ہوا کہ فقہا نے خود اس کو مکروہ بھی قرار دیا ہے۔

(۲) اسی طرح خطیب جمعہ کا خطبہ بغیر وضو کے دیدے تو فقہا نے اس کو جائز بھی قرار دیا ہے اور مکروہ بھی بتایا ہے، چنانچہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: یکرہ وجاز (خطبہ جائز ہو جائے گا اور مکروہ ہوگا) (۳) اور شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے:

”جَازَ وَيَاْثِمٌ“ (یہ خطبہ جائز ہو جائے گا اور خطبہ لئے گا ربھی ہوگا) (۴)

اس جگہ غور طلب بات یہ ہے کہ فقہا نے ایک کام کو جائز بھی بتایا اور مکروہ و ناجائز بھی، یہ کیوں اور کیسے؟ بات وہی ہے جو اور پر عرض کر چکا ہوں کہ فقہا کے کلام

(۱) شرح الوقایة مع حاشية جلبي : ۳۸

(۲) الدر المختار مع الشامي : ۱/۸۸۳

(۳) مختصر القدوري : ۳۶

(۴) الشامي على الدر : ۲/۱۵۰

میں جواز کے ایک معنی یہ ہیں کہ یہ کام منعقد ہو گیا اور ذمہ سے ساقط ہو گیا، اس سے قطع نظر کہ یہ کام حلال و مباح تھا یا ناجائز و حرام۔

مزید تقویت کے لیے حوالہ بھی لبھیے، علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”البنيۃ شرح الہدایہ“ میں لکھا ہے:

”ولفظة “یجوز“ تارةً تطلق على معنى يحل و تارةً تستعمل بمعنى يصح و تارةً تصلح لهم.“
 (”یجوز“ کا اطلاق کبھی حلال ہونے کے معنی میں اور کبھی اس کا استعمال کام کے صحیح ہو جانے کے معنے میں ہوتا ہے اور کبھی ان دونوں معنے کے لیے درست ہوتا ہے۔) (۱)
 علامہ نووی الحججی میں فرماتے ہیں:

”ولفظة “یجوز“ تارةً يستعملونها بمعنى يحل و تارةً بمعنى يصح و تارةً تصلح لأمرین. (۲)
 علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یجوز قد یقال بمعنى يصح وقد یقال بمعنى يحل،
 کذا فی ”شرح المهدب“ للنووی، ولذلك تراهم
 يطلقون على الصلوة المكرروحة و نحوها ”جاز ذلك أو
 صح ذلك“ ويريدون به نفس الصحة المقابل للبطلان
 من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة ، ولهذا فسر
 الشرح والمحشون كثيراً قولهم ”جاز و صح“ بقولهم:

(۱) البناۃ: ۲۰۵/ا

(۲) المجموع: ۱۱۹/ا

أي مع الكراهة، كما لا يخفى على وسيع النظر، وقال في
”حلية المحتلى شرح منية المصلى“: أنه أي الجواز قد
يطلق ويراد به ما لا يمتنع به شرعاً، وهو يشمل المباح
والمحظوظ والمندوب والواجب . وفي العقد الفريد
لبيان الراجح من جواز التقليد للشريعتين عند البحث
عن بعض عبارات ”منية المفتى“: أو نقول يجوز بمعنى
يحل، فإنه لا يلزم من النفاذ الحل فإن الحكم على الغائب
نافذ عند شمس الأئمة وغيره كما ذكره العمامي،
وشهادة الفاسق يصح الحكم بها وإن لم يحل. فاحفظ
هذا فقد زل قدم كثير من الناس لعدم علمهم بهذا.“ (۱)

جب یہ واضح ہو گیا کہ فقہا کے کلام میں جائز ہونے کے معنی صرف یہ نہیں
ہوتے کہ کام حلال و مباح ہے؛ بل کہ معاملہ کے طے و منعقد ہو جانے کے بھی آتے
ہیں، تو اب زیر بحث مسئلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جواز کا قول منسوب
کیا گیا ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ یہاں کوئی معنی مراد ہیں؟
زیر بحث مسئلے میں فقہا کا کلام اگرچہ دونوں معنی کو محتمل ہے، مگر بعض عبارات
سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جواز کے معنی حلال ہونے کے نہیں؛ بل کہ صحیح
و منعقد ہو جانے کے ہیں۔ چنانچہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط (جس کے
بارے میں علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا اور
اس کے خلاف پر عمل نہ ہو گا۔) (۲)

(۱) مقدمة عمدة الرعایة: ۱۵

(۲) رسم المفتى، رسائل ابن عابدين: ۱/۲۰

اس میں ہے:

اذا استاجر الذمي من المسلم بيتاً لبيع فيه الخمر لم يجز فلا ينعقد العقد عليه ولا اجر له عند هما وعند ابى حنيفة رحمه الله يجوز. ”(۱)

(اگر مسلمان سے ذمی (کافر) نے شراب بیچنے کے لیے گھر کرایہ پر لیا، تو امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کے نزدیک جائز نہیں؛ کیوں کہ یہ گناہ ہے، پس اس پر معاملہ منعقد نہ ہوگا اور نہ کرایہ ملے گا اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔)

اس میں امام سرسختی رحمہما اللہ نے امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معاملہ منعقد نہ ہوگا، اس کے بال مقابل امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کے نزدیک جائز ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جواز کے معنی منعقد ہو جانے کے ہیں، نہ کہ حلال و مباح ہونے کے۔

پھر اس سے زیادہ واضح الفاظ میں امام اعظم رحمہما اللہ کا مسلک ”خلاصة الفتاوی“ میں نقل کیا گیا ہے کہ ایسے غیر شرعی کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینا امام اعظم رحمہما اللہ کے نزدیک ”یصح ویاثم“ کو صحیح ہو جاتا ہے اور دینے والا گنہ گار ہوتا ہے۔ نیز حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہما اللہ نے بھی یہاں جواز کا یہی مطلب بیان کیا ہے، چنانچہ اپنے رسالہ ”تفصیل الكلام فی مسئلة الإعانة علی الحرام“ میں فرماتے ہیں:

” وَمَنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْجَوَازَ فِي حِمْلِهِ عَلَى جَوَازِ الْعَدْ

بمعنى الصحة دون رفع الاثم كما هو معهود عند فقهائنا
في موضع لا تحصى.“ (۱)

(جن حضرات نے اس مسئلے میں لفظ جواز استعمال کیا ہے، اس کو عقد و معاملہ کے صحیح و منعقد ہونے کے معنی پر مجموع کیا جائے گا نہ کہ گناہ نہ ہونے کے معنی پر، جیسا کہ بے شمار جگہوں پر فقہا کی عادت معلوم ہے۔)

اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ جواز کو ”معاملہ کے صحیح و منعقد ہونے“ کے معنی میں لینا درست قرار دیا ہے۔ (۲)

الغرض امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملہ کو جائز اس معنی میں فرمایا ہے کہ یہ معاملہ طے و منعقد ہو جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں، پھر ”خلاصة الفتاوى“ کے مطابق یہ بھی واضح ہو گیا کہ ایسا معاملہ کرنے والا گنہ گار بھی ہوتا ہے، لہذا زیر بحث سوال کا جواب اس کے مطابق یہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک سودی کاروبار یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے سے یہ معاملہ طے و منعقد تو ہو جاتا ہے مگر یہ دینے والا گنہ گار بھی ہوتا ہے۔

جواز کے حدود و شرائط

دوسری بحث یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مسئلہ زیر بحث میں جواز کے معنی حلال و مباح ہونے کے لیے جائیں، تو کیا یہ بلا کسی قید و شرط کے جائز ہے، یا اس میں کوئی قید و شرط بھی ہے؟ کیوں کہ بسا اوقات ایک مسئلہ ایک جگہ پر بلا کسی قید و شرط کے مذکور ہوتا ہے، جب کہ دوسرے موقع پر اس کی قیدیں و شرطیں بیان کی جاتی ہیں اور یہ

(۱) جواہر الفقہ: ۲۲۵/۲

(۲) إعلاء السنن: ۳۶/۱۳

مسلم ہے کہ جب ائمہ کرام کسی قول و مسئلے کی کوئی قید و شرط دوسرے موقع پر ذکر کریں، تو اس کو واجبی طور پر معتبر مانتا چاہیے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”نبیہ الغافل والوسنا ن“ میں تصریح کی ہے۔ (۱)

اب ہم جب اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے اس کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کاموں کے لیے مکان کرایہ پر دینے یا کسی بھی طور پر باطل کی اعانت و امداد کرنے کا جواز بہت سی شرطوں سے مشروط ہے، ان شرطوں سے قطع نظر کر کے صرف یہ مسئلہ لے لینا کہ ”امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے“ درست نہ ہوگا اور یہ علمی کا ثبوت ہوگا۔

پھر جب ان شرائط پر ہمارے زیر بحث مسئلے کو منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں شرطیں نہیں پائی جاتیں، جب وہ شرطیں ہمارے زیر بحث مسئلے میں نہیں پائی جائیں، تو پھر ان شرائط سے جو جواز مشروط تھا، وہ بھی اس میں نہ ہوگا اور یہ صورت ناجائز و مکروہ قرار دی جائے گی، چنانچہ ہم ان شرطوں کو پیش کر کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے بعض شرطیں صورتِ مسئولہ میں پائی نہیں جاتی ہیں۔

”جواز“ کی پہلی شرط

پہلی شرط یہ ہے کہ سودی کاروبار یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے والا، اس نیت سے نہ دے کہ غیر شرعی و حرام کاروبار اس میں کیا جائے، اگر اس نیت سے دے گا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہ ہوگا۔

(۱) رسائل ابن عابدین : ۲۳۵

چنانچہ شمس الائمه امام حسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”ولَا بَاسٌ بَعْدَ يَوْمِ الْمُسْلِمِ دَارًاٰ مِنَ الذَّمِي لِيسْكَنَهَا،
إِنْ شَرَبَ فِيهَا الْخَمْرَ أَوْ عَبَدَ فِيهَا الصَّلَبَ أَوْ أَدْخَلَ فِيهَا
الْخَنَازِيرَ لَمْ يَلْحُقْ الْمُسْلِمُ إِثْمًا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمْ
يَوْجُرْهَا لِذَلِكَ ، وَ الْمُعْصِيَةُ فِي فَعْلِ الْمُسْتَاجِرِ وَ فَعْلِهِ دُونَ
قَصْدِ رَبِ الدَّارِ ، فَلَا إِثْمٌ عَلَى رَبِ الدَّارِ فِي ذَلِكَ.“ (۱)

(اس میں کوئی گناہ نہیں کہ مسلمان ذمی (کافر) کو رہنے کے لیے
مکان کرایہ پر دے، پھر اگر وہ (ذمی کافر) اس میں شراب پئے یا
صلیب پہنچے یا خنزیر کو داخل کرے، تو اس مسلمان (کرایہ پر دینے
والے) کو کوئی گناہ نہ ہوگا؛ کیوں کہ وہ ان کاموں کے لیے کرایہ پر
مکان نہیں دیا تھا اور گناہ کرایہ پر لینے والے کے عمل میں ہے اور اس کے
عمل کا گھروالے کے ارادے میں کوئی دخل نہیں، لہذا اس پر گناہ نہیں)

اس میں وضاحت ہے کہ کرایہ پر دینے والا، ان گناہوں کے کرنے کے لیے
مکان نہیں دیا تو اس کو کرایہ پر دینے کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا، اسی سے یہ بھی معلوم
ہوا کہ اگر گناہ کرنے کے لیے دے گا تو یہ جائز نہ ہوگا اور دینے والا گناہ گار ہوگا۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے:

”إِنْ بَيْعَ الْعَصِيرِ مَمْنُونٌ يَتَخَذِّهِ خَمْرًاٰ أَنْ قَصْدٌ بِهِ التِّجَارَةُ
فَلَا يَحْرُمُ ، وَ إِنْ قَصْدٌ بِهِ لِأَجْلِ التِّخْمِيرِ حَرَمٌ .“ (۲)

(۱) المبسوط للسرخسي: ۳۹/۱۶

(۲) الاشباه مع الحموي: ۵۳/۱

(رس (انگور وغیرہ کا) اس شخص کے ہاتھ پہنچنا، جو اس سے شراب بناتا ہے، اگر تجارت کی نیت سے ہو تو حرام نہیں ہے اور اس ارادے سے ہو کہ اس سے شراب بنائے تو حرام ہے۔)

اس سے صاف معلوم ہوا کہ حرام کام کی مدد و اعانت کی نیت سے کسی کو انگور وغیرہ کا رس پہنچا بھی جائز نہیں، اس میں اگرچہ پیچنامہ کور ہے؛ مگر چوں کہ یہ بھی اعانت علی الحرام ہی کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمارے نزدیک زیر بحث کرایہ کے مسئلے کی یہ نظیر ہے، بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ حرام کام کی اعانت کی نیت سے مکان کرایہ پر دینا جائز نہیں؛ بل کہ حرام ہے۔

تنبیہ

ان عبارتوں میں چوں کہ اختلاف ذکر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؛ اس لیے یہ مسئلہ اتفاقی ہے، جیسا کہ (نتائج الافکار تکملة فتح القدير مع العناية: ۲۰/۱۰) سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر حموی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ اشیاء میں یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ (۱)

”جواز“ کی دوسری شرط

جواز کی دوسری شرط یہ ہے کہ کرایہ پر دینے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ مکان کرایہ پر لینے والا، اس میں حرام کاروبار کرے گا؛ لہذا اگر یہ معلوم ہو تو کرایہ پر مکان دینا جائز نہ ہوگا۔

الدر المختار (باب البغاة) میں ہے:

”ويكره تحريمًا بيع السلاح من أهل الفتنة أن علم لانه“

(۱) الحموي مع الأشباه: ۵۳/۱

إعانة على المعصية، وبيع ما يتخذ منه كالحديد ونحوه
يكره لأهل الحرب لا أهل البغي لعدم تفرغهم لعمله
سلاماًً). (١)

(فتنہوروں کو ہتھیار بیچنا مکروہ تحریکی ہے، اگر اس کا علم ہو؛ کیوں کہ یہ گناہ پر مدد ہے، اور لوہا وغیرہ جن سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ان کا بیچنا دار الحرب کے کافروں کو مکروہ ہے، نہ کہ باغیوں کو؛ کیوں کہ باغیوں کو اس سے ہتھیار بنانے کی فرصت گنجائش نہیں ملتی۔)
اس سے معلوم ہوا کہ فتنہوروں کو ہتھیار بیچنا مکروہ تحریکی ہے اور لوہا وغیرہ، جن سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کو بیچنا ناجائز و مکروہ ہے، جو اس سے ہتھیار بنا کر غلط و ناجائز کام میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اہل حرب (کافر) اور یہ جو فرمایا گیا کہ باغیوں کو لوہا وغیرہ بیچنا مکروہ نہیں، یہ اس لیے کہ ان کو اسلامی حکومت کے تحت رہنے کی وجہ سے یہ گنجائش نہ ملے گی کہ ہتھیار بنا کر غلط استعمال کریں، جیسا کہ ”الدر المختار“ کی اس عبارت میں تصریح ہے؛ لیکن اگر وہ بھی اس قابل ہوں کہ ہتھیار بنا کر غلط استعمال کریں تو ان کو بھی بیچنا مکروہ ہی ہوگا جیسا کہ تعلیل سے ظاہر ہے۔

الغرض اس سے اتنا معلوم ہوا کہ یہ علم ہونے کے بعد کہ فلاں شخص یہ چیز غلط وغیر شرعی کام میں استعمال کرے گا، اس کے ہاتھوں وہ چیز بیچنا مکروہ تحریکی ہے، خواہ وہ چیز بنی بنائی ہو۔ جیسے ہتھیار یا بندی ہوئی نہ ہو، جیسے لوہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعانت علی الحرام اس وقت گناہ نہیں، جب کہ علم نہ ہو اور اگر علم ہو تو یہ ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔

ایک شبہ کا جواب

یہاں ایک شبہ کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ ”الدر المختار“ میں ہے:

(۱) الدر المختار: ۲۶۸

”جاز بیع عصیر عنب ممن یعلم أنه یتخدہ خمراً۔“

(علم ہونے کے باوجودا یسے شخص کو انگور کا شیرہ پیچنا جائز ہے، جو اس سے شراب بناتا ہے۔) (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ علم ہونے کے باوجوداعانت علی الحرام جائز ہے، جب کہ اوپر کی عبارت سے اس کا عدم جواز ثابت ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے علم ہونے کے باوجوداعانت علی الحرام کے بارے میں دو قول منقول ہیں: ایک وہ جوشہ میں نقل کیا گیا ہے، دوسرے وہ جو خود الدر المختار ہی میں اسی کے بعد منقول ہے کہ علم ہونے کے باوجودا یسے شخص کے ہاتھرس پیچنا مکروہ ہے؛ جو شراب بناتا ہے اور ان دونوں اقوال میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے؛ بل کہ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ پہلے قول میں جواز کے معنی وہ ہیں، جو اور پرتفصیل کے ساتھ بتاچکا ہوں کہ معاملہ طے و منعقد ہو جائے گا اور دوسرے قول میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسا معاملہ کرنے والا گنہ گار ہوگا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو قولوں میں اسی طرح تطبیق دی ہے۔ (۲)

الغرض مکان کرایہ پر دینا اس وقت جائز ہے، جب کہ یہ معلوم نہ ہو کہ کرایہ دار اس میں غلط کام کرے گا، اگر معلوم ہو تو اس کی اجازت امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخدها كنيسة“

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۳۹۱/۶

(۲) إعلاء السنن: ۲۱۳/۱۶

او بیت نار و أمثالها فکله مکروه تحریماً بشرط أن يعلم
به البائع والآجر من دون تصريح باللسان، فإنه إن لم يعلم
كان معذوراً وإن علم وصرح كأن داخلا في الاعانة
المحرمة.“ (۱)

(اور گھر اس شخص کو کرایہ پر دینا، جو اس میں شراب بیچ گایا اس کو
چرچ یا آتش کدہ بنائے گا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے، اس شرط کے ساتھ
کہ بیچنے یا کرایہ پر دینے والا اس بات کو جانتا ہو، بغیر زبان سے بیان
کیے؛ کیوں کہ اگر علم نہ ہو تو وہ معذور ہے اور اگر علم ہو گیا یا بیان کر دیا تو
یہ اس اعانت میں داخل ہے جو حرام ہے۔)

معلوم ہوا کہ حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا، جب کہ کرایہ پر دینے والے
کو علم ہے کہ یہ غلط کام میں استعمال میں لا یا جائے گا، جائز نہیں۔

اب ہمارے زیر بحث مسئلہ پر غور کیجیے کہ کیا ان کرایہ پر دینے والوں کو یہ علم نہیں
ہوتا کہ یہ سودی کاروبار کے لیے استعمال میں لا یا جائے گا؟ ضرور علم ہوتا ہے؛ بل کہ
معاملہ کرتے وقت تصریح کی جاتی ہے کہ یہ دکان سودی کاروبار کے لیے استعمال کی
جائے گی اور علمانے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر معاملہ کرتے وقت اس بات کی تصریح کر دی
گئی تو بھی یہ معاملہ ناجائز ہے۔ (۲)

اور تکملہ بھر میں یہ مسئلہ صاف لکھا ہے کہ شراب اٹھا کر لے جانے کے لیے مسلمان
کو مزدوری دی گئی اور مزدوری پر لینے والے نے بیان نہ کیا کہ میں یہ شراب پینے

(۱) تفصیل الكلام من درجہ جواہر الفقہ: ۲/۳۲۷

(۲) احکام القرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ: ۷/۳، جواہر الفقہ: ۲/۳۳۱

لے جا رہا ہوں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

الغرض جب معاملہ کرتے وقت تصریح ہو گئی اور کرایہ پر دینے والے کو اس کا عالم ہو گیا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بھی اس معاملہ کی اجازت نہ ہو گی؛ کیوں کہ اس معاملے کی اجازت اس وقت ہے، جب کہ علم نہ ہوا اور اس کی تصریح نہ کی گئی ہو، جب یہ شرط نہ پائی گئی، تو جواز بھی نہ ہو گا۔

”جواز“ کی تیسری شرط

اس معاملہ کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ معاملہ کافر سے ہو، مسلمان کو سودی کاروبار یا کسی حرام کام کے لیے مکان دکان کرایہ پر دینا جائز نہیں۔

چنانچہ ”الأشباه والنظائر“ میں جو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ شراب بنانے والے کو انگور کا شیرہ بیچنا جائز ہے، جب کہ تجارت کی نیت ہو، اس کے تحت الحموی نے لکھا ہے:

”فَسِرْ فِي مُشْكَلَاتِ الْقَدْوَرِيِّ مِن يَتَخَذِهِ خَمْرًا بِالْمَجْوُسِ لَا إِسْلَامُ، أَمَا بَيْعُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ، فِي كُرْهٍ فِي هِيَةِ إِعْانَةٍ عَلَى الْفَسْقِ وَالْمُعْصِيَةِ.“ (۲)

(”مشکلات القدوری“ میں شراب بنانے والے سے مجبوی (کافر) مراد لیا گیا ہے، نہ کہ مسلمان؛ لہذا مسلمان کو اس بیچنا جب کہ وہ اس سے شراب بنانے مکروہ ہے؛ کیوں کہ یہ گناہ اور معصیت پر اس کی اعانت ہے۔) اسی طرح ”الدرالمختار“ میں ہے:

”وَنَقلَ الْمَصْنُفُ عَنِ السِّرَاجِ وَالْمُشْكَلَاتِ: أَنْ قَوْلَهُ ”مِنْ“

(۱) تکملة البحر : ۸/۲۰

(۲) الأشباه والنظائر : ۵۳

أي من كافر، أما بيعه من مسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقلاني وغيرهما، و نقل القهستانى معزياً للخانية أنه يكره بالاتفاق.“(۱)

(مصنف ”المنار“ نے سراج و مشکلات سے نقل کیا ہے کہ اس شخص سے مراد کافر ہے، رہا مسلمان کو بیچنا تو یہ مکروہ ہے، جو ہرہ و باقانی وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے اور قہستانی نے خانیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمان سے یہ معاملہ بالاتفاق مکروہ ہے)

اب یہ معاملہ کرنے والے غور کر لیں کہ وہ اپنے مکانات سودی کاروبار کے لیے کہیں مسلمانوں کو تو نہیں دے رہے ہیں؟ اگر ان سے معاملہ ہو، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہ ہوگا۔

”جواز“ کی چوتھی شرط

ایک شرط یہ ہے کہ سودی کاروبار یا کسی اور حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا وہاں جائز ہے، جہاں اسلامی شعائر و اعلام غالب و ظاہر نہ ہوں؛ بل کہ اعلام و شعائر کفر غالب ہوں، یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز ہے، وہی بعض کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ مسئلہ صرف سوادِ کوفہ (کوفہ کے گاؤں) کے لیے ہے۔ (دیکھو ”الدر المختار“ کی عبارت جو شروع رسالہ میں نقل کی گئی ہے) اور جن حضرات نے ہر گاؤں میں اس کی اجازت دی ہے، ان پر بڑے بڑے ائمہ نے رد کیا ہے، چنانچہ صاحبِ بدایہ اور علامہ ابوالقاسم

الصفار نے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ جواز صرف کوفے کے گاؤں میں ہے، دوسری جگہ یہ اجازت نہیں ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے۔“

اب رہایہ سوال کہ کوفے کے گاؤں میں اجازت کیوں ہے اور دوسری جگہ منع کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوفے کے گاؤں اور قریوں میں اس وقت صرف کفار اور یہود و رواضن رہتے تھے، وہاں اسلامی شعائر غالب نہ تھے۔ اس لیے وہاں اس کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہاں یہ کافران غیر شرعی کاموں کے لیے مسلمانوں کی دکانوں اور ان کے مکانات کراچی پر لیں تو جائز ہے، مگر دوسرے وہ علاقے جہاں اسلامی شعائر غالب ہیں، وہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔

چنانچہ امام سرسخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

”كان أبوالقاسم الصفار يقول هذا الجواب في سواد الكوفة فإن عامة من يسكنها من اليهود والرواضن لعنهم الله ، فأما في ديارنا يمنعون من أحداث ذلك في السواد كما يمنعون في مصر لأن عامة من يسكن القرى في ديارنا مسلمون وفيها الجماعة والدرس ومجلس الوعظ كما في الأمسكار.“ (۱)

(ابوالقاسم الصفار رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جواب (جواز کا) کوفے کے گاؤں میں ہے؛ کیوں کہ وہاں کے اکثر رہنے والے یہود و رواضن ہیں؛ لیکن ہمارے علاقوں میں گاؤں میں بھی اس سے منع کیا جائے گا؛ کیوں کہ ہمارے علاقوں میں، گاؤں میں بھی زیادہ تر مسلمان ہیں اور

(۱) المبسوت ۱۵/۱۳۲

جماعت اور درس اور مجلس و عنط بھی ہوتی ہے جیسا کہ شہروں میں یہ سب ہوتے ہیں)

صاحب ”الهدایہ“ نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:

” وإنما قيده بالسود لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس؛ وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمسار لظهور شعائر الإسلام فيها بخلاف السود. قالوا هذا كان في سواد الكوفة لأن غالب أهلها أهل الذمة، فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضاً وهو الأصح.“ (۱)

اسی طرح ”تکملۃ البحر الرائق“ اور ”شرح الوقایۃ“ وغیرہ میں بھی ہے۔ (۲) ان سب سے ایک بات تو یہ مفہوم ہوئی کہ یہ جواز صرف کوفہ کے گاؤں میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں خواہ وہ شہر ہوں یا قریے و گاؤں، اس کی اجازت نہیں کہ حرام کاروبار کے لیے مکان کرایہ پر دیا جائے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوفہ کے گاؤں میں جائز اس لیے ہے کہ وہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر نہیں ہیں، لہذا اس سے یہ بات مفہوم ہوئی کہ جہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر ہوں، وہاں حرام کام کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مکان کرایہ پر دینا جائز نہیں۔

اب غور اس پر کرنا ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہر اور اسی طرح بے شمار گاؤں اور قریے، مسلمانوں سے بھر پور ہیں اور ان میں اسلامی شعائر بھی غالب

(۱) الہدایہ: ۲/۲۵۲

(۲) البحر الرائق: ۸/۲۰۲ - ۲۰۳، شرح الوقایۃ: ۳۲۳

و ظاہر ہیں؛ کیوں کہ شعائر سے مراد اذان، جماعت، جمعہ و عیدین وغیرہ ہیں، کون انکار کر سکتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ شعائر یہاں غالب و ظاہر ہیں؟ جب یہ بات صاف ہے کہ یہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر ہیں، تو فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق ان علاقوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینا جائز نہ ہوگا۔

حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ (سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند) نے ”نظام الفتاوى“ میں جو یہ فرمایا کہ ہندوستان کا حال ”سواد کوفہ“ سے کچھ بہتر نہیں ہے اور اسی پر آپ نے صورتِ زیر بحث میں جواز کافتوی دیا ہے، کم از کم میں تو اس کے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہندوستان اس زمانے کے کوفے کے گاؤں کے برابر کیوں کر ہو گیا، جیسا کہ ظاہر ہے، اس لیے ان میں سے ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ (واللہ اعلم)

خلاصہ تحقیق

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاً تو آپ کے نزدیک جو حرام کام کے لیے مکان کرایہ پر دینے کو جائز لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ منعقد ہو جائے گا؛ لیکن اس سے وہ گنہ گار بھی ہوگا۔ پھر یہ جواز بھی چند شرطوں سے مشروط ہے:

(۱) اعانت علی الحرام کی نیت نہ ہو۔

(۲) مالکِ مکان کو یہ معلوم نہ ہو کہ کرایہ دار مکان کو غلط وغیر شرعی کاموں میں استعمال کرے گا۔

(۳) یہ معاملہ صرف کافروں سے جائز ہے، مسلمانوں سے نہیں۔

(۴) یہ صرف وہاں جائز ہے، جہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر نہ ہوں۔

ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر یہ معاملہ جائز نہ ہوگا۔

پھر جائز ہونے کے پہلے معنی یعنی طے ہو جانے کے لیے جائیں، تو اگر شرط نہ پائی جائے، تو یہ معاملہ ہی طے نہ ہوگا اور اگر جواز کے معنی حلال ہونے کے ہوں، تو شرط نہ پائی جانے کی صورت پر یہ معاملہ حلال و مباح نہ ہوگا۔

اور اور پر عرض کیا جا چکا ہے کہ زیر بحث صورت میں ایک تو یہ شرط نہیں پائی جاتی کہ کراہیہ پر دینے والے کو علم نہ ہو؛ کیوں کہ دینے والوں کو علم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ شرط نہیں پائی جاتی کہ یہ معاملہ وہاں ہو، جہاں اسلامی شعائر غالب و ظاہر نہ ہوں؛ کیوں کہ بنگلور اور ایسے ہی بڑے بڑے ہندوستانی شہر اور اسی طرح بے شمار قریب روزانہ اذان کی آواز سے گونجتے اور جمعہ اور عیدین کی دھوم سے اپنی دھاک جمائے، محفوظ و سالم موجود ہیں۔ (اللہ نظر بد سے بچائے)

پھر باقی دو شرطیں ممکن ہے کہ بعض جگہ وہ بھی نہ پائی جائیں، اگرچہ ہر صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں؛ مگر چوں کہ ایک شرط بھی فوت ہو جانے پر یہ معاملہ جائز نہیں رہتا؛ اس لیے جب دو شرطیں قطعی طور پر نہیں پائی جا رہی ہیں، تو خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق یہ معاملہ جس کا سوال میں ذکر ہے، ناجائز ہوا۔

لفظِ "مکروہ" کے معنی

اوپر کی بعض عبارتوں میں جو لفظ مکروہ استعمال ہوا ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی زیادہ بُری اور گناہ کی بات نہیں ہے؛ کیوں کہ مکروہ بھی حرام یا حرام

حرام کاروبار کے لیے املاک کا اجارہ
کے قریب کی چیز ہے اور اس کے ارتکاب سے گناہ بھی ہوتا ہے؛ بل کہ حضرت مفتی
کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہ کے ارتکاب
سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ (۱)

اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ فرماتے
ہیں: حرام چیز پر لفظ مکروہ کے بولنے سے متاخرین میں سے بہت سے لوگ غلطی
میں پڑ گئے، انہم نے احتیاط کرتے ہوئے لفظ حرام کے بجائے لفظ مکروہ استعمال
فرمایا تھا، پھر ان کے بعد والوں نے ان چیزوں سے حرمت کی نفی کر دی، جن پر انہم
نے لفظ مکروہ استعمال کیا تھا، پھر ان پر مکروہ کا لفظ بڑا آسان ہو گیا۔ (۲)
الغرض لفظ مکروہ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ہلکی و آسان بات ہے، خصوصاً
جب کہ اس مسئلے میں علماء نے بعض جگہ لفظ حرام اور ناجائز بھی استعمال کیا ہے۔

اصل سوالات کا جواب

اب ہم اس سوال نامے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو اس تحریر کا باعث و محرك
ہے، اور بالترتیب ہر سوال کا جواب لکھتے ہیں:

(۱) پہلا سوال یہ ہے کہ سودی کاروبار کے لیے مسجد کی املاک کو کراہیہ پر دینا جائز
ہے یا نہیں؟

اس کا جواب اوپر کی تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ یہ معاملہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و امام
محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ انہم کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے

(۱) کفایۃ المفتی: ۹/۱۳۱

(۲) أعلام الموقعين: ۱/۳۹-۸۰

نzdیک بھی یہ ناجائز ہے، البتہ ان کے نزدیک بعض صورتوں میں اس کا جواز نکل سکتا ہے مثلاً جب کہ کرایہ پر دینے والے کو یہ علم نہ ہو کہ یہ سودی کاروبار کے لیے مکان کرایہ پر لے رہا ہے وغیرہ، جس کی تفصیل گذرچکی اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ جواز کی کوئی صورت زپر بحث صورت میں موجود نہیں؛ اس لیے باتفاقِ ائمہ یہ معاملہ ناجائز ہے، پھر یہ مسئلہ مسجد کی املاک اور ذاتی املاک دونوں کے لیے ایک ہی ہے کہ ناجائز ہے، البتہ مسجد کی ملکیت کو اس طرح غلط کام کے لیے دینا مزید گناہ کا باعث ہے۔

(۲) دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بینک کو سودی کاروبار کے لیے کرایہ پر مکان دے دیا، تو اس سے حاصل ہونے والا کرایہ جائز و حلال ہے یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، امام ابو یوسف و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کرایہ کو ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں، امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تفصیل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر کی تفصیل کے مطابق جن صورتوں میں کرایہ پر مکان ایسے کاموں کے لیے دینا جائز ہے، ان صورتوں میں آپ کے نزدیک اس سے حاصل ہونے والا کرایہ حلال ہے اور جن صورتوں میں اوپر کی تفصیل کے مطابق یہ معاملہ ناجائز ہے، ان صورتوں میں اس سے حاصل ہونے والا کرایہ بھی حلال نہیں۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”وفي “الجامع الصغير” أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة رحمۃ اللہ علیہ وعندهما يکره، لهما أن هذه إيجارة على المعصية لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ﴾ ولهذا لعن الله عشرة ، منهم حاملها

والمحمول إلیه ولأبی حنیفة رَحْمَةُ اللَّهِ : أن نفس الحمل ليس بمعصية والحديث محمول على الحمل بنية الشرب ، وبه نقول إن ذلك معصية يكره أكل اجرته.“ (۱)

(اس کے لیے (جو شراب اجرت پڑھا کر لے جائے) اجرت حلال ہے، ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ کے قول میں اور صاحبین رَحْمَةُ اللَّهِ کے نزدیک مکروہ ہے؛ کیوں کہ یہ حرام کام کی مزدوری ہے؛ کیوں کہ شراب اٹھا کر لے جانا گناہ ہے، اس کے اعانت علی الحرام ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو اور (حدیث کے مطابق) اللہ تعالیٰ نے دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شراب اٹھا کر لے جانے والا اور ایک وہ شخص ہے جس کے لیے یہ لی جائی گئی ہے اور امام ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللَّهِ کی دلیل یہ ہے کہ فی نفس شراب اٹھا کر لے جانا تو گناہ نہیں؛ کیوں کہ یہ پھینکنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور حدیث اس صورت پر مکمل ہے کہ پینے کے لیے اٹھا کر لے جانے کی نیت ہو اور اس صورت میں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ معصیت ہے اور اس کی اجرت لینا مکروہ ہے۔)

اس میں امام اعظم رَحْمَةُ اللَّهِ کے مسلک میں یہ تفصیل بتائی ہے کہ اعانت علی الحرام کی نیت نہ ہو تو اس کی اجرت حلال ہے اور اگر اعانت علی الحرام کی نیت ہو، تو یہ معصیت ہے اور اس کی اجرت لینا بھی ناجائز و مکروہ ہے اور جیسا کہ اوپر معلوم ہوا کہ نیت بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے، جس سے یہ معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری وہ چیزیں جن سے معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزرا، ان کے پائے جانے سے بھی اس معاملہ کی اجرت ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن صورتوں میں معاملہ جائز ہے، ان میں اجرت بھی جائز ہے اور جن میں معاملہ ناجائز ہے، ان میں اجرت بھی ناجائز ہے اور زیر بحث سوال میں چوں کہ معاملہ ناجائز ہے؛ اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کی اجرت ناجائز ہے۔

(۳) تیسرا سوال یہ ہے کہ جو امام اس آمدنی سے تنخواہ پاتا ہے اور اس کو اس کا علم بھی ہے، اس کے پیچے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، کیوں کہ علم ہوتے ہوئے اس ناجائز آمدنی سے اپنی اجرت و تنخواہ لینا جائز نہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”زید کا قرض بد ذمہ عمر واجب ہے اور وہ اس کو حرام آمدنی سے ادا کرنا چاہتا ہے اور زید کو معلوم ہے، تو اس کے لیے حلال نہ ہو گا یا ایسے شخص کا کوئی کام کر کے ایسی آمدنی سے اجرت لینا، ان سب کا یہی حکم ہے۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز آمدنی سے جائز کام کی تنخواہ لینا بھی ناجائز ہے، لہذا امام کو احتیاط کرنا چاہیے اور جو علم ہونے کے باوجود احتیاط نہ کرے، اس کے پیچے نماز تو ہو جاتی ہے؛ مگر مکروہ ہوتی ہے۔

مگر اتنی بات ضرور ذہن میں رہے کہ جب تک یہ تحقیق نہ ہو کہ فلاں امام کو اس ناجائز آمدنی سے تنخواہ دی جاتی ہے اور یہ کہ امام کو اس کا علم بھی ہے، اس وقت تک کسی

(۱) صفائی معاملات: ۲۵

اماں کی؛ بل کہ کسی شخص کی طرف بھی یہ بات منسوب کرنا درست و جائز نہیں کہ وہ ناجائز آمدنی کھاتا ہے، پھر اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری ان کی ہے جو امام کو تخلواہ دینے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ خود اپنی نمازوں اور دوسرے لوگوں کی نمازوں کو کراہت سے بچانے کے لیے امام کو جائز آمدنی سے تخلواہ دیں؛ کیوں کہ امام کو اکثر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تخلواہ کس مد میں سے دی جائی ہے۔

بہر حال پہلی ذمہ داری ان متولیان و ذمہ داران مساجد کی ہے کہ وہ ہر معاملہ میں علماء سے پوچھ کر اور تحقیق کر کے معاملہ کریں، اور مساجد کو غلط و بے ہودہ کا موقوں سے پاک رکھیں۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان



مروجہ انشورز
پالیسی اور اسلام

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مروجہ انسورنس پالیسی اور اسلام

انسورنس کی حقیقت

انسورنس کے احکام پر گفتگو سے پہلے انسورنس کی حقیقت پر ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ ”انسور“ (INSURE) انگریزی میں وثوق دلانے اور یقین دہانی کے معنے رکھتا ہے، اسی سے ”انسورنس“ ایک ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے، جس میں بعض شرائط پر ایک شخص کو دوسرے کی طرف سے مستقبل میں پیش آنے والے امکانی خطرات سے حفاظت اور بعض نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کی جاتی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس کے لیے خطرات سے حفاظت اور نقصانات کی تلافی کی یقین دہانی کی گئی ہے، وہ ایک معینہ مدت تک ایک مقررہ رقم قسط وار دوسرے شخص کو ادا کرتا رہے، اگر اس مقررہ مدت کے درمیان اس کی جان و مال و املاک کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا، تو یہ دوسرਾ شخص اس کو اس خطرہ سے بچائے گا اور اس کے نقصان کی تلافی کرے گا اور اس مقررہ مدت میں کوئی خطرے پیش نہ آیا، تو بالاقساط ادا کردہ پوری رقم، سود کے ساتھ واپس کر دی جائے گی، بھر اس قسط وار جمع شدہ رقم پر سود دینا اور خطرات کے لاحق ہونے کی صورت میں نقصانات کی تلافی کرنا، دشوار گزار مرحلہ تھا، اس کو اس طرح حل کیا جاتا ہے کہ اس رقم کو سود پر دیا جاتا ہے اور اس سے حاصل

ہونے والے سو دسے ان ذمے دار بیوں کو پورا کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسورنس ایک ایسا معاملہ ہے، جس کی ابتداء ”قمار“ (جوئے) سے ہوتی ہے اور انہا سود پر، گویا انسورنس قمار اور سود و نوں کا مرکب ہے۔ حقیقت کے لحاظ سے انسورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے، جو بینک کے کاروبار کے مثل ہے، دونوں میں جو فرق ہے وہ شکل کا ہے، حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، حقیقت میں کوئی فرق ہے، تو صرف اتنا کہ اس میں ربا کے ساتھ غریبی پایا جاتا ہے۔

انسورنس کی مختلف صورتیں

اس کے بعد واضح رہے کہ آج انسورنس کی مختلف فرمیں اور صورتیں رائج ہیں اور بنیادی طور پر اس کی تین صورتیں ہیں: ایک زندگی کا انسورنس، دوسراے املاک کا انسورنس اور تیسرے ذمے دار بیوں کا انسورنس، ان تینوں انسورنس کی قسموں میں جو بات مشترک طور پائی جاتی ہے، وہ وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی کہ اس کی ابتداء قمار و جوئے سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام سود پر ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کی بعض صورتوں میں سود ہے اور بعض میں قمار؛ لہذا ہم ان اقسام پر الگ الگ بحث کے بہ جائے اولاً اس کے بارے میں ایک اجمالی بحث کریں گے، پھر بعض جزئیات پر الگ سے کلام کریں گے۔

انسورنس میں سود اور سود کی شرعی تعریف

اب ہم اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ انسورنس کا یہ معاملہ جس کی وضاحت کی گئی ہے، سود اور قمار پر مشتمل ہے؛ مگر بعض لوگ یہ عجیب اور دلچسپ جھگڑا پیدا کرتے ہیں کہ انسورنس کے معاملے میں جس کو انشرست (Interest) کہا جاتا ہے، یہ شرعی سود نہیں ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں جس کو ”سود“ کہا گیا

ہے، وہ اس سے مختلف دوسری چیز ہے۔ وہ یہ کہ خرید و فروخت میں ہم جنس اشیا کو کمی پیشی کے ساتھ لینا دینا، جب کہ وہ مقداری ہوں، سود ہے، قرض میں زیادتی سود نہیں ہے۔ لہذا انسورنس کا معاملہ چوں کہ قرض کی ایک شکل ہے، اس میں زیادتی شرعی ربا نہیں ہے؛ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں جس طرح خرید و فروخت میں سود اور ربا ہوتا ہے اور وہ ناجائز ہے، اسی طرح قرض میں بھی اس کا تحقیق ہوتا ہے؛ بل کہ زمانہ جاہلیت سے ربا کی جو شکل راجح تھی وہ یہی قرض پر زیادتی والی تھی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح معانی الآثار“ میں لکھا ہے:

”إِنَّ ذَلِكَ الرِّبَا إِنَّمَا عَنِي بِهِ رِبَا الْقُرْآنِ الَّذِي كَانَ أَصْلَهُ فِي النِّسِيَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الرِّجُلَ كَانَ يَكُونُ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ الدِّينِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَجْلِنِي مِنْهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا، أَزِيدَ كَهَا فِي دِينِكَ، فَيَكُونُ مُشْتَرِيًّا لِأَجْلِ بِمَالٍ، فَنَهَا هُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ ذَلِكَ بِقُولِهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾“ (۱)

(اس ربا سے مراد قرآن کا رب ہے، جو کہ اصل میں قرض و ادھار میں تھا اور اس کی صورت یہ تھی کہ آدمی کا کسی پر قرض ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے اتنے درہم میں اتنی مدت مزید مہلت دو، میں تمہارے قرض میں اس کو بڑھا کر دوں گا، پس یہ شخص مال کے بدے مدت کا سودا کرتا، لہذا اللہ نے اس آیت سے اس کو منع فرمایا۔)

(۱) شرح معانی الآثار للإمام الطحاوی ۲/ ۱۹۱

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں:

” والربوا الذي عليه عرف الشرع شيئاً: تحريم النساء و التفاضل في العقود و المطعومات على ما نبيه، و غالبه ما كانت العرب تفعله من قولها للغريم : اتقضى ام تربى؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصير الطالب عليه، وهذا كله محرم باتفاق الأئمة.“ (۱)

(اور وہ سود جس پر عرفِ شرع ہے، دو چیزیں ہیں: ایک ادھار کا حرام ہونا اور ایک عقود و معاملات اور کھانے کی چیزوں میں کمی بیشی کرنا، جیسا کہ ہم بیان کریں گے اور زیادہ تر عرب لوگ جو کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ قرض دار سے کہتے: کیا قرض ادا کر دو گے یا سود دو گے؟ پس قرض دار مال کی مقدار بڑھا دیتا اور وہ اسی کا مطالبہ کرتا، لہذا یہ سب کا سبب باتفاق ائمہ حرام ہے)

امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

” اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة و ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، و ذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به أخْ . (۲)

(۱) تفسیر القرطبی ۳۲۸/۳:

(۲) التفسیر الكبير للإمام الرازی ۳۵۱/۲:

(جاننا چاہیے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں: ایک ”ربا النسبیۃ“ (ادھار کا سود) دوسرے ”ربا الفضل“ (زیادتی کا سود)۔ رہا ادھار کا سود تو وہ جاہلیت میں مشہور و معروف تھا اور اس کی صورت یہ تھی کہ وہ کسی کو اس شرط پر مال دیتے تھے کہ وہ ہر ماہ ایک متعینہ مقدار لیں گے اور اصل مال بھی ذمہ میں باقی رہتا، پھر جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا تو وہ قرض دار سے رأس المال کا مطالبہ کرتے، اگر وہ ادائیگی سے معذور ہوتا، تو رقم اور مدت میں زیادتی کر دیتے، پس یہ ہے وہ سود جس کا معاملہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے)

حضراتِ انہم تفسیر و حدیث کے ان اقوال سے بہ صراحت ثابت ہوا کہ جاہلیت کے لوگ جس ربا کا معاملہ کرتے تھے وہ قرض پر زیادتی ہے اور قرآن نے اولاً اسی کو حرام و منوع قرار دیا ہے۔ رہائی و تجارت میں ربا کا معاملہ تو وہ بھی بلاشبہ حرام ہے، مگر زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کو ربانی میں سمجھتے تھے، لہذا جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو بھی ربا کے ساتھ ملحق قرار دیا اور اس کو سختی کے ساتھ روکا ہے۔

غرض یہ کہ قرض پر زیادتی بھی سود ہے؛ بل کہ اصل سود ہے، اس میں شبہ پیدا کرنا، نہایت درجے کی غیر معقول حرکت ہے، جب کہ یہی وہ ربا ہے، جوزمانہ جاہلیت میں متعارف تھا اور اس سے قرآن نے بہ صراحت منع کیا ہے۔ اس تفصیل کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ انسورنس کے معاملہ میں قرض پر جو سود دیا جاتا ہے وہ شرعی سود رہا ہی ہے، جس کا حرام ہونا بہ نص قطعی ثابت ہے۔

ذاتی ضروریات اور کار و باری ضروریات پر سودی قرض

البتہ یہاں ایک اور بحث ہے جس، کو بعض ناخدا ترس لوگوں نے چھیڑا ہے، وہ

یہ کہ ذاتی ضروریات پر سودی قرض اور کاروباری ضروریات پر سودی قرض میں فرق ہے کہ پہلی شکل میں زیادتی تور با ہے اور حرام ہے؛ مگر دوسری شکل میں زیادتی سودا اور ربا میں داخل نہیں۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں جو قرض لیتے تھے، وہ صرف اپنی ذاتی اغراض و ضروریات کے لیے ہوتا تھا اور قرآن نے اسی قرض پر زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور اس زمانے میں کاروباری اغراض اور ضروریات کے لیے قرض لینے دینے اور اس پر سود لینے دینے کا طریقہ راجح نہیں تھا، اور نہ یہ قرآن نے اس کو حرام کیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ عرب میں کاروباری اغراض کے لیے سودی قرض کا رواج نہ تھا، تب بھی اس بات کی قرآن و حدیث میں کیا دلیل ہے کہ شخصی و ذاتی اغراض کے لیے سودی قرض، اور کاروباری اغراض کے لیے سودی قرض میں فرق ہے؟ مذکورہ دلیل سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ سودی قرض کی ایک شکل جاہلیت میں راجح تھی، دوسری راجح نہ تھی؛ مگر یہ تو ثابت نہ ہوا کہ ان میں حکم کے لحاظ سے کوئی جو ہری فرق ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کاروباری ضروریات کے لئے قرض کا رواج عرب میں نہ تھا، تو کیا دنیا کے اور خطوں اور حصوں میں بھی نہ تھا؟

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک میں سرکاری اور کاروباری قرضوں کا رواج تھا؛ بل کہ خود عرب میں بھی کاروباری و تجارتی قرضوں کا رواج تھا، چنانچہ یہاں اس کے چند حوالے پیش کیے جاتے ہیں:

(۱) بخاری میں حضرت زبیر بن العوام رض کے بارے میں موجود ہے کہ ان کے پاس لوگ امانت رکھنے والے تھے، تو وہ کہتے کہ نہیں؛ بل کہ تم مجھے یہ قرض دے

دو، پھر اس کو تجارت میں لگاتے تھے۔

بخاری میں حضرت عبد اللہ بن زیر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ حضرت زیر رضی اللہ عنہ کے متعلق موجود ہیں:

”إِنَّمَا كَانَ دِينَهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ، فَيَقُولُ الزَّبِيرُ: لَا وَلَكُنْهُ سَلْفٌ، إِنَّمَا خَشِيَ عَلَيْهِ الضَّيْعَةُ.“ (۱)

اس میں حضرت زیر رضی اللہ عنہ کا قرض لینا مذکور ہے؛ مگر یہ کہ قرض کیوں لیتے تھے؟ اس کا ذکر بیہاں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ میں فرماتے ہیں:

”وَكَانَ غَرْضُهُ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْشِيُ عَلَى الْمَالِ أَنْ يَضِيعَ، فَيَظْنُنَ بِهِ التَّقصِيرَ فِي حَفْظِهِ فَرَأَى أَنْ يَجْعَلَهُ مَضْمُونًا فَيَكُونُ أَوْثُقَ لِصَاحِبِ الْمَالِ وَأَبْقَى لِمَرْوَتِهِ، زَادَ أَبْنَى بَطَالًا: وَلِيَطِيبَ رَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالِ.“ (۲)

(اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ وہ مال کے ضائع ہونے کا خطرہ محسوس کرتے تھے، جس سے کوئی ان کے بارے میں یہ گمان کر سکتا تھا کہ حفاظت میں کوتاہی کی ہے؛ اس لیے چاہا کہ اس مال کو واجب الادا قرار دے دیں تاکہ وہ مال والے کے لیے زیادہ وثوق کا سبب بنے اور خود کی مرتوت بھی لوگوں کی نظر میں باقی رہے، ابن بطال نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کہتا کہ اس مال کا نفع آپ کے لیے حلال ہو سکے۔)

اس میں ابن بطال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلف (قرض) کا ایک

(۱) البخاری (كتاب الجهاد، باب فرض الخمس): ۲۸۹

(۲) فتح الباری: ۶/ ۲۳۰

مقصد تجارت بھی تھی، جس سے نفع کمایا جاتا تھا اور آپ اسی لیے امانت کے بہ جائے اس مال کو قرض کی شکل میں لیتے تھے کہ اس سے نفع کمایا جائے۔

(۲) اس دلیل سے زیادہ صریح یہ ہے کہ امام مالک نے ”موطا“ میں نقل کیا ہے:

حضرت عبد اللہ و عبید اللہ رضی اللہ عنہما ایک موقع پر ”بصرہ“ گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ جو اس وقت وہاں کے امیر تھے، ان سے ملاقات کی، تو حضرت ابو موسیؑ نے فرمایا کہ میں تم کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مجھ سے بیت المال کا قرض لے لو اور اس سے بغرض تجارت کچھ مال خرید لو اور مدینہ پہنچ کر اسے فروخت کر کے نفع اٹھا لو اور اصل مال بیت المال میں داخل کر دینا، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ (۱)

دیکھیے کس قدر صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کی غرض سے قرض لینے کا رواج تھا۔

(۳) ”روح المعانی“ میں ہے:

بعض قبیلے، دوسرے قبیلوں سے قرض سود پر لیا کرتے تھے، چنانچہ آیت ﴿يَا يَهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْوَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ۲۷۸] کے تحت لکھتے ہیں:

”نزلت في العباس بن عبدالمطلب و رجل من بنى مغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بنى عمرة وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في بنى عمرو بن عمير بن عوف الشفقي، و مسعود بن عمرو بن عبد ياليل بن عمرو،

(۱) مؤطا للإمام مالك، (كتاب القرض): ۲۸۵

وربیعة بن عمرو، وحبيب بن عمرو، وكلاهم اخوة وهم
الطالبون، والمطلوبون بنو المغيرة من بني مخزوم و كانوا
يداينون بنو المغيرة في الجاهلية بالربا .” (۱)

(یہ آیت عباس بن عبدالمطلب اور ”قبیلہ بنو مغیرہ“ کے ایک آدمی
کے بارے میں نازل ہوئی، جو زمانہ جاہلیت میں شریک کاروبار تھے
اور ”بنو عمرہ“ کی شاخ بنو ثقیف کے لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے،
اور ابن ابی حاتم نے حضرت مقاتل سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ”بنو
عمرو بن عمیر بن عوف ثقیفی“ اور مسعود بن عمرو بن یا لیل بن عمر و اور ربیعہ
بن عمر و اور حبیب بن عمر کے بارے میں اتری ہے، یہ سب بھائی تھے
اور یہ قرض خواہ تھے اور ”بنو مخزوم“ کی شاخ ”بنو مغیرہ“ ان کی مقر و قرض تھی،
وہ لوگ ”بنو مغیرہ“ کو سود پر زمانہ جاہلیت میں قرض دیا کرتے تھے۔)

یہ دونوں قبیلے جاہلی دور کے دو مال دار قبیلے تھے اور تجارت کے میدان میں
بہت آگے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ قبیلہ کا قبیلہ سے قرض لینا شخصی ضروریات کے لیے ہو
نہیں سکتا، لامحالہ یہ قرض کاروباری ضروریات کے لیے لیا جاتا تھا۔

اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں تجارت کا بھی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

”هذا حکم من الله لمن أسلم من كفار قريش و ثقيف

ومن كان يتجر هنالك.“ (۲)

الغرض یہ بات کہ شخصی قرضوں پر سود حرام نہیں، غلط اور غیر معقول بات ہے، نہ فقه
کے اصول اس کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ تاریخ ہی سے اس کی تاسید ہوتی ہے؛ بل کہ

(۱) روح المعانی: ۳/۵۲-۵۳

(۲) تفسیر قرطبی: ۳/۳۶۱

جیسا کہ گز رات تاریخ اس کے خلاف شواہد پیش کرتی ہے۔

انشورنس میں دو طرح کا سودی معاملہ ہے

پھر انشورنس میں سودی معاملہ دو طرح کا ہے: ایک تو انشورنس کمپنی انشورنس کے طالب سے رقم وصول کر کے دوسرے حاجت مندوں کو سود پر قرض دیتی ہے؛ لہذا یہ طالب، انشورنس کمپنی کا سودی کاروبار میں معاون ہوگا اور سودی کاروبار کے تعاون کا حرام ہونا محتاج بیان نہیں۔

حدیث میں حضرت جابر رض سے روایت ہے:

«لعن رسول الله ﷺ نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر

وشا هدیہ و قال هم سواء «

(رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی حساب لکھنے والے اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔) (۱)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم نے اس حدیث پر لکھا ہے:

”فِيهِ تحرِيمُ الاعانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ.“ (۲)

(اس حدیث میں باطل کاموں پر مدد و تعاون کا حرام ہونا مذکور ہے۔)

دوسرے یہ کہ انشورنس کمپنی ان طالبین کو ان کی جمع کردہ رقم پر پالیسی کے مطابق سود دیتی ہے اور یہ صریح حرام ہے جیسا کہ مذکور ہوا۔

(۱) مسلم: ۲/۲

(۲) شرح مسلم للنووی: ۲/۲۸

انشورنس میں قمار اور قمار کی تعریف

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، ان سورنس کی ابتداء قمار (جوئے) سے ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بیسہ شدہ شخص یا شی، وقت معین سے پہلے تلف ہو جائے تو اتنی رقم ملے گی اور اس وقت کے بعد تلف ہو تو اتنی، جب کہ تلف ہونے کا وقت متعین نہیں اور نہ ہو سکتا ہے اور اسلام میں جس کو قمار (جوا) کہا گیا ہے، اس کی حقیقت بس یہ ہے کہ نفع و نقصان کو غیر معین و نامعلوم بات پر متعلق و موقوف کیا جائے کہ اگر وہ واقع ہو جائے تو نفع ہو اور اگر واقع نہ ہو تو نقصان۔

علامہ ابن نجیم المصری اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

”لأن القمار من القمر الذي يزداد تارةً وينقص أخرى،
وسُمِّيَ القمار قماراً لأنَّ كُلَّ واحدٍ من المقامرين ممن
يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال
صاحبٍ وهو حرام بالنص.“ (۱)

(کیوں کہ قمار ”قمر“ سے ماخوذ ہے جو کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے، اور قمار کو قمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اکھلنے والوں میں سے ہر ایک ممکن ہے کہ اس کا مال دوسرے کے پاس چلا جائے اور یہ بھی امکان ہے کہ دوسرے کا مال یہ ہڑپ لے اور یہ نص سے حرام ہے۔)

اور ”التعريفات الفقهية“ کے مؤلف علامہ عیمیم الاحسان رحمہم اللہ صاحب فرماتے ہیں:

”القمار مصدر ”قامر“ هو كل لعب يشرط فيه غالباً أن

(۱) البحر الرائق: ۵۵۲/۸، رد المحتار للشامی: ۳۰۳/۲

يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب، واصله ان يأخذ الواحد من صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب، ثم عرفوه بانه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبيين۔ (۱)

(تمار: ”قامو“ کا مصدر ہے اور وہ ہر ایسا کھیل ہے، جس میں اکثر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جو جیتے گا وہ ہارنے والے سے کچھ لے گا اور اس میں اصل یہ ہے کہ کھیل میں اپنے ساتھی سے تھوڑا تھوڑا کر کے لے، پھر علما نے اس کی تعریف یہ کی کہ قمار ملک کو کسی خطرے پر معلق کرنا ہے جب کہ مال دونوں طرف ہو۔)

غرض یہ کہ انسورنس میں جو یہ شرط ہوتی ہے کہ فلاں شخص (جس کی زندگی کا بیمه ہوا ہے) یا فلاں شئی (جس کا بیمه ہوا ہے) اگر مقررہ مدت کے اندر مرے یا ہلاک ہو جائے تو اتنی رقم ملے گی، یعنی نفع ہوگا اور اگر اس مدت کے بعد مرے یا ہلاک ہو، تو اتنی رقم ملے گی یعنی پہلے کی بہ نسبت نقصان ہوگا، یہ ایسی شرط ہے جس کا وجود و عدم غیر معین و مبہم ہے، اور ایسی شرط پر معاملہ کو دائر کرنا ناصر صحیح قمار ہے۔

حدیث میں اسی بنابر ”رقبی“ کی ممانعت آتی ہے، ”ابوداؤد و نسائی“ میں ہے:

«عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابَتَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُرْقِبُوا.» (۲)

(رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ”رقبی“ نہ کرو۔)

اور ”رقبی“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یوں کہے کہ اگر تو پہلے مر جائے

(۱) البحر الرائق: ۵۵۸/۸، رد المحتار للشامی: ۶/۳۰۳

(۲) أبو داود: ۲۷۳۰، النسائي: ۱/۷۶۳

تو یہ مکان میرا ہے اور اگر میں پہلے مر جاؤں تو تیرا ہے۔ (۱)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور کوفین (امام ابو حنفیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ) کی جانب سے اس کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں:

”لَمْ يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَقْصِدُ إِلَيْهِ عَوْضًا لَا يَدْرِي هُلْ
يَحْصُلُ لَهُ، وَيَتَمَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَوْتَ صَاحِبِهِ۔“ (۲)

ایک شبہ کا جواب

یہاں یہ ممکن ہے کہ یہ شبہ پیدا ہو کہ ”رقی“ اگر قمار پر مشتمل ہے، تو اس کو تمام ائمہ نے حرام کیوں نہیں قرار دیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے جواز کے قائل ہیں، یا خود قمار میں کوئی گنجائش ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جن ائمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، انہوں نے اس کی تفسیر وہی کی ہے جو اپر مذکور ہوئی کہ ملک کو موت پر معلق رکھا گیا ہوا اور جن حضرات نے اس کو جائز کہا ہے، وہ ”رقی“ کی مذکورہ تعریف و صورت ہی کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ”رقی“ کی صورت یہ ہے کہ کسی کو ہبہ کر دیا جائے اور ساتھ یہ شرط کی جائے کہ اگر تو پہلے مرا تو یہ مکان مجھے واپس مل جائے؛ ورنہ نہیں۔ اس صورت میں ملک کو موت پر معلق نہیں رکھا گیا ہے، بل کہ واپسی کو موت پر معلق رکھا گیا ہے۔ یہ ہبہ بہ شرط فاسد ہے۔

علامہ خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شریعت احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں ہے:

”قد اختلف فيه أى في الرقبي ائمتنا الثلاثة، فمن

(۱) بذل المجهود: ۵/۳۰۱، تفسیر القرطبی: ۱/۲۹۹

(۲) تفسیر القرطبی: ۱/۲۹۹

جوزہا أراد بالرقبی الهبة بشرط أن ترجع إلى الواهب
لومات الموهوب له قبله، ومن أبطلها فسرها بتعليق
التمليك على الموت السابق من أيهما، كأن يقول له :
إن مت قبلى فهو لي وإن مت قبلك فهو لك ، وهو باطل
لا محالة لأن تعليق التملك على شرط هو على خطر
الوجود قمار، فكان الخلاف لفظياً مبنياً على اختلاف
تفسير الرقبى .” (۱)

(ہمارے انہمہ ثلاثہ نے ”رقبی“ کے جواز میں اختلاف کیا ہے، پس جنہوں نے جائز کہا ہے، انہوں نے ”رقبی“ سے وہ بہہ مراد لیا ہے، جو موہوب لہ کے پہلے مرجانے پر واهب کو واپس مل جانے کی شرط پر ہوا اور جنہوں نے اس کو باطل کہا ہے، انہوں نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ملک کا پہلے واقع ہونے والی موت پر معلق کرنا چاہے، جس کی بھی ان دونوں (دینے اور لینے والوں) میں سے پہلے ہو جائے، مثلًا یوں کہے کہ اگر تو مجھ سے پہلے مرجائے تو یہ میرا ہے اور اگر میں تجھ سے پہلے مرجاوں تو وہ تیرا ہے اور یہ لا محالہ باطل ہے؛ کیوں کہ ملک کو ایسی شرط پر معلق کرنا جو خطرہ میں ہو، وہ قمار ہے، الہذا یہ اختلاف لفظی ہے، جو ”رقبی“ کی تفسیر کے اختلاف پر منی ہے)

حاصل یہ کہ قمار کا حرام ہونا اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔
ہاں ”رقبی“ کی صورت و تعریف میں اختلاف ہے، جنہوں نے اس کو قمار کی شکل

(۱) بذل المجهود: ۳۰۱/۵

دی وہ ناجائز قرار دیتے ہیں اور جنہوں نے دوسری صورت دی وہ جواز کے قائل ہیں۔ بہ ہر حال انشورنس میں چوں کہ تمار صاف طور پر موجود ہے، اس لیے یہ ناجائز ہو گا۔

انشورنس کے مصالح اور حکم شرعی میں ترمیم کا مسئلہ

اب رہایہ سوال کہ انشورنس کے معاملے میں بڑی مصلحتیں ہیں؛ لہذا ان مصالح کے پیش نظر کیا اس کی اجازت ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصالح کا اعتبار وہاں کیا جاتا ہے جہاں مقاصدِ شریعت فوت نہ ہوتے ہوں اور جہاں مقاصدِ شریعت فوت ہوتے ہوں، وہاں مصالح کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، پھر مصالح کے اعتبار کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں حکم منصوص نہ ہو اور یہاں ایک تو حکم منصوص ہے اور وہ ہے سود کا حرام ہونا، اسی طرح قمار کا حرام ہونا، دوسرے ان مصالح کے اعتبار کرنے سے مقاصدِ شریعت (جو سود کی حرمت سے متعلق ہیں) فوت ہو جاتے ہیں، لہذا ان مصالح کا اعتبار کر کے انشورنس کے جواز کا فتویٰ کسی طرح نہیں دیا جاسکتا۔

پھر وہ مصالح جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی تحصیل کچھ اسی معاملے پر منحصر نہیں ہے کہ اس میں جواز تلاش کیا جائے؛ بل کہ شریعت نے ان مصالح کی تحصیل کے لیے دوسری صورتیں تجویز فرمائی ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر آئے گا۔

انشورنس میں مفاسد

پھر مصالح پر نظر کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے مفاسد پر بھی نظر کریں؛ کیوں کہ اگر صرف مصالح کو دیکھا جائے تو بلاشبہ ہر اچھی اور بری چیز میں کچھ نہ کچھ مصالح نظر آئیں گے، حتیٰ کہ قرآن نے شراب اور جوئے میں بھی منافع و مصالح کا ہونا تسلیم کیا ہے، چنان چہ فرمایا ہے:

يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

[البقرة: ٢١٩] وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

مگر منافع و مصالح کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کو حلال اس لیے نہیں قرار دیا گیا کہ اس میں مفاسد بھی ہیں اور انہی مفاسد کی طرف **إِثْمٌ كَبِيرٌ** کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

اور **إِثْمٌ** کا بہ معنی مفسدہ ہو ناتج ہے، جیسا کہ ”روح المعانی“ میں ہے:

”الإِثْمُ بِمَعْنَى الْمُفْسَدَةِ فِي قَوْلِ .“ (۱)

الغرض اس سے معلوم ہوا ہے کہ صرف مصالح پر نظر کرنا کافی نہیں؛ بل کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کچھ مفاسد بھی ہیں یا نہیں؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں بڑے مفاسد بھی ہیں۔ مثلاً بیمه اور انسورنس کی رقم وصول کرنے کے لیے وارث نے بیمه دار کو قتل کر دیا، یہ کتنا بڑا مفسدہ ہے۔

غور کیجئے کہ اس سے پیدا ہونے والے مفاسد صرف جان یا مال سے متعلق نہیں ہیں؛ بل کہ روح سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مثلاً: دشمنی، حسد و بغض، جھوٹ، مکروہ فریب وغیرہ۔ ان روحانی مفاسد کے ہوتے ہوئے انسورنس کے مصالح کے پیش نظر اس کے جواز کا فتوی نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام میں جانی و مالی مصالح سے زیادہ، روحانی مصالح قابل اعتنا ہوا کرتے ہیں۔

انسورنس کی مختلف صورتوں میں فرق ہے یا نہیں؟

اس پر میں نے پہلے ہی روشنی ڈالی ہے کہ انسورنس کی مختلف صورتیں ہیں؛ مگر ان میں سے بیشتر صورتوں میں حکم کے لحاظ سے کوئی جو ہری فرق نہیں؛ کیوں کہ ان میں سے

کسی صورت و شکل میں سود پایا جاتا ہے، تو کسی میں قمار پایا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں دونوں پائے جاتے ہیں، لہذا یہ شکل و صورت کا تفاوت و فرق ہے، معاملے کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ بعض صورتیں دائرہ جواز میں داخل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ بحث آرہی ہے۔

انشورنس کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، زیادہ معروف و راجح صورتیں یہ ہیں:

(۱) زندگی کا انشورنس جس کو (LIFE INSURANCE) کہا جاتا ہے۔

(۲) املاک کا انشورنس۔ (۳) ذمہ دار یوں کا انشورنس۔ (۴) مڈیکل

انشورنس وغیرہ۔ لہذا یہاں ان پر مختصر کلام کیا جاتا ہے۔

(۱) لائف انشورنس کا حکم

لائف انشورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بیمه کرنے والے کا بیمه کمپنی کی جانب سے میڈیکل معاونہ کرایا جاتا ہے اور اس کی رپورٹ کے مطابق اس شخص پر اگر کوئی حادثہ اور ناگہانی آفت نہ آئی، تو مثال کے طور پر تمیں سال یا بیس سال زندہ رہ سکتا ہے، تو کمپنی اتنے سال کے لیے اپنی شرائط کے مطابق لائف انشورنس کر لیتی ہے اور اس شخص کو ہر ماہ ایک متعینہ رقم کمپنی میں بھرتے رہنا پڑتا ہے، پس اگر وہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیس یا تیس سال پر مر جاتا ہے یا مدت مذکورہ سے پہلے مر جاتا ہے تو اس کی جمع شدہ رقم مع سودا اس کے وارثین کو دے دی جاتی ہے اور اگر اس مدت میں اس کی موت واقع نہ ہوئی، تو خود اسی کو وہ رقم مع سودا مل جاتی ہے۔

اس کا حکم واضح ہے کہ یہ ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس میں ایک تو سودی معاملہ ہے اور دوسرے جو اور قمار بھی ہے اور۔ جیسا کہ عرض کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں سخت حرام و ناجائز ہیں؛ اس لیے جو معاملہ ان دونوں سے مرکب ہو، وہ بدرجہ اولیٰ

حرام و ناجائز ہے۔

ہندوستان کے موجودہ حالات میں لاکف انسورنس

مگر یہاں بعض حضرات نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں، جہاں آئے دن فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ رہتا ہے اور مسلمانوں کی جانیں اور املاک بالکل محفوظ نہیں رہتیں؛ بل کہ بسا اوقات مسلمانوں کی بستیوں کی بستیاں تباہ و ہلاک کر دی جاتی ہیں، کیا اس کی گنجائش ہے کہ محض اپنی جان کی حفاظت کی خاطر لاکف انسورنس کرایا جائے؟

اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں؛ کیوں کہ:

(۱) کسی عام حادثے میں مارے جانے میں اور فرقہ واریت میں مارے جانے میں کوئی فرق نہیں؛ اگر ایک شخص اس لئے انسورنس کرتا ہے کہ کسی عام حادثے میں مارے جانے کی وجہ سے مصائب پیش آتے ہیں، تو اس کا ناجائز ہونا مسلم ہے، تو اگر کوئی اس لیے انسورنس کرتا ہے کہ فرقہ واریت میں مارے جانے سے مصائب کا سامنا ہوگا، تو اس کے جائز ہونے کی کیا علت ہے؟ اور آخران دونوں میں بنیادی اور جو ہری طور پر کیا فرق ہے؟

(۲) دوسرے اس سلسلے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ لاکف انسورنس کرانے سے حکومت ہماری جانوں کی ذمے دار ہو جاتی ہے اور فسادات کی صورت میں حفاظت کا چست نظام بنائ کر فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے، یہ محض ایک خام خیالی ہے؛ کیوں کہ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فرقہ واریت میں ہونے والے حوادث کی انسورنس کمپنی ذمے دار نہیں ہوتی۔

(۳) تیرے یہ کہ کیا انسورنس کرانے کی صورت ہی میں حکومت ہماری جان و مال کی حفاظت کی ذمے دار ہے؟ کیا اس کے بغیر وہ اس کی ذمے دار نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ کیوں حفاظت نہیں کرتی؟ اور اگر ذمے دار ہونے کے باوجود وہ اس میں کوتا ہی کرتی ہے تو کیا یقین ہے کہ انسورنس جیسی حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ اپنی ذمے داری کو پوری کرے گی؟

(۲) اگر ان حالات کی وجہ سے انسورنس کو جائز قرار دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جواز صرف ان حالات کے زمانے میں ہو گایا ہر زمانے میں؟ اگر اس کا زمانہ محدود ہو گا تو اس کی حد کیا ہو گی؟ کیوں کہ حالات تو ہر وقت یکساں نہیں رہتے، جس طرح عافیت کے حالات یکساں نہیں ہوتے اسی طرح فسادات کے حالات بھی یکساں نہیں ہوتے، تو یہ جواز کب تک کے لیے ہو گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا متعین کرنا ایک معذراً مر ہے اس لیے یہ متعین تو کیا نہ جاسکے گا، لامحالہ اس کو غیر محدود طور پر جائز کہنا پڑے گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، تو کیا اس کی کوئی اہل علم و دین اجازت دے سکتا ہے؟

الغرض لائف انسورنس کی گنجائش دینا بلا وجہ ایک حرام کو حلal کرنے کے مترادف ہے اور اس میں کوئی مصلحت نہیں؛ بل کہ سراسر مفاسد ہیں، لہذا یہ سوال خارج از بحث ہے۔

(۲) املاک کا انسورنس

املاک و اشیا کے انسورنس میں یہ ہوتا ہے کہ طالب انسورنس ایک مقررہ مدت مثلاً تین ماہ یا چھ ماہ یا سال بھر کے لیے انسورنس کمپنی کے شرائط و ضوابط کے مطابق،

ایک متعینہ رقم جمع کرتا رہے گا اور اس طے شدہ مدت کے درمیان اگر وہ املاک کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو انسورنس کمپنی اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہے اور اگر اس مدت میں اس املاک پر کوئی حادثہ نہیں پیش آیا، تو وہ جمع شدہ رقم کمپنی والپس نہیں کرتی؛ بلکہ خود رکھ لیتی ہے۔

اس صورت کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگرچہ کہ سو نہیں آتا؛ کیوں کہ کمپنی کوئی رقم والپس نہیں کرتی، لیکن اس صورت میں قمار پایا جاتا ہے؛ کیوں کہ املاک کو نقصان پہنچنے اور نہ پہنچنے دونوں کا امکان ہے، اگر نقصان ہوا اور کمپنی نے اس کی تلافی کی تو فائدہ ہو گیا اور اگر نقصان ہی نہ ہوا اور تلافی کی نوبت ہی نہ آئی تو بیمه کرانے والے کا نقصان ہوا، اس طرح یہ معاملہ نفع و نقصان کے درمیان دائر ہونے کی وجہ سے قمار میں داخل ہے۔ علامہ ابن نجیم اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ:

”لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة و ينقص أخرى
و سمي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن
يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه و يجوز أن يستفيد مال
صاحب وهو حرام بالنص .“ (۱)

بعض علماء کی غلط فہمی

اس مسئلے میں بعض علماء کو علامہ شامی کی ایک عبارت سے دھوکہ لگا ہے اور انہوں نے املاک کے بیمه کی ایک تاویل سے اجازت دی ہے، چنانچہ مفتی شیر احمد صاحب (مفتی دارالافتخار، مدرسہ شاہی، مراد آباد) نے کہا:

(۱) البحر الرائق: ۵۵۲/۸، الشامی: ۳۰۳

”املاک کے بیمه میں سو نہیں ملتا، البتہ اس میں قمار پایا جاتا ہے؛ مگر سعین حالات میں عارضی طور پر ”الضرورات تبیح المحظورات“ وغیرہ قواعد کے تحت اس کی گنجائش دی جاسکتی ہے اور نقصانات کی تلافی کے نام سے بیمه کمپنی جو رقم دیتی ہے، وہ امداد و اعانت کے درجے میں ہو گی اور اگر بیمه شدہ اموال و املاک کی حفاظت کی ذمے داری کمپنی اپنے اوپر لیتی ہے، تو قمار کا شائبہ بھی باقی نہیں رہے گا اور جمع شدہ رقم اجرت کے حکم میں ہو جائے گی اور نقصانات کی تلافی کی رقم ضمانت و تاوان کے درجے میں ہو کر جائز ہو جائے گی۔“ (۱)

اور اس پر علامہ شامی کی ایک عبارت سے استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ہے: ”وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ السُّوكَرَةِ هُوَ صَاحِبُ الْمَرْكَبِ يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرِكًا (إِلَى قَوْلِهِ) وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ مَخْوْفًا وَأُخْذَ مَالُكَ فَأَنَا ضَامِنٌ ضَمْنَ.“ (۲)

(خلاصہ ترجمہ): اور اگر بیمه کمپنی از خود مال پہنچانے کی ذمے دار ہے، تو وہ اجير مشترک ہو گا (شامی کا قول) اگر خوف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں گا تو ضامن ہو جائے گا۔

مگر احرقر کو اس میں کلام ہے، جہاں تک مسئلہ ہے ضرورت شدیدہ کا، تو اس میں اگر واقعی ضرورت کا تحقیق ہو جائے، تو بے شک فقہی قواعد کی روشنی میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؛ مگر اصل سوال تحقیق کا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ عارضی گنجائش کب

(۱) الیضاح النواہر: ۳۳۱-۳۳۵، از مفتی شیبیر احمد صاحب قاسمی

(۲) الشامی: ۱۷۰/۲

تک ہوگی؟ اس کے حدود کیا ہوں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ کرنا آسان نہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کمپنی خود مال کی حفاظت کی ذمے دار ہو، تو جمع شدہ رقم اجرت مان لی جائے گی اور جو اس سے زائد نقصان کی تلاش میں لگا ہے، اس کو تاوان و ضمانت قرار دیا جائے گا، اس میں سے پہلی بات تو صحیح ہے، مگر دوسری بات صحیح نہیں اور نہ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے؛ بل کہ انھوں نے ایک اشکال کے ضمن میں لکھا ہے اور آگے چل کر اس کی تردید کر دی ہے، ان کے کلام کا حاصل یہ ہے:

”علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً بیمہ کی صورت کو جوان کے زمانے میں ”سوکرہ“ کے نام سے جاری تھی، ناجائز قرار دیا، پھر اس پر ایک اشکال کیا کہ جس کے پاس ودیعت رکھی جائے، وہ اگر اس پر اجرت لے تو ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان آئے گا، اسی طرح بیمہ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کمپنی جب اجرت لیتی ہے تو ہلاکت کی صورت میں اس پر ضمان آئے گا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

”اگر صاحب السوکرہ (کمپنی) ہی اموال کی حفاظت کی ذمے دار ہو، تو جمع شدہ رقم کو اجرت قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ کمپنی ”اجیر مشترک“ ہو گی؛ لیکن اجیر مشترک ان چیزوں کا ضامن نہیں ہوتا، جس سے بچنا ممکن نہ ہو، جیسے موت، غرق وغیرہ۔“

اس کے بعد پھر ایک سوال قائم کیا کہ ”باب کفالة الرجلین“ میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اس راستے سے جاؤ، یہ راستہ مأمون ہے اور وہ شخص اس راستے سے گیا اور اس کا مال پکڑ لیا گیا، تو یہ کہنے والا ضامن نہ ہو گا اور اگر اس نے کہا کہ ”اگر یہ راستہ خوف ناک ہوا اور تیرا مال پکڑ لیا گیا، تو میں اس کا

ضامن ہوں، تو یہ شخص ضامن ہوگا اور شارح نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس صورت میں اس دھوکہ دینے والے نے صاف طور پر راستے کے سلامت رہنے کی ضمانت لی ہے؛ اس لیے اس پر ضمان آئے گا، بخلاف پہلی صورت کے کہ اس میں ”میں ضامن ہوں گا“ کہہ کر اس نے ضمانت نہیں لی ہے، اور ”جامع الفصولین“ میں لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والا دھوکہ دینے والے سے ضمان اس وقت لے سکتا ہے، جب کہ دھوکہ آپسی لین دین میں ہو یا دھوکہ دینے والے نے سلامت رہنے کی ضمانت دی ہو، اس کی نظیری یہ ہے جیسے طحان (چکی پیسے والے) نے گیہوں والے سے کہا کہ گیہوں ڈول میں ڈال دو، اس نے ڈال دیا اور وہ گیہوں سوراخ سے نکل کر پانی میں چلے گئے، جب کہ طحان کو اس سوراخ کا علم بھی تھا تو یہ اس کا ضامن ہوگا؛ کیوں کہ اس نے معاملے میں دھوکہ دیا ہے جب کہ وہ سلامتی کا تقاضا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ان صورتوں میں ضمان آتا ہے اسی طرح یہ میہ کی صورت میں بھی ضمان لاگو کیا جاسکتا ہے۔

اس اشکال کا جواب علامہ شامی نے یہ دیا ہے کہ دھوکہ والی صورت میں یہ ضروری ہے کہ دھوکہ دینے والا تو پیش آنے والے خطرہ سے آگاہ ہو، جیسا کہ طحان والا مسئلہ دلالت کرتا ہے اور دھوکہ کھانے والے کو اس کا علم نہ ہو۔

اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کمپنی کے مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ مخفی نہیں کہ کمپنی دھوکہ دینے کا نہ ارادہ رکھتی ہے اور نہ غرق کا خطرہ پیش آنے سے پہلے اس کو اس کا علم ہوتا ہے اور رہاچوروں اور ڈاکووں کا خطرہ، تو وہ تو سب کو معلوم ہے، کمپنی کو بھی اور یہ داروں کو بھی، لہذا یہ مسئلہ ہمارے مسئلہ سے متعلق نہیں ہے۔^(۱)

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ علامہ شامی اس عبارت میں کمپنی پر

(۱) الشامی: ۱۷۰/۲-۱۷۱

ضمان کو نادرست قرار دینا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ سمجھ لیا گیا ہے۔

نیز اس سلسلے میں مولانا کو ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ علامہ شامی کی عبارت میں جوبات بے طور اشکال آئی ہے، اس کو علامہ شامی کا ”فتوى“ سمجھ لیا ہے، حال آں کہ خود شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کر دی ہے اور پھر اس عبارت میں ”وَإِنْ كَانَ مَخْوْفًا لَّهُ“ جو آیا ہے اس کا ترجمہ یا خلاصہ اس طرح کیا گیا ہے، ”اگر خوف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اخْ“ یہ ترجمہ و مطلب بھی غلط ہے؛ کیوں کہ یہ ”مَخْوْفًا“ کسی کا حال نہیں؛ بل کہ یہ ”كَانَ“ کی خبر ہے اور یہ پورا جملہ ”قَالَ“ کا مقولہ ہے، یعنی ”اگر وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ“ اگر یہ راستہ خوف ناک ہو اور تیرا مال کپڑا لیا گیا تو اخْ، ”كَمَا لَا يَخْفِي عَلَى مَنْ أَعْنَنَ النَّظَرَ“۔

(۳) ذمے دار یوں کا انسورنس

ذمے داری کے انسورنس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم، شادی بیاہ وغیرہ کی خاطر بچوں کے نام سے ان کے ذمے دار: مثلاً ماں باپ وغیرہ ایک متعینہ مدت کے لیے رقم جمع کرتے ہیں اور اس پر کمپنی تعلیم یا شادی وغیرہ کی ذمے داری لیتی ہے اور اس متعینہ مدت کے بعد کمپنی اپنی اس ذمے داری کو پورا کر دیتی ہے اور اگر جمع کرنے والوں نے درمیان میں جمع کرنا چھوڑ دیا، تو کمپنی جمع شدہ رقم واپس نہیں کرتی۔

ظاہر ہے کہ اس صورت میں سود بھی ہے اور قمار بھی؛ اس لیے یہ صورت قطعی حرام و ناجائز ہے، سو داس لیے کہ اس میں مدت پوری کرنے کے بعد مقررہ رقم ملتی ہے، جو جمع شدہ رقم سے زائد ہوتی ہے اور لوگ اسی کے لائق میں ذمے دار یوں کا بیسہ کراتے ہیں اور قمار اس لیے کہ اس میں رقم مدت مقررہ تک جمع کی تو زائد ملتی ہے اور

اگر خدا نخواستہ مدت مقررہ تک رقم جمع نہ کی گئی، تو جو جمع کی ہے وہ بھی سوخت ہو جاتی ہے، لہذا یہ صورت بھی ناجائز و حرام ہے۔

(۲) میڈیکل انسورنس

ذمے داریوں کے انسورنس ہی کے ضمن میں ”میڈیکل انسورنس اسکیم“، بھی آتی ہے، جو آج کے دور میں وسیع پیانے پر پھیل رہی ہے، بالخصوص اس لیے کہ آج کے دور میں بیماریوں کی کثرت و تنوع اور ان کی پیچیدہ صورت حال لوگوں کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجے کی نئی نئی صورتوں اور طریقوں اور تشخیص امراض کے جدید آلات و مشینوں نے علاج کو بے حد مہنگا کر دیا ہے اور متوسط طبقے کے لیے اس کا تحمل تقریباً ناقابل تصور ہوتا جا رہا ہے، اس صورتِ حال نے ”میڈیکل انسورنس اسکیم“ کو فروغ دینے میں بڑی مدد کی ہے۔

میڈیکل انسورنس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک سال کی مدت کے لیے طے شدہ ایک رقم پالیسی ہولڈر کو جمع کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسورنس کمپنی اس سال کے درمیان لاحق ہونے والے بیماری کے علاج کی ذمے داری لیتی ہے اور اس کے لیے ایک بڑی رقم دیتی ہے جو معاملہ کے وقت ہی طے کر دی جاتی ہے اور اگر وہ شخص اس سال بیمار نہ ہوا، تو اس کی جمع شدہ رقم اس کو واپس نہیں کی جاتی۔

اس انسورنس کا حکم بھی واضح ہے اور اس پر بیان کردہ تفصیل کی روشنی میں اس کا جواب یہی ہے کہ یہ حرام و ناجائز ہے؛ کیوں کہ اس میں سود و قمار کی ساری لعنتیں موجود ہیں؛ کیوں کہ اس میں ایک امکانی؛ بل کہ متوجه بیماری پر معاملہ کیا جاتا ہے، جو اگر پیش آجائے تو پالیسی ہولڈر لاکھوں حاصل کر لے گا اور اگر نہ پیش آئے، تو جو رقم جمع کی تھی، وہ بھی سوخت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ خالص قمار ہے اور جو رقم جمع شدہ رقم

پر زیادہ ملے گی وہ سود بھی ہے، اس طرح یہ معاملہ سود و قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بلاشبہ حرام ہے۔

بعض علمانے اس پر کماحت غور نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جواز کی طرف اپنے رہجان کا اظہار کیا ہے اور اس کو تعاون کی ایک شکل قرار دیا ہے؛ مگر سوال یہ ہے کہ تعاون کی یہ شکل سود و قمار ہونے کے باوجود جائز کس طرح ہو سکتی ہے؟

البتہ وہ ممالک جہاں میڈیکل انشورنس قانوناً لاگو ہے اور وہاں کے شہریوں یا واردین و صادرین کے لیے لازم کر دیا گیا ہے، وہاں مجبوری کی وجہ سے میڈیکل انشورنس کرانے کی اجازت ہوگی؛ اس لیے نہیں کہ یہ جائز ہے؛ بل کہ اس لیے کہ وہ مجبور ہیں اور اس سے بچنا بس میں نہیں؛ لیکن اس سلسلے میں دو باتیں قابلِ لحاظ ہیں:
 ۱- ایک تو یہ کہ یہ جواز صرف ان کے لیے ہوگا جو مجبور ہیں اور مجبور یا تو وہ لوگ ہیں جو ان ممالک کے اصل باشندے ہیں یا وہاں ان لوگوں نے بودباش اختیار کر لی ہے، یا وہ جو کسی شدید حاجت و ضرورت کے لیے وہاں جاتے ہیں اور جو لوگ محض سیر و تفریح کے لیے ایسے ممالک میں جاتے ہیں وہ اس جواز کے دائے میں نہیں آتے،
 لہذا ان کو یا تو وہاں جانا نہیں چاہیے یا انشورنس نہیں کرانا چاہیے۔

۲- دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجبوری کے تحت ایسے ممالک میں انشورنس کرانے تو لازم ہے کہ اپنی جمع شدہ رقم سے زائد جو کچھ کمپنی کی طرف سے ملے، وہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دے۔ ہذا ماعندي، واللہ عالم۔

(۵) کاغذات کا بیمه

اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:
 ”اس کا روایج کچھ قدیم ہے، اسی لیے علامہ ابن عابدین

شامی رحمۃ اللہ علیہ جو متأخرین میں افضل الفقہا مانے گئے ہیں، انھوں نے اس کا ذکر ”كتاب الجهاد، باب المستامن“ میں بنام ”سوکرہ“ کیا ہے؛ مگر اس کی جو صورت لکھی ہے، وہ موجودہ بیمہ سندات و کاغذات سے کسی قدر مختلف ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے؛ مگر انھیں کی تحریر سے بیمہ سندات و کاغذات کی مروجہ صورت کا جواز معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں نقل کیا ہے:

”إِنَّ الْمُودَعَ إِذَا أَخْذَ الْأَجْرَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ يَضْمِنُهَا إِذَا هَلَكَتْ“۔ (۱)

(جس شخص کو کوئی سامان بے غرض حفاظت دیا جائے، اگر وہ اس کی حفاظت کا معاوضہ لیتا ہے، تو ضائع ہو جانے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا۔)

ظاہر ہے کہ ملکہ ڈاک وغیرہ جو سندات و کاغذات وغیرہ سربہ مہر کر کے حفاظت کے وعدہ پر لیتا ہے اور اس کی حفاظت کی فیس بھی لیتا ہے، تو ضائع ہو جانے کی صورت میں مذکورہ روایت کی بنا پر ضائع شدہ کا غذات کا ضمان اس پر لازم آئے گا۔ (۲)

انشورنس میں سود لیے بغیر شرکت کا حکم

ایک سوال اس سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص انشورنس کے معاملے میں سود سے بچا رہے اور صرف اپنی اصل رقم کی واپسی چاہتا ہو، تو کیا یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے؟

(۱) الشامي

(۲) رسالہ بیمہ زندگی، مندرجہ جواہر الفقه: ۱۸۲-۱۸۳/۲

اس بارے میں ایک تو اس پر غور کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس معاملے میں سود لینے سے محترز رہا، تو وہ اس برائی و مفسدہ سے نجح تو گیا؛ لیکن جب اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا اس معاملے میں لگایا ہوا روپیہ، سودی کاروبار میں لگایا جاتا ہے، تو یہ سودی کاروبار میں تعاون ہوا اور یہ بھی ناجائز ہے؛ کیوں کہ اسلام میں حرام کام کا تعادن بھی حرام ہے، ”در مختار“ میں ہے:

” ويَكِرْهُ تحرِيمًا بِيعَ السَّلاَحِ مِنْ أَهْلِ الْفَتْنَةِ، إِنَّ عَلِمَ لَأَنَّهُ إِعانَةً عَلَى الْمُعْصِيَةِ، وَبِيعِ مَا يَتَخَذُ مِنْهُ كَالْحَدِيدِ وَنَحْوُهُ يَكِرْهُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ لَا لِأَهْلِ الْبَغْيِ لِعدَمِ تَفْرِغَهُمْ لِعَمَلهِ سَلَاحًا .“ (۱)

اور اپر وہ حدیث گزر چکی ہے، جس میں سود لینے، سود دینے اور اس پر گواہ بننے اور اس کا حساب لکھنے کو ایک ہی درجے کا گناہ قرار دیا گیا ہے، جب گواہ بننا اور حساب لکھنا بھی تعادن حرام میں داخل ہو جاتا ہے، تو جانتے بوجھتے، اپناروپیہ ایسے لوگوں کے حوالے کرنا جو اس کو سود پر لگاتے ہوں؛ کیوں کرتعادن حرام نہ ہوگا؟ اس لیے سود لیے بغیر بھی اس معاملے میں شرکت ناجائز ہوگی۔

اس کے علاوہ یہ بھی غور کرنا ہے کہ اس معاملے میں قمار بازی بھی ہے، اگر سود نہ لیا جائے، تو ایک گناہ ختم ہوا؛ مگر قمار بازی بھی خود ایک مستقل گناہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بخاری کی ایک حدیث میں ہے:

«مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلَيَتَصَدَّقُ .»

(جس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ چل، ہم قمار بازی کریں گے، تو

(۱) الدر المختار: ۲۶۸/۳

(۱) اس کو چاہیے کہ صدقہ دے۔

جب کسی سے صرف یہ کہنا کہ چلو، جو اکھلیں، موجب تصدق ہے، تو خود قمار بازی کا کیا حال ہوگا؟ لہذا سو دلیے بغیر بھی اس میں شرکت دو وجہ سے ناجائز ہوگی، ایک تو اس لیے کہ اس میں شرکت سودی کاروبار کے تعاون کا ذریعہ ہے اور دوسرے اس لیے کہ اس میں قمار بازی کا گناہ ہے۔

ربایا امداد؟

اور یہ کہنا کہ انشورنس کے معاملے میں کمپنی جو رقم سود کے نام سے ادا کرتی ہے، وہ ربا اور سود نہیں ہے؛ بل کہ وہ بیمه داروں کی امداد و اعانت اور تبرع و احسان ہے، یہ غلط ہے۔

کیوں کہ ہر چیز کا حکم اس کی حقیقت سے متعلق ہوا کرتا ہے، نام سے نہیں، اگر کوئی شخص شراب کو شربت کا نام دے دے، تو صرف نام کے بدل جانے سے اس پر حلت کا حکم نہیں لگایا جائے گا؛ بل کہ دیکھایہ جائے گا کہ اس مسمی بہ شربت شی میں نشدہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بلاشبہ حرمت کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ نام، اس کا شربت ہی ہو جائے۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ انشورنس کے معاملے میں جو رقم زائدی جاتی ہے، حقیقت کے لحاظ سے ربا شرعی ہے، اس کو امداد و اعانت یا تبرع و احسان کا نام دینے سے اس کے حکم حرمت میں کوئی فرق نہ آئے گا؛ بل کہ وہ بدستور حرام ہی ہوگا۔

پھر جس کو یہاں امداد و احسان کہا جا رہا ہے، اس پر امداد و احسان کی تعریف بھی صادق نہیں آتی؛ کیوں کہ امداد و احسان میں جو نہیں ہوتا اور انشورنس کی اس زائد رقم

میں جبرا ہوتا ہے۔ خود کمپنی بھی اور بیمه دار بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کمپنی زائد رقم ادا نہ کرے، تو قانونی چارہ جوئی سے وصول کی جاسکتی ہے۔

بتائیے یہ کیسا احسان ہے، جس میں جبرا بھی ہو سکتا ہے؟ غرض یہ کہ یہ ربا، ربا ہی ہے اور حرام ہے، تاویلیوں اور ناموں کی تبدیلی سے اس کے اصل حکم میں کچھ بھی فرق نہیں آتا۔

دارالحرب میں سود کا مسئلہ

جب بھی انسورنس اور اس میں سود ہونے کی بحث اٹھتی ہے، تو عام طور پر دارالحرب میں سود کا مسئلہ بھی زیر بحث لا یا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے؛ اس لیے یہاں سود کی گنجائش ہے، لہذا انسورنس بھی درست ہونا چاہیے۔ اس پر گفتگو سے قبل ہم اصل مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں، پھر مسئلہ زیر بحث کی طرف آئیں گے۔ دارالحرب میں حربی سے اس کی رضا مندی کے ساتھ سود لینے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ جواز کے قائل ہیں اور امام ابویوسف اور ائمہ ثلاثہ (امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ) عدم جواز کے قائل ہیں۔

علامہ حسکفی رحمہم اللہ فرماتے ہیں:

” (ولَا بَيْنَ حَرْبِي وَ مُسْلِمٍ) مُسْتَأْمِنٌ، وَ لَوْ بَعْقَدَ فَاسِدٌ أَوْ قَمَارٌ – ثَمَةٌ – لَأْنَ مَالَهُ ثَمَةٌ مُبَاحٌ، فَيَحْلُّ بِرِضَاهِ مُطْلَقاً بِلَا غَدَرٍ خَلَافَاً لِلثَّانِي وَ الْثَّلَاثَةِ.“ (۱)

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۱۸۶/۵

”البحر الرائق“ میں ہے:

” قوله: (ولابین الحربي والمسلم ثمة) أي لاربا بينهما

في دار الحرب عندهما خلافاً لأبي يوسف رحمه الله .“ (١)

امام عظيم رحمه الله جواز کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اس کے جواز کی چند شرطیں ہیں، ان پر بھی نظر ڈال لینا ضروری ہے:

(١) حربی سے سود لینے والا ایسا مسلمان ہو، جو دارالاسلام سے امن لے کر دار الحرب آیا ہو۔ جسے فقہا کی زبان میں مستامن کہتے ہیں، ”در مختار“ کی مذکورہ بالا عبارت میں مسلم کے ساتھ مستامن ہونے کی قید مصروف ہے۔ لہذا جو مسلمان دارالحرب ہی میں رہتا ہو، مستامن نہ ہو، وہ حربی کافر سے سودبیں لے سکتا۔

(٢) یا سود لینے والا مسلمان اسیر (قیدی) ہو، قال ابن عابدین : قوله:

”ومسلم مستأمن) ومثله الأسير.“ (٢)

اور اسیر کے سود لینے کے جواز میں امام ابو یوسف بھی امام عظیم رحمه الله کے ساتھ متفق ہیں، کما صرح به الشامی حیث قال:

”و خلافه (أي أبي يوسف رحمه الله) في المستأمن دون الأسير.“ (٣)

(٣) یا یہ سود لینے والا ایسا مسلمان ہو جو دارالحرب ہی میں اسلام لا یا ہو اور بحرت نہ کیا ہو۔

في الدر المختار:

قلت : و منه يعلم حكم من أسلما ثمة، ولم يهاجرا ،

(١) البحر الرائق: ٦/١٣٥

(٢) الشامي على الدر: ٥/١٨٦

(٣) الشامي: ٥/١٨٦

قال الشامي: أي يعلم مما ذكره المصنف مع تعليمه أن من

أسلمًا ثمة ولم يهاجر لا يتحقق الربا بينهما أيضًا . (۱)

(۲) يه معاملة حربى كافر سے ہو، مسلم اصلی، یا ذمی کافر سے نہ ہو۔ چنان چہ شامی

نے لکھا ہے:

”احترز بالحربى عن المسلم الأصلى والذمى .“ (۲)

(۵) یا یہ معاملہ اس مسلمان سے ہو جو دارالحرب میں اسلام لا یا ہو اور دار

الاسلام کی طرف بھرت نہ کیا ہو۔

”در مختار“ و ”البحر الرائق“ میں ہے:

”و حکم من أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر كحربى،
فللمسلم الربا معه خلافاً لهما.“ (۳)

یہ تو اصل مسئلہ ہوا، اب سب سے اہم بات اس کو ہندوستان پر منطبق کرنے کی ہے۔ بعض حضرات اگرچہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان میں انسورنس اور سود کے جواز پر فتویٰ دیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان پر اس کو منطبق کرنا سخت ترین دشوار بات ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ موجودہ ہندوستان کا دارالحرب ہونا خود مختلف فیہ مسئلہ ہے اور ہمارے بہت سے اکابر نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا ہے، تو اس میں سود کے جواز کا مذکورہ مسئلہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟

ثانیاً اس لیے کہ یہ سود لینے کا جواز اسی وقت ہے جب کہ یہ حربی کافر سے، یا اس مسلمان سے لیا جائے جو دارالحرب ہی میں اسلام لا یا ہو اور دارالاسلام کی طرف

(۱) الدر المختار مع ردار المختار: ۱۸۶/۵-۱۸۷

(۲) الشامي: ۱۸۶/۵

(۳) الدر المختار مع الشامي: ۱۸۶/۵، البحر الرائق: ۶/۱۳۷

ہجرت نہ کیا ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ ان شرائط کا تحقق یہاں ممکن نہیں۔

ثالثاً اس لیے کہ موجودہ زمانے میں دارالحرب میں اسلام لانے کے بعد دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، ناممکن ہے اور خود دارالاسلام ایسے افراد کو شہریت دینے کو تیار نہیں، ایسی صورت میں ہجرت نہ کرنے سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کا مال غیر معصوم ہے؟ پھر اس کا یہ نتیجہ ہو گا کہ آج ہندوستان میں کسی بھی مسلمان کا مال معصوم نہ رہے اور ایک دوسرے کا مال لے لینا اور ضائع کر دینا گناہ و ضمان کا موجب نہ ہوا اور یہ بات جس عظیم فتنے کا باعث ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔

ایک اہم مسئلہ

اس کے ساتھ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جودارالحرب میں عقود فاسدہ، مثل ربا، وغیرہ کو جائز قرار دیا ہے، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مسلمان، حربی کافر یا حربی مسلمان کے مال سے نفع اندوز ہو، اور کافر کو مسلمان کے مال سے نفع اندوز ہونے کا موقعہ نہ ملے اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی معاہلے میں حربی کافر کو نفع ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔

علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں فرمایا:

”إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفِي أَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى حَلٌّ مُبَاشِرَةً الْعَدْدِ إِذَا كَانَ الْزِيَادَةُ (الرِّبَا) يَنَالُهَا الْمُسْلِمُ، وَ الرِّبَا أَعْمَمُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ الدَّرْهَمَانِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْكَافِرِ، وَجَوَابُ الْمَسْأَلَةِ بِالْحَلٌّ عَامٌ فِي الْوَجَهَيْنِ، وَكَذَا الْقَمَارُ قَدِيفَضِي إِلَى أَنْ يَكُونَ مَالُ الْحَظْرِ لِلْكَافِرِ، بَأَنْ يَكُونَ الْغَلْبُ لَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِبَاحةَ بِقِيَدِ نِيلِ الْمُسْلِمِ

الزيادة وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن المراد من حل الربا و القمار ما إذا حصلت الزيادة للMuslim نظراً إلى العلة

وإن كان إطلاق الجواب خلافه والله تعالى أعلم.“ (١)

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر کے حوالے سے فرماتے ہیں:

”إلا أنه لا يخفى أنه إنما اقتضى حل مباشرة العقد إذا“

كان الزيادة (الربا) ينالها المسلم، و الربا أعم من ذلك،

إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم أو من جهة

الكافر، وجواب المسئلة بالحل عام في الوجهين . (٢)

نیز علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”رد المحتار“ میں فتح القدیر سے اس سب کو نقل کر

نے کے بعد فرمایا:

” قلت ويدل على ذلك ما في السير الكبير و شرحه

حيث قال وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس

بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه

إنما يأخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك

طيباً له والأسير والمستامن سواء حتى لو باعهم درهماً

بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالاً منهم بطريق

القمار فذلك كله طيب له اه ملخصاً فانظر كيف جعل

موضوع المسئلة الأخذ من أموالهم برضاهם فعلم أن

المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه

(١) فتح القدیر: ٧/٣٩

(٢) البحر الرائق: ٢/١٣٦

وان کان اللفظ عاماً لأن الحكم يد ورمع علته غالباً .” (۱)

حضراتِ فقہائے کرام کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ دارالحرب میں عقود فاسدہ مثل ربا و قمار، اسی وقت جائز ہیں، جب کہ ان کا نفع مسلمانوں کو حاصل ہو، ورنہ جائز نہیں۔ اب اس پر غور کیجیے کہ انسورنس میں جو قمار ہوتا ہے اس کا نفع کبھی مسلمان کو ہوتا ہے، جو اس میں شریک ہے، جب کہ مدت مقررہ سے پہلے بیمه شدہ شخص وشی، ہلاک ہو جائے اور کبھی کمپنی کو نفع ہوتا ہے جب کہ مدت مقررہ کے بعد ہلاک ہو، ایسی صورت میں انسورنس کی اجازت دارالحرب میں عقود فاسدہ کے جواز کی صورت میں بھی نہیں مل سکتی۔ الغرض ہندوستان میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر بھی اس کے جواز کا مسئلہ نہایت مشکل ہے۔ (والله عالم) جواز پر ہی فتویٰ دینا چاہیے۔

نجی کمپنیوں اور حکومتی اداروں میں فرق

سودی کا رو بار یا قمار، نجی کمپنیاں کرتی ہوں یا حکومتی ادارے، مسئلہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہو گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا ہر صورت میں انسورنس کا معاملہ ناجائز ہو گا۔ البتہ حادثے کی صورت میں جو رقم، حکومت کا یہ ادارہ دے گا، اس کو امداد کہا جا سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایک فرق (حکومتی ادارے اور نجی کمپنیوں میں) سامنے رکھنا ضروری ہو گا، کہ حادثے کی صورت میں، جو رقم حکومت سے ملے گی اس کو حکومت کا عطیہ قرار دیا جا سکتا ہے؛

(۱) الشامی: ۱۸۶/۵

کیوں کہ ایسے حالات میں امداداً کرنا عموماً حکومتوں کی ذمے داری سمجھی جاتی ہے؛ مگر ربا کا جو معاملہ، اسی طرح قمار کا جو معاملہ، انشورنس میں ہے وہ بہر حال ناجائز ہو گا۔ لہذا اس میں شرکت جائز نہیں ہو گی اور نہ سود کی وہ رقم جائز ہو گی، جو حکومتی ادارہ اس معاملہ میں دے گا۔ (۱)

ایک علمی مغالطہ

سوالنامہ میں پوچھا گیا ہے کہ اگر یہ کارروبار، حکومت کے ہاتھ میں ہو، تو کیا اس بنیاد پر کہ خزانہ حکومت میں رعیت کے ہر فرد کا حق ہوتا ہے، زیر بحث معاملے میں سود کی رقم عطا یہ قرار پا کر ربا کے حدود سے خارج ہو سکتی ہے، یا نہیں؟ اور کیا اس صورت میں یہ معاملہ جائز ہو سکتا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ غالباً یہ مسئلہ اس بنیاد پر اٹھایا گیا ہے کہ تسبیب فقه میں تحقق ربا کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ بد لین مال مشترک نہ ہو، جس میں یہ معاملہ کرنے والے بہ شرکت عنان یا بہ شرکتِ مفاؤضہ شریک ہوں۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”قال في الشرنبلاية: ومن شرائط الربا، عصمة البدلين وكونهما مضمونين بالإتلاف إلى أن قال ومنها ان لا يكون البدلان مملوكين لأحد المتباعين كالسيد مع عبده ولا مشتركين فيهما بشركة عنان ومفاؤضه كما في البدائع“۔ (۲)
تو جیسے عنان و مفاؤضہ کے دو شریک کے درمیان ربا متحقق نہیں ہوتا، اسی طرح یہاں

(۱) جواہر الفقہ: ۲/۱۸۷

(۲) الشامي: ۵/۱۶۸

بھی چوں کہ حکومت کا خزانہ مشترک ہے اس لیے یہاں بھی ربا کا تحقیق نہ ہونا چاہیے۔

مگر یہاں ایک مغالطہ ہے: اولاً اس لیے کہ خزانہ حکومت میں رعیت کی شرکت پر، شرکت عنان و مفاوضہ کی تعریف صادق نہیں آتی اور یہ عدم تحقیق ربا، اسی صورت میں ہے جب کہ شرکت مفاوضہ و عنان ہو۔

شرکتِ مفاوضہ کی تعریف ”الہدایہ“ میں یہ کی گئی ہے:

”اما شرکة المفاوضة فهي أن يشترك الرجال فيتساویان في مالهما وتصرفهمما و دينهما ولا يجوز بين المسلم والكافر ولا بين الصبي والبالغ“。(۱)

غور کر لیا جائے کہ یہ تعریف خزانہ حکومت میں رعیت کی شرکت پر صادق بھی آتی ہے یا نہیں اور شرکت عنان یہ ہے:

”اما شرکة العنوان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن يشترك اثنان في نوع بز أو طعام ويشتراكان في عموم التجارة ولا يذكران الكفالة.“ (۲)

ظاہر ہے کہ یہ تعریف بھی اس پر صادق نہیں آتی۔ پھر اس سے قطع نظر مال شرکت میں عدم تحقیق ربا کا مسئلہ، اس وقت ہے جب کہ ربا کا معاملہ کرنے والے، صرف اسی مال سے معاملہ کریں اور اگر ایک طرف مال شرکت ہو، دوسری طرف مال شرکت نہ ہو، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔

(۱) الہدایہ: ۲/۱۰۵

(۲) الہدایہ: ۲/۶۰۹

چنان چہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”أَشَارَ الْمُصْنِفُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى أَنَّهُ لَا رِبَّ بَيْنَ الْمُتَفَوِّضِينَ وَشَرِيكِيَ العَنَانِ إِذَا تَبَاعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ جَرِيًّا بَيْنَهُمَا.“ (۱)

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”الظاهر أن المراد إذا كان من البدلين من مال الشركة، أما لو اشتري أحدهما درهما من مال الشركة بدرهم من ماله مثلاً فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم الزائد بلا عوض وهو عين الربا“ (۲)

الغرض شرکتِ مفاوضہ و عنان کا سہارا لے کر خزانہ حکومت سے سود لینے یا اس کو دینے کا مسئلہ پیدا کرنا غلط ہے۔

پھر یہ بھی غلط ہے کہ خزانہ حکومت کو مال مشترک قرار دیا جائے؛ کیوں کہ مال مشترک کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مال میں دو یا چند اشخاص باعتبار ملکیت کے شریک ہوں اور ایسا مال جس میں باعتبار ملکیت کے شراکت نہ ہو، تو اس کو مال مشترک نہیں قرار دیا جاسکتا۔

مثلاً میاں اور بیوی کا مال شرعاً الگ الگ ہوتا ہے اور میاں کے مال میں بیوی کا حق نفقہ ہوتا ہے؛ مگر میاں کے مال میں بیوی کی باعتبار ملکیت شراکت نہیں ہوتی، لہذا اگر میاں بیوی آپس میں ربا کا معاملہ کریں، تو ربا کا تحقق ہو جائے گا، کیوں کہ یہاں مال مشترک نہیں ہے۔

(۱) البحر الرائق: ۶/۱۳۵

(۲) الشامی: ۵/۱۸۵-۱۸۶

اسی طرح باپ کے مال میں بیٹے کا اور بیٹے کے مال میں باپ کا حق شرعاً ثابت ہے؛ مگر اس کے باوجود ان کے مالوں کو مشترک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے، الہذا باپ اور بیٹے کے درمیان بھی ربا کا تحقیق ہو گا۔

حاصل یہ ہے کہ خزانہ حکومت میں ہر فرد رعیت کا حق تو بلاشبہ ہے؛ مگر صرف حق کے ثابت ہونے سے مال کا مشترک ہونا ثابت نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ملکیت اس کے لیے ضروری ہے اور یہاں ملکیت ثابت نہیں، الہذا اس میں ربا جاری ہو گا۔ (واللہ اعلم) انسورنس کے سود کے مصارف

اگر کار و بار حکومت کے ہاتھ میں ہوا اور اس سے حاصل ہونے والا سود، ٹیکس میں دیا جائے یا ان کاموں میں لگایا جائے، جو حکومت کے ذمے واجب ہیں یا ایسے کاموں پر لگایا جائے جو حکومت کے ذمے تو نہیں ہیں؛ مگر حکومت سے ان میں امداد لی جاتی ہے اور حکومت ان میں امداد بھی کبھی کر دیتی ہے۔ تو کیا انسورنس کا یہ معاملہ جائز ہو گا؟

یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں: ایک یہ کہ ان مصارف کے لیے انسورنس میں حصہ لینا، دوسرے حصہ لینے کے بعد اس سود کو ان مصارف میں خرچ کرنا۔

جہاں تک دوسرے مسئلے کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ صرف مصارف کا سوال ہے، الہذا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے انسورنس کا معاملہ کر لیا اور اس کے نام سود کی رقم آگئی، تو یہ شخص اس سود کی رقم کو:

(۱) ٹیکس میں (اس ٹیکس میں جو حکومت رعایا سے ظلم اوصول کرتی ہے۔ جیسے انکم ٹیکس وغیرہ) دے سکتا ہے۔

(۲) اور ان کاموں میں دے سکتا ہے جو حکومت کے ذمے سمجھے جاتے ہیں۔

اور جو کام حکومت کے ذمے نہیں ہے، ان میں لگانا درست نہ ہوگا؛ کیوں کہ یہ شخص اپنے سود کی رقم ایک ایسے کام میں لگا رہا ہے، جس کا نفع ہر کس و ناکس کو پہنچتا ہے، خواہ امیر ہو یا غریب، حال آں کہ اس رقم کا مصرف امیر لوگ نہیں ہو سکتے؛ کیوں کہ حرام مال کے سلسلے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے اور صدقہ کی حقیقت ہے تمیلیک المال من الفقیر - (۱)

لہذا غیر فقیر کو اس مال سے نفع پہنچایا نہیں جا سکتا اور پہلی دو صورتوں (ٹیکس اور حکومت کے ذمے واجب کاموں) میں اس مال کو دینے کا جواز اس پر ہے کہ یہ سود کی رقم اصل میں یہ حکم رکھتی ہے کہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے؛ لہذا واپس لوٹانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کے ذمے جو کام ہے، وہ اس سے کر دیا جائے یا وہ ظلماء جو اصول کر رہا ہے، اس میں اس کو دے دیا جائے۔ الغرض ٹیکس میں یا حکومت کے ذمے واجب کاموں میں خرچ کر دینا اس رقم کا جائز ہوگا اور حکومت کے غیر واجب کاموں میں صرف کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح فقراء پر خرچ کرنا بھی جائز ہوگا کہ وہ اس کا مصرف ہیں (کما ہو ظاهر لأن الصدقة هي تمليک المال من الفقير کما مر) مگر اس میں ثواب کی نیت جائز نہ ہوگی، کیوں کہ حرام مال کو خرچ کرنے میں ثواب نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرے مسئلے سے متعلق کلام تھا۔ اور پہلے مسئلے کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ ان مصارف میں خرچ کرنے کے لیے انشورنس کا معاملہ کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے۔

(۱) ٹیکس میں ادا کرنے کے لیے (مراد وہ ٹیکس ہے جو حکومت ظلمائیتی ہے۔)

(۲) حکومت کے ذمے واجب کاموں میں۔ اور ان صورتوں میں ناجائز ہے۔

(۱) ایسے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، جو حکومت کے ذمہ واجب نہیں ہیں۔

(۲) فقیروں اور محتاجوں کو دینے کے لیے۔

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”رسالہ بیمه رُنڈگی“ میں لکھتے ہیں:

(الف) یہ صورت جائز ہے کہ حکومت کی طرف سے جو غیر شرعی ٹیکس عائد ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے حکومت ہی سے اس کے قانون کے مطابق کوئی رقم حاصل کر لی جائے، خواہ اس کے حصول کا ذریعہ ربا کے عنوان کے تحت آتا ہو؛ مگر شرط یہ کہ صرف اتنی ہی رقم اصول کی جائے جتنی حکومت کے غیر شرعی ٹیکسوں میں دینی ہے۔

(ب) ازروئے قواعد تو اس کی (یعنی حکومت کے ذمہ واجب کاموں میں خرچ کرنے کے لیے انشورنس کے ذریعہ سود لینے کی) بھی گنجائش ہے؛ مگر انفرادی طور پر عملاً ایسا ہونا مشکل ہے، اس کا نتیجہ پھر یہی ہو گا کہ اس رقم کو صرف کرنے والے اس سے اپنا مفاد بھی حاصل کریں گے جو ناجائز ہے۔ ہاں کسی ایسے ادارے کو یہ رقم سپرد کر دی جائے، جو ذمہ داری کے ساتھ انھیں کاموں میں صرف کر دے جن کے پورے کرنے کی ذمہ داری حکومت پر تھی؛ مگر حکومت کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر رہی ہے، تو اس صورت میں مضائقہ نہیں (ج) جو کام حکومت کی ذمہ داری اور فرائض میں داخل نہیں، کبھی تبرعاً حکومت بھی کر دیتی ہے۔ ان کاموں میں صرف کرنے کے لیے حکومت کی بیمه پالیسی سے کسی ناجائز طریقہ پر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہو سکتا؛ کیوں کہ جواز کی علت، اس تاوان سے بچنا ہے، جو حکومت کی طرف سے غیر شرعی طور پر عائد کیا گیا ہو۔ وہ علت صورت (ج) میں مفقود ہے۔ صدقہ کرنے کی نیت سے سود یا قمار کی رقم، حاصل کرنا جائز نہیں ہو سکتا اخ۔ (۱)

ایک قابل توجہ امر

یہ تو فی حد ذات مسئلہ کی توضیح ہوئی؛ مگر ایک بات یہاں نہایت ضروری قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ مذکورہ بنیاد پر بعض صورتوں میں انشورنس کے معاملے کی گنجائش دی جائے گی اور عوام الناس کو اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، تو عوام الناس، نہاس کی بنیاد کو دیکھیں گے اور نہ جواز کے حدود و قیود اور شرائط کو؛ بل کہ ان سب سے قطعی نظر صرف جواز کے الفاظ کا سہارا لے کر، مطلقاً انشورنس کے جواز پر مصر ہوں گے اور ہر قسم کے انشورنس میں بلا قید و شرط، شریک ہو جائیں گے۔ جیسا کہ عوام کی عادت سے ظاہر ہے۔ اس لیے احتیاط اور عوام کی خیرخواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس معاملے کو مطلقاً ناجائز قرار دیا جائے، تاکہ عوام کسی معصیت میں مبتلا نہ ہوں۔ (واللہ اعلم)

انشورنس کی متبادل شرعی شکل

اب سب سے اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب انشورنس کی مرجبہ صورت ”سود و قمار“ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز قرار پائی، تو اس سے مسئلہ مصالح و منافع جو شرعاً بھی ناقابل التفاق نہیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے، جس میں کوئی شرعی محدود لازم نہ آئے؟ بلاشبہ یہ سوال فی نفسہ بھی اور آج کے ماحول و معاشرے کے اعتبار سے بھی، نہایت اہم اور ناقابل فراموش ہے۔ آج کسی چیز کے بارے میں عدم جواز کا فتویٰ دے دینا کافی نہیں ہے کہ یہ کبھی لوگوں کو بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار کر دیتا ہے اور کبھی ارتدا د کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرات علماء اس پر غور کریں۔

(۱) اسلام میں سرمایہ کے تحفظ اور اس میں اضافے کے لیے، بیع کی شکل موجود ہے، جو ربا کے بال مقابل تجویز کی گئی ہے، پھر اس کی متعدد شکلوں میں سے مضاربہ

اور شرکت بڑے منافع اور مصالح پر مشتمل ہیں۔

(۲) حوادث میں جانی و مالی نقصانات کی تلافی کے لیے اسلام میں تعاون علی الخیر اور امداد باہمی کی مختلف شکلیں مشروع ہیں۔

(۳) پسمندگان کے تحفظ و بقا کے لیے وراثت، وصایت کے قوانین موجود ہیں، معاقل کا نظام بھی مقتول کے پسمندگان کے تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے۔

لہذا انسورنس کے جو مصالح ہیں، سرمایہ کا تحفظ، اس میں اضافہ، امداد باہمی، حوادث میں نقصان کی تلافی اور پسمندگان کا تحفظ و بقا، وہ سب اسلامی نظام کے مطابق ان مذکورہ شکلیں کو راجح کر کے حاصل کیے جاسکتے ہیں اور ان میں سے بعض چیزوں کو انسورنس کمپنی میں شامل کر کے بھی ان مصالح کو حاصل کیا جاسکتا ہے مثلاً:

(۱) انسورنس کمپنی، بیمه کے طالبوں سے جو رقم قسط وار اصول کرتی ہے، اس کو مضاربہت و شرکت کے اسلامی اصولوں پر تجارت میں لگائے اور اس سے نفع لے کر کمپنی اور طالب بیمه قاعدے کے مطابق تقسیم کر لیں اور نقصان سے بچنے کے لیے اس کی نگرانی اچھی طرح کی جائے۔

(۲) نیز طالب بیمه سے ایک معتقد برقم، باہمی امداد و تعاون اور حوادث میں نقصان کی تلافی کے وعدہ پر الگ سے وصول کرے اور یہ رضامندی سے ہو اور اس رقم سے صرف ان کی امداد کی جائے جو کمپنی کے حصہ دار ہیں اور اس معاہدے کے پابند بھی اور اس کے لیے مناسب قواعد و قوانین مہرین معاشریات و علماء شریعت کو جوڑ کر بنائے جائیں اور پوری دردمندی و دل سوزی کا جذبہ لے کر کام کیا جائے اور صرف تجارت مقصود نہ ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح کا نظام نہ بن سکے۔ واللہ أعلم
وعلمہ اتم واحکم۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان

عورت کی نماز

حدیث اور فقہ کی روشنی میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْفَرِطُ

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی زید مجدد

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم المرسلين وعلى الله

وأصحابه أجمعين . أما بعد

ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنی علمی بے مائیگی؛ مگر تصور ہمہ دانی کی بنا پر اس بات پر مقصیر ہے کہ مرد و عورت کا طریقہ نماز یکساں ہے اور فقہ حنفی کی روشنی میں جو عورتیں رکوع ، سجدة ، قعدے وغیرہ میں مردوں سے کچھ مختلف طریقے کی پابند ہیں، ان کی نمازیں ناقص اور غیر مکمل ہیں، جب کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں، جن میں مردوں اور عورتوں کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں، قرآن و حدیث اور فقہائے امت کی تصریحات اس پر شاہد عدل ہیں۔

اسلام نے عورت کے پردے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز کو بھی فقہاء نے عورت کہا ہے؛ اس لیے نماز، حج اور تلاوت قرآن وغیرہ میں بطور قاعدة کلیہ کے، پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے؛ اسی قاعدة کلیہ کے تحت عورت کو رفع یہ دین، رفع صوت، رکوع، سجده، قعدہ وغیرہ میں سُتر اور پردے کی زیادہ سے

زیادہ امکانی کوشش کرنا شرعاً و عقلائی مطلوب و محمود ہے۔

مقامِ مسرت ہے کہ حضرت مولانا محمد شعیب اللہ صاحب مفتاحی نے ”فیض السَّمَاءِ فِي أَحْكَامِ صَلَاةِ النِّسَاءِ“ کے نام سے زیرِ نظر رسالہ مرتب فرمائے مسلمانان ہند پر اور بالخصوص اہل جنوب پر ایک علمی و دینی احسان فرمایا ہے کہ احادیث، آثارِ صحابہ اور تصریحاتِ فقہا کی روشنی میں عورتوں کی نماز کا مکمل خاکہ اور نقشہ پیش کر دیا ہے۔

امید ہے کہ اس وقوع رسالے سے، (پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا زوال ہو جائے گا اور) عورتیں اطمینان و انتراحت کے ساتھ اپنے طریقے کے مطابق نماز میں ادا کرتی رہیں گی۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کو شرفِ قبولیت سے نوازے اور مؤلف موصوف کو دارین میں اجرِ جزیل سے ہم کنار فرمائیں۔ ”ایں دعا از من و از جملہ جہاں“ آمین۔

حبیب الرحمن عظیمی

(استاذِ حدیث دارالعلوم دیوبند)

نزیل حال و انہبازی، ۲۷ ربیعہ المظہم ۱۴۱۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دیباچہ

بنگور کے ایک خالص اسلامی ماہنامے ”اسلامی مشغی“ کے محترم مدیر ”جناب پی۔ آر۔ رشید احمد صاحب مرحوم“ نے ایک دن بتایا کہ ماہنامے کے نام ہندوستان کے مختلف مقامات سے ایک ہی سوال پر مشتمل پچاسیوں خطوط موصول ہوئے اور ہور ہے ہیں کہ مردو عورت کی نماز میں شرعاً فرق ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ عورت کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مدیر محترم نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں ایک مدل و مفصل مضمون ”عورت کی نماز“ پر لکھوں؛ چنانچہ رقم نے اپنی بے بضاعتی و تہی دامنی کے باوجود، ایک مضمون نہایت عجلت کے ساتھ لکھ کر حوالے کر دیا، جو ”اسلامی مشغی“ کے شمارے بابت ربیع الاول ۱۴۰۰ھ مطابق نومبر ۱۹۸۹ء میں محترم مدیر اعلیٰ کے نوٹ کے ساتھ شائع ہوا اور عوام میں اور عوام سے زیادہ خواص علمی حلقوں میں توقع سے زیادہ پسند کیا گیا۔

پھر بعض احباب کی خواہش اور اصرار ہوا کہ یہ مضمون الگ کتابی صورت میں شائع کیا جائے؛ اس پر میں نے مضمون پر نظر ثانی کی، تو اندازہ ہوا کہ یہ تشنہ ہے؛ چنانچہ میں نے از سر نواس کو ترتیب دینا اور اس میں حذف و اضافے سے کام لینا ضروری سمجھا اور الحمد للہ یہ کام مکمل ہو گیا، جواب ایک رسالے کی شکل میں آپ

کے سامنے ہے۔

اس کی تکمیل ربع الاول ۱۴۰۷ھ اور شعبان ۱۴۰۸ھ کے درمیان ہو گئی اور یہ میرے دیگر مسودات میں پڑا رہا اور اشاعت کی نوبت نہیں آئی اور اب پندرہ سال کے بعد میرے عزیز ”مولوی زبیر احمد قاسمی سلمہ اللہ تعالیٰ“ نے اس کو مسودات سے نکالا اور اس کے حوالجات کی تحقیق کی اور احرقر نے بھی اس پر نظر ثانی کی اور بعض جگہ معمولی سی ترمیم و اضافہ بھی کیا اور اس کے آخر میں عورت کی نماز سے متعلق بعض روایات کی تحقیق میں میرا وہ خط بھی شامل اشاعت کر دیا گیا، جو ”جناب رفیق“ (مدیر ماہنامہ ”التوعیۃ“) کو لکھا گیا تھا۔

اب یہ رسالہ بنام ”فِيْضُ السَّمَاءِ فِيْ أَحْكَامِ صَلَاةِ النِّسَاءِ“ اشاعت کے لیے پریس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو مقبول و نافع بنائے۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان

مہتمم جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، بنگلور

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تمہید

یہ بات بہت واضح ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کے درمیان بعض احکام میں فرق رکھا گیا ہے، مثلاً بعض معاملات میں قرآن نے دعوتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے۔ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ۲۸۲)

نیز حدیث میں ہے:

قالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«وَمَا رأيْتُ مِنْ ناقصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَرَّ الرَّجُلَ
الحاِزِمَ مِنْ إِحْدَائِكُنَّ قُلْنَ: وَمَا نَقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ
اللّٰهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نَصْفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟» (۱)

اس حدیث میں رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے عورتوں کو ناقصاتِ عقل
قرار دے کر اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عورت کی گواہی، مرد کے اعتبار سے آڈھی ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شرعی احکام میں، بعض جگہ مرد و عورت کے درمیان خود شریعت
نے فرق رکھا ہے؛ چنانچہ حضراتِ علماء نے اس موضوع پر مستقل بحث کی ہے، جن کو نمونہ
دیکھنا ہو، وہ علامہ ابن حجر عسکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الأشباء والناظران“ دیکھیں، (۲) اس
سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مرد و عورت کے لیے احکام ہر جگہ کیساں نہیں ہیں۔

(۱) بخاری کتاب الحیض: ۱/۳۲۲، و کتاب الشہادت: ۱/۳۶۳

(۲) الأشباء مع الحموی: ۱/۳۸۱-۳۹۷

اسی طرح نماز کے بعض احکام میں مردو عورت کے درمیان فرق کیا گیا ہے،
نماز کے طریقے میں بھی اور دوسرے احکام میں بھی، زیر نظر رسالے میں یہی بات
پیش کرنا مقصود ہے۔

ہم پہلے رسول کریم ﷺ کی احادیث سے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اور تابعین عظام رحمہم اللہ کے آثار اور اقوال سے یہ بات ثابت کریں گے کہ
مردو عورت کی نماز میں فرق ہے؛ نیز ائمہ اربعہ "امام ابوحنیفہ"، "امام مالک"، "امام
شافعی" اور "امام احمد بن حنبل" رحمہم اللہ کے مسالک کی معتبر ترین کتب سے بھی یہ
ثابت کریں گے کہ ان سب حضراتِ ائمہ کے نزدیک مردو عورت کی نماز کا یہ فرق ملحوظ
ہے؛ پھر خفی نقطہ نظر سے عورت کے لیے نماز کا طریقہ بیان کریں گے؛ پھر دیگر احکام
نماز زیر بحث نہیں گے۔

واللہ الموفق والمعین وإلیه المرجع والمآب.

فصل اول

مردو عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت احادیث رسول

سب سے پہلے ہم احادیث کو لیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کی متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردو عورت کی نماز کے طریقے میں فرق ہے اور یہ کہ ان کے مابین بعض احکام نماز میں بھی فرق ہے۔

پہلی حدیث

«عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتِينَ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمِّا بَعْضَ الْلَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَاكَ كَالرَّجُلِ» (۱)

(حضرت یزید بن ابی حبیب سے) (۲) مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دو عورتوں پر سے گزر ہوا، جو نماز پڑھ رہی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو، تو اپنے جسم کا بعض حصہ زمین سے ملا لیا کرو؛ کیوں کہ

(۱) مراسیل ابی داؤد:

(۲) یہ یزید بن ابی حبیب مشہور و معروف تابعی ہیں، ابن حبان نے (کتاب الثقات: ۵۴۶) میں ان کو تابعین میں شمار کر کے بتایا ہے کہ آپ صحابی حضرت عبد اللہ بن الحارث بن جزء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ابن حجر رحمہ اللہ نے (تہذیب التہذیب: ۳۱۹/۱۱-۱۱) میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن سعد، ابی حیان، ابوزرعہ، عجلی سے ان کی توثیق و تعریف نقل کی ہے اور ابن سعد سے نقل کیا کہ وہ اپنے زمانہ میں اہل مصر کے مفتی تھے۔

عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو سجدے میں زمین سے مل کر اور دبی وابی نماز پڑھنا چاہیے؛ جب کہ مرد کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اس کے تمام اعضا کھلے کھلے ہوں۔

معلوم ہوا کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے؛ چنانچہ خود آخر حدیث میں آپ ﷺ نے اس کی صراحة فرمادی ہے کہ ”عورت اس بارے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔“

یہ روایت صحابی کا واسطہ مذکور نہ ہونے کی وجہ سے مُرسل ہے اور مُرسل حدیث جمہور علماء ائمہ کے نزدیک مقبول ہے۔

البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرسل کو غیر مقبول قرار دیتے ہیں؛ لیکن ان کے نزدیک بھی مرسل کی تائید کسی موصول یاد و سری مرسل روایت سے ہو جائے تو وہ مقبول ہوتی ہے، خواہ یہ تائیدی روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ (۱)

(۱) مرسل روایت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تبعین کے نزدیک مقبول ہے، جیسا کہ ابن الصلاح نے (مقدمہ: ۲۲) میں تصریح کی ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہی ہے جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے (نزہۃ النظر: ۵۳) میں فرمایا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے خط میں، جو مکہ والوں کو بھیجا تھا، فرماتے ہیں: ”أَمَا الْمَرَاسِيلُ كَانَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعُلَمَاءُ فِيمَا مَضَى مِثْلُ سَفِيَّانَ الثُّوْرَى، وَمَالِكَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، ثُمَّ جَاءَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَ فِيهِ الْخَ (مقدمہ سنن أبي داؤد: ۶) اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جیت مرسل کا انکار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، ان سے پہلے سب علماء کی جیت تسلیم کرتے تھے۔ اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مند و موصول روایت نہ ہو، تو مرسل سے احتجاج کیا جائے گا۔.....

اور زیر بحث مرسل روایت کو امام نبھتی رحمۃ اللہ علیہ نے موصولاً دو سندوں سے
روایت کیا ہے۔ (۱)

اور یہ دونوں طریق، اگرچہ متروک راویوں کی وجہ سے ضعیف ہیں؛ مگر مرسل کی
تائید کے لیے کافی ہیں؛ لہذا یہ تمام ائمہ کے نزدیک جحت و مقبول ہو گی۔

دوسری حدیث

«عَنْ أَبْنَى عَمِيرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي
الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذْلَهَا عَلَى فَخِذْلِهَا الْأُخْرَى، فَإِذَا سَجَدَتْ
أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا عَلَى فَخِذْلَهَا كَأْسَتْرَ مَا يَكُونُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا، يَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي! أَشْهَدُكُمْ إِنِّي غَفَرْتُ لَهَا» (۲)

(حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت
نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک راند و سری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے،

نیز معلوم ہونا چاہیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تبعین جو مرسل کی جیت کا انکار
فرماتے ہیں، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اس کی تائید کسی اور مندیا مرسل حدیث سے نہ ہو؛
جیسا کہ ہم نے اوپر بھی لکھا ہے اور اگر مرسل کی تائید کسی اور مندیا مرسل سے ہوتی ہو، تو سب
علماء اس کو قبول کرتے ہیں، پھر اس تائید کرنے والی موصول حدیث کا ضعیف ہونا بھی کافی
ہے؛ بل کہ ”تدریب الروایی“ میں لکھا ہے کہ مرسل کی تائید کے لیے جس موصول کی ضرورت
ہے، وہ منتهض الإسناد (پکی سندواں) نہ ہو کیوں کہ اگر یہ موصول روایت سند کے لحاظ
سے قوی ہو گی، تو استدلال و احتجاج تو اسی سے ہو گا، نہ کہ مرسل سے۔ (تدریب الروایی: ۱۰۵)

(۱) السنن الکبریٰ للبیهقی: ۷۵/۳

(۲) کنز العمال: رقم الحدیث: ۲۰۱۹۹

تو پیٹ کو رانوں سے ملا لیا کرے، اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ پرده ہو جائے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! تم گواہ رہو کہ میں نے اس (عورت) کو بخش دیا) اس میں عورت کے سجدے اور جلسے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ سجدے میں رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھنا چاہیے اور اس کی تائید لگذشتہ حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں بھی سجدے میں زمین سے ملے رہنے کا حکم دیا ہے اور جلسے میں رانوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اس طرح رکھنے کا حکم ہے کہ ایک ران دوسرے ران پر ہو اور یہ معلوم ہے کہ مرد کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے؛ لہذا یہ پتہ چلا کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے۔

نیز اس حدیث سے ایک بات گر کی یہ معلوم ہوئی کہ عورت کو نماز کے ارکان و افعال میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پرده ہو، اس کی ہر ادا، ہر سکون، ہر فعل و عمل سترو پر دے کا ضامن ہو، اس نکتے کو یاد رکھیں کہ یہ آئندہ کام آئے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق کا بنیادی اور مرکزی نکتہ یہی ہے۔

یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے؛ مگر اس کے شواہد موجود ہیں، اس سے اوپر، جو حدیث گذری ہے، وہ بھی اس کے بعض اجزاء کی شاہد ہے اور آگے حضرت علیؓ کی روایت موقوفہ آرہی ہے، جس میں جلسے میں رانوں کو ملا کر رکھنے کا حکم ہے، یہ زیر بحث روایت کے پہلے جزو کی شاہد ہے اور محمد شین کے اصول کے مطابق، شواہدات کی روشنی میں ضعیف حدیث کبھی حسن کے درجے کو اور کبھی صحیح کے درجے کو پہنچ جاتی ہے (۱)؛ لہذا اس کا ضعف ختم ہو گیا۔

(۱) دیکھو اصول حدیث کی کتابیں: ”نزہۃ النظر“ للعسقلانی، ”ارشاد طلاب الحقائق“ للنبوی، ”فتح المغیث“ للسحاوی، ”تدریب الراوی“ للسيوطی، ”علوم الحديث لابن الصلاح“، وغیرہا)

تیسراً حدیث

«عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ النَّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : كُنْ تَرَبَّعَنَ ، ثُمَّ أُمْرُنَ أَنْ يَحْتَفِظْنَ » (۱)

(حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں عورتیں نماز کس طرح پڑھتی تھیں؟ فرمایا کہ وہ چار زانو بیٹھتی تھیں؛ پھر ان کو حکم دیا گیا کہ سرین کے بل بیٹھیں)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو نماز میں، مرد کی طرح پیر بچا کرنہیں؛ بل کہ سرین کے بل زمین پر بیٹھنا چاہیے؛ جب کہ مرد کے لیے یہ طریقہ ہے کہ اپنا ایک پیر بچا کر اسی پر بیٹھ جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں نماز کا یہ طریقہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے؛ بل کہ آپ کے حکم سے ہے؛ کیوں کہ صحابی کا یہ کہنا ”حکم دیا گیا“، مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ (۲)

الغرض! حضرت ابن عمر رضي الله عنهما کا یہ کہنا کہ ”عورتوں کو یہ حکم دیا گیا“، مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کافر مان اور حکم بیان کیا گیا ہے۔

(۱) جامع المسانید: ۱/ ۳۰۰، مسنند الإمام، حفصی: ۲۹

(۲) امام ابو عبد اللہ الحامک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”معرفۃ علوم الحدیث“ میں فرماتے ہیں: ”ومنه (ای من المرفوع) قول الصحابي المعروف بالصحبة ”أمرنا أن نفعل كذلك“ و ”كُنَا نُؤمِرُ بِكَذَا“ فهو حديث مُسنَد“ . (معرفۃ علوم الحدیث : ۲۸) اسی طرح علامہ ابن الصلاح نے ”مقدمہ“: ۲۰ میں اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نزہۃ النظر“: ۸۵ میں، علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفیہ“: ۱۹ میں، اور نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ”ارشاد طلاب الحقائق“: ۱/ ۱۶۱ میں ذکر فرمایا ہے اور اسی کو صحیح اور اکثر علماء کا قول قرار دیا گیا ہے۔

اب رہا اس کی سند کا معاملہ، تو عرض ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے اور نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور یہاں تک سند بلاشبہ صحیح ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ (کمالاً یخْفی علی المَهْرَہ) اس کے بعد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مسانید کے جامع تک، جو راوی ہیں وہ بھی سب کے سب قبل قبول اور اعتماد ہیں، سوائے زربن ابی شح کے، جن کے بارے میں حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے حالات محققونہ مل سکے۔ (۱)

یہاں یاد رہے کہ زربن ابی شح کو غیر مقبول نہیں قرار دیا گیا ہے، بل کہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کے حالات کا علم نہ ہوسکا، ویسے یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو چکی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مسانید قبل احتجاج ہیں۔ (۲)

پھر ایک موقوف روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ہم آگے چل کر اس کو نقل کریں گے؛ لہذا یہ روایت قبل قبول ولائق احتجاج ہے۔

چوتھی حدیث

«عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلوة حائض إلا بخمارة» (۳)

(حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز بغیر اور ڈھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا)

(۱) إعلاء السنن: ۲۰/۳

(۲) إعلاء السنن: ۲۲، ۲۱/۳

(۳) سنن ترمذی: ۱/۵۲، ابو داؤد: ۱/۹۳

ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ (۱)

اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

یہ حدیث صاف و صریح طور پر بتا رہی ہے کہ عورت کی نماز، اور ڈھنی کے بغیر مقبول نہیں ہوتی؛ لہذا اس کو اور ڈھنی سے پورا سرڑھا نک لینا چاہیے؛ حالاں کہ مرد کے لیے یہ حکم نہیں ہے؛ بل کہ علمانے اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے کہ عورت کا پورا بدن (سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے) مستور و پوشیدہ ہونا چاہیے، ورنہ نمازنہیں ہوتی، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ (۲)

بہر حال! اس سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت کے بعض احکام نماز مختلف ہیں۔

پانچویں حدیث

« عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المرأة في بيته أفضل من صلاة فيها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيته » (۳)

(حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت کی نماز گھر کے اندر (دالان)

(۱) بلوغ المرام: ۱۵

(۲) سنن الترمذی: ۱/۵۲

(۳) أبو داود: ۱/۸۲

عورت کی نماز-حدیث اور فقہ کی روشنی میں میں افضل ہے، اس نماز سے، جو حسن میں ہو اور اس کی اندر کی کوٹھری میں نماز افضل ہے، اس نماز سے، جو دالان میں ہو)

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے اور گھر میں بھی، جو حصہ جتنا اندر اور مستور ہو، وہ اس کے لیے افضل ہے؛ جب کہ یہ معلوم ہے کہ مرد کے لیے فرائض کی ادائیگی مسجد میں افضل ہے؛ بل کہ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سنن ہدای“ کی تعلیم دی اور بلاشبہ ”سنن ہدای“ میں سے ایک، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے، جہاں اذان ہوتی ہو۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مرد و عورت کے درمیان، بعض احکام نماز میں فرق رکھا گیا ہے۔

چھٹی حدیث

«عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : خير صفات الرجال أولها، وشر ها آخرها، وخير صفات النساء آخرها، وشر ها أولها» (۲)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں بہتر، پہلی صفت ہے اور بدتر، آخری اور عورتوں کی صفوں میں، بہتر آخری صفت اور بدتر پہلی ہے) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جماعت میں مردوں کے ساتھ عورتیں ہوں،

(۱) مسلم : ۱/۲۳۲

(۲) مسلم : ۱/۹۹، أبو داود : ۱/۱۸۲

تو عورتوں کی آخری صفائض افضل ہے؛ جب کہ اسی حدیث نے یہ بھی بتایا ہے کہ مردوں کی پہلی صفائض افضل ہے، اس سے یہ بھی واضح ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے بعض احکام مختلف ہیں۔
ساتویں حدیث

« عن أبي هريرة و سهل بن سعد ﷺ : قال رسول الله ﷺ حَلَى لِفْنَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْتَسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ » (۱)

(حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سہیل بن سعد ﷺ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور تصفیح (تالی بجانا) عورتوں کے لیے ہے)

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کو سہو اور بھول ہو جائے اور اس کو بتانے کی ضرورت ہو، یا کوئی آنے والا دروازے پر دستک دے رہا ہو اور اس کو یہ بتانا ہو کہ میں نماز میں مشغول ہوں، تو مرد ”سبحان اللہ“ کہے، اور عورت تالی بجائے، یہی سنت ہے۔ (۲)

اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعض احکام عورت کے لیے مرد سے مختلف ہیں اور خود شارع ﷺ نے دونوں کی نماز کے احکام میں فرق بیان کیا ہے۔

آٹھویں حدیث

« عن عائشة ﷺ قالت : قال رسول الله ﷺ حَلَى لِفْنَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۱) بخاری: ۱/۱۶۰، مسلم: ۱/۱۸۰، أبو داود: ۱/۱۳۵، ترمذی: ۱/۵۱، عبدالرزاق: ۳/۲۵۵

(۲) شرح مسلم للنووی: ۱/۱۷۹

لا خیرٌ في جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة » (۱)

(حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں؛ مگر مسجد میں یا جنازے (کی نماز) میں)

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی اور خیر کی چیز نہیں؛ لہذا عورتوں کو اپنی جماعت بنانا مکروہ ہے اور اس کے برخلاف مردوں کو جماعت بنا کر نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔

معلوم ہوا کہ مردوں عورت کی نماز کے احکام میں فرق ہے اور آخر میں، جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”مگر مسجد یا جنازے کی نماز میں“، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جماعت کریں یا جنازے کی نماز میں کریں، تو یہ درست ہے اور ظاہر ہے کہ مسجد میں عورتیں، بلا مردوں کے جماعت نہیں کر سکتیں؛ بل کہ مردوں کے ساتھ کرتی ہیں، صرف ایک صورت میں ان کو جماعت کی اجازت ہے کہ جنازے کی نماز میں عورتیں جماعت کر لیں۔

یہ روایت عبد اللہ بن لہیعہ راوی کے واسطے سے آئی ہے اور ان پر اگرچہ بعض علماء جرح کی ہے، تاہم بہت سے علمانے ان پر اعتماد اور وثوق ظاہر کیا ہے؛ لہذا یہ حسن الحدیث ہوں گے۔ (۲)

یہاں تک ہم نے کل آٹھ حدیثوں کو پیش کر کے بتایا ہے کہ مردوں عورت کی نماز میں فرق ہے، طریقہ نماز میں بھی اور دوسرے متعلقہ احکام میں بھی، کچھ حدیثیں آگے بھی ضمناً آئیں گی، إِن شاء اللہ تَعَالَى۔

(۱) مجمع الزوائد: ۱/۱۵۵

(۲) عبد اللہ بن لہیعہ کے بارے میں علمائے جرح و تتعديل کی رائیں مختلف ہیں.....

آثارِ صحابہ کرام ﷺ

اس کے بعد ہم حضراتِ صحابہ کرام ﷺ کے آثار واقوال ذکر کرتے ہیں، جن سے مرد و عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت ملتا ہے؛ کیوں کہ صحابہ کرام ﷺ کے آثار واقوال بھی جمہور علمائے امت کے نزد دیکھ جلت ہیں اور خصوصاً انہمہ اربعہ: ”امام ابوحنیفہ“،

بعض نے ان کی تضعیف کی ہے اور بعض نے تو شیق کی ہے۔ تضعیف کرنے والوں میں یحییٰ بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی وغیرہ ہیں اور تو شیق کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، وغیرہ انہمہ حدیث و اساطین فن ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ مصر میں حدیث کی کثرت، ضبط اور اتفاق میں ابن لہیعہ جیسا کون ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابن لہیعہ کے پاس اصول ہیں اور ہمارے پاس فروع؛ نیز فرمایا کہ میں نے کئی حج صرف اس لیے کیے ہیں کہ میں ابن لہیعہ سے ملاقات کروں۔ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ، جوابن لہیعہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ہم طن بھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی، خدا کی قسم الصادق الباریعنی سچے اور نیک (یعنی عبد اللہ ابن لہیعہ) نے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابن لہیعہ کی حدیث لیتا ہوں اور ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی حدیث لیتے رہے۔ (ملخصاً من تهذیب التهذیب: ۳۷۲/۵ - ۳۷۷) علامہ ابن شاہین محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”تاریخ أسماء الثقات“ میں ان کا ذکر کیا ہے، جو کہ صرف قابل اعتماد راویوں کے تذکرے کے لیے کامیگی ہے اور اسی میں احمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کا یقین نقل کیا ہے کہ ”ابن لہیعہ ثقہ ہیں اور ان کی حسن حدیثوں میں تنخیل واقع ہو گئی ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔“ (تاریخ أسماء الثقات: ۹۱) تهذیب میں ہے کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابن لہیعہ سے روایت کرتے ہیں اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے (تهذیب: ۱/۵، اور لسان المیزان: ۲۶۱) میں تصریح کی ہے کہ وہ ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں، ان تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ابن لہیعہ سب کے نزد دیکھ ضعیف نہیں ہیں؛ بلکہ بہت سے اساطین فن و انہمہ حدیث نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے؛ للہ اکبر کی حدیث حسن سے کم نہ ہوگی۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمْ**

”امام شافعی“، ”امام مالک“، ”امام احمد“ رحمہم اللہ کے نزدیک تو ان کے آثار بڑے ہی قابل اعتماد و قابل اعتنا ہیں ، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”اعلام الموقعين“ میں اس پر تفصیل و تحقیق سے لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے قول قدیم و جدید میں صحابہ کے اقوال و آثار کو جدت مانتے ہیں۔ (۱)

اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک خود یہ بتایا ہے کہ میں پہلے قرآن کو پھر حدیث کو لیتا ہوں، اگر وہاں نہ ملے، تو صحابہ کے قول کو لیتا ہوں اور ان کے قول سے باہر نہیں جاتا۔ (۲)

الغرض! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و آثار بھی جدت و قابل تقلید ہیں؛ اس لیے یہاں ان حضرات کے اقوال و آثار ذکر کیے جاتے ہیں:

حضرت علیؑ کا اثر

« عن عليؑ قال: إذا سجدت المرأة ، فلتختفتر وللتتصق فخذيها ببطنها » (۳)

(حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب عورت سجدہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ سرین کے بل بیٹھے اور اپنے پیٹ سے رانوں کو ملانے رکھے)

علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے راویوں پر کلام کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ (۴)

(۱) إعلام الموقعين: ۱۱۹-۱۲۳

(۲) تهذیب التهذیب: ۱۰/۲۵۱، أبو حنيفة وأصحابه: ۳۸

(۳) عبد الرزاق: ۳/۱۳۸ او اللفظ له ، ابن أبي شیبہ: ۱/۲۳۱، وسنن البیهقی: ۲۲۲/۲

(۴) إعلاء السنن: ۳/۲۲

حضرت اُم درداء ﷺ کا اثر

« عن عبد ربه بن سليمان قال:رأيْتُ أُمَّ الدِّرَاءِ
كانت ترفع يديها إلى منكبيها » (۱)

(عبدربہ بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اُم درداء ﷺ کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھیں) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے؛ جب کہ احناف کے نزدیک مردوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے؛ جیسا کہ مسلم میں رسول اللہ ﷺ کا عمل وارد ہوا ہے۔ (۲)

اور جودوسرا روایت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، احناف اس کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ تھیلیاں کندھوں تک اور ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے برابر ہوتی تھیں۔ (۳)

اور اس کی تائید ابو داؤد کی ایک روایت سے ہوتی ہے، جو وائل بن حجر ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یہاں تک کہ وہ کندھوں کے برابر ہو گئے اور انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کر لیا؛ پھر تکبیر کی۔ (۴)

(۱) جزء رفع الیدين للإمام البخاري: ۱۳، ابن أبي شیبہ: ۱/۲۱۶

(۲) مسلم: ۱/۱۶۸

(۳) البحر الرائق: ۱/۳۰۵

(۴) أبو داؤد: ۱/۱۰۵

الغرض! مرد کے لیے جو طریقہ ہے، اس کے خلاف حضرت ام درداء رض کا یہ عمل کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھیں، اس بات کی دلیل ہے کہ مرد عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے۔

اس اثر کے تمام روایی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ خطاب بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اسماعیل بن عیاش سے، انہوں نے عبدربہ بن سلیمان سے اس کو روایت کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ان کی ذات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، امام بخاری کے استاذ خطاب بن عثمان کے ثقہ ہونے کے لیے امام بخاری کا ان سے روایت کرنا ہی کافی ہے؛ کیوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے حدیث لیتے ہیں، وہ ثقہ ہوتا ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے ایک ہزار اسی اساتذہ سے حدیث لکھی ہے اور وہ سب کے سب صاحب حدیث تھے۔ (۱)

پھر دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی توثیق کی ہے اور قاسم بن ہاشم نے فرمایا کہ یہ ابدال میں شمار کیے جاتے ہیں۔ (۲)

اور خطاب کے استاذ اسماعیل بن عیاش بھی ثقہ ہیں؛ اگرچہ بعض نے ان پر کلام کیا ہے؛ مگر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے ان کو اہل شام کے علاوہ دوسرے مشائخ کی روایت میں ضعیف قرار دیا ہے اور اہل شام سے ان کی روایت توی ہے؛ پھر فرماتے ہیں کہ بعض نے تو ان کو مطلقاً ثقہ قرار دیا ہے۔ (۳)

(۱) هدی الساری: ۲۷۹

(۲) تهذیب التهذیب: ۱۳۶/۳

(۳) القول المسدد: ۱۲

ان پر مفصل کلام، تہذیب میں دیکھا جائے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے ان پر اعتماد و ثوق ظاہر کیا ہے۔ (۱)
اور یہ زیر بحث روایت ابن عیاش نے عبد ربہ سے کی ہے، جو مشقی شامی ہیں؛
لہذا یہ حدیث مقبول و قوی ہو گی اور عبد ربہ بن سلیمان کو ابن حبان نے ثقات میں
ذکر کیا ہے۔ (۲)

الغرض! اس کے تمام راوی ثقة اور قبل اعتماد ہیں۔ **وَاللَّهُ أَعْلَم**

حضرت علی ﷺ کا ارشاد

«عن علي ﷺ قال: لا تؤم المرأة» (۳)

(حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ عورت امامت نہ کرے۔)

اس حدیث کی سند میں ”ابن الی ذنب“ بنو ہاشم کے ایک آزاد کردہ غلام سے
روایت کر رہے ہیں، اس سند میں ان کا نام مذکور نہیں ہے، جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے
کہ یہ راوی مجھول ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے؛ مگر بات یہ ہے کہ اس راوی
کا نام اگرچہ یہاں مذکور نہیں ہے، تاہم محدثین نے تصریح کر دی ہے کہ ابن الی ذنب
کے تمام شیوخ سوائے بیاضی کے ثقه و قبل اعتبار ہیں، اس لحاظ سے یہ مولیٰ بنی ہاشم
بھی ثقه ہیں۔ (۴)

(۱) دیکھو: تہذیب التہذیب: ۱/۳۲۱-۳۲۶، و تاریخ اسماء الشفیقات:

(۲) ثقات ابن حبان: ۷/۱۵۳

(۳) ابن أبي شيبة: ۱/۲۳۰، المدونة الكبرى: ۱/۸۵

(۴) سیر أعلام النبلاء: ۷/۱۷۷، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ۲/۱۸۲، تہذیب التہذیب: ۹/۲۱، تہذیب الكمال: ۲۵/۲۳۷، تہذیب الأسماء للنووي: ۱/۱۰۲

اسی لیے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے تمام رجال (راوی) ثقہ و قابلٰ اعتماد ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ (۱)

اس اثر سے یہ معلوم ہوا کہ عورت امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی؛ جب کہ مرد کا امامت کی صلاحیت والا ہونا معلوم ہے، پس معلوم ہوا کہ نماز کے بعض احکام میں مرد و عورت مختلف ہیں۔

حضرت عائشہؓ کا اثر

« عن عطاء عن عائشةؓ : أنها كانت تَوْمِ النِّسَاء تَقُومُ معهُنَّ في الصَّفِّ ». (۲)

(حضرت عطاء سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ عورتوں کو نماز پڑھاتی تھیں اور درمیانِ صفائح میں کھڑی ہوتیں۔)

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو حاکم، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق اور دارقطنی کے حوالہ سے درایہ میں نقل کر کے فرمایا کہ عبد الرزاق اور دارقطنی کی سند دوسری سندوں سے صالح اور بہتر ہے۔ (۳)

اور اسی روایت کو امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بطريق ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے اور اس میں ہے کہ یہ واقعہ رمضان میں ہوا ہے۔ (۴)

(۱) إعلاء السنن: ۲۱۵/۳

(۲) عبد الرزاق: ۱۳۱/۳

(۳) الدرایۃ مع الہدایۃ: ۱/۱۰۳

(۴) کتاب الآثار إمام محمد: ۲۲، و کتاب الآثار إمام أبو یوسف: ۳۱

اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر امامت کرے، تو درمیانِ صفائی میں کھڑی ہونا چاہیے؛ جب کہ یہ معلوم ہے کہ اگر دو یا زیادہ مقتدی ہوں، تو مرد امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے؛ چنانچہ حضرت سمرہ بن جنبد رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ جب ہم تین آدمی ہوں، تو ہم میں سے ایک امامت کے لیے) آگے بڑھ جائے۔ (۱)

معلوم ہوا کہ اس میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رض اس حکمِ رسول کے خلاف ہرگز نہ کرتیں۔

حضرت ام سلمہ رض کا اثر

« عن حجیرة بنت حصين قالت: أَمْتَنَا أُمُّ سَلْمَةَ رض
فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَامَتْ بَيْنَنَا . » (۲)

(حجیرہ بنت حصین کہتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رض عصر کی نماز میں ہماری امامت فرمائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے امام زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں نقل کیا ہے کہ اس اثر کی سند صحیح ہے۔ (۳)

حضرت ام سلمہ رض کا دوسرا اثر

﴿ عن قتادة رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الْحَسْنِ أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلْمَةَ رض ﴾

(۱) سنن الترمذی: ۱/۳۳

(۲) عبد الرزاق: ۳/۱۲۰، ابن أبي شیبہ: ۱/۲۳۰، مسنـد الشافعی: ۱/۵۳

(۳) نصب الرایہ: ۲/۳۱

زوج النبی ﷺ تَوْمُ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعْهُنَّ فِي صَفَهَنَّ » (۱)
 (حضرت قادہ رحمہ اللہ نے حضرت ام الحسن سے روایت کیا ہے کہ
 انہوں نے نبی کریم ﷺ کی زوجہ حضرت ام سلمہ ؓ کو
 عورتوں کی امامت کرتے ہوئے دیکھا، وہ عورتوں کی صفائی درمیان
 کھڑی تھیں)

اس کی سند بھی صحیح ہے؛ کیوں کہ اس کے تمام راوی ثقہ و قابل اعتبار ہیں اور سوائے
 ام الحسن کے سب کے سب راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں، اور ام الحسن بھی معتر
 راوی ہیں۔ (۲)

اس سے بھی معلوم ہوا کہ عورت اگر کسی وجہ سے عورتوں کی امامت کرے، تو
 اس کو مرد کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہونا چاہیے؛ بل کہ درمیان صفائی میں کھڑی
 ہونا چاہیے۔

حضرت ابن عباس ؓ کا اثر

«عن ابن عباس ؓ أَنَّهُ سُئِلَ عن صلاة المرأة ،

فَقَالَ: تجتمع وتحتفظ» (۳)

(حضرت ابن عباس ؓ سے پوچھا گیا کہ عورت کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو ان

(۱) عبد الرزاق: ۳/۱۰۲، ابن أبي شيبة: ۱/۲۳۰

(۲) قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وهذا إسناد صحيح رواته ثقات معروفون من رجال الشيوخين، غير أم الحسن هذه وهي البصرية ، واسمها خيرة مولاية أم سلمة، وقد روی عنها جمّعٌ من الثقات، ورمز لها في التهذيب بأنّها ممن روی لها مسلم، وذكرها ابن حبان في الثقات. (تمام المنة على فقه السنة: ۱۵۳)

(۳) ابن أبي شيبة: ۱/۲۳۱

کے جواب میں فرمایا کہ وہ سمت کر نماز پڑھے)

حضرت ابن عباس ﷺ کا دوسرا اثر

« عن ابن عباس ﷺ قال: تؤم المرأة النساء ، تقوم في وسطهن » (۱)

(حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ عورت عورتوں کی امامت اس طرح کرے کہ وہ درمیان میں کھڑی ہو۔)

ان آثار سے بھی معلوم ہوا کہ عورت امامت کرے، تو مرد کی طرح آگے بڑھ کر نہیں کھڑی ہونا چاہیے؛ بل کہ درمیان صف میں کھڑی ہونا چاہیے۔

انتباہ

یہاں یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ اور اُم سلمہ رضی اللہ عنہما کا عمل اور حضرت ابن عباس ﷺ کا قول یہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت امامت کر سکتی ہے؛ پھر اس کو کیوں مکروہ کہا جاتا ہے؟ کیوں کہ عورتوں کی جماعت کا مکروہ ہونا، خود حضرت عائشہ ﷺ کی حدیث سے اوپر گذر چکا ہے اور عورت کی امامت کا ممنوع ہونا حضرت علیؓ کے اثر سے بھی ثابت ہے؛ لہذا یہاں یوں کہا جائے گا کہ کسی مصلحت سے ان حضرات نے ایسا کیا ہے اور کبھی کبھی کیا ہے اور ابن عباس ﷺ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت امامت کرے، تو درمیان میں کھڑی ہو، یہ نہیں کہ وہ عورت کو امامت کی اجازت دے رہے ہیں۔

حضرت ابن عمر ﷺ کا اثر

« عن نافع عن ابن عمر ﷺ قال: ليس على النساء

(۱) عبد الرزاق: ۱۳۰/۳

اذان ولا إقامة » (۱)

(حضرت عبد اللہ بن عمر رض فرماتے ہیں کہ عورتوں پر اذان نہیں ہے، اور نہ اقامت ہے)

حضرت ابن عباس رض کا اثر

« عن ابن عباس رض قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. » (۲)

(حضرت ابن عباس رض نے فرمایا کہ عورتوں پر نہ اذان ہے نہ اقامت۔)

حضرت انس رض کا اثر

« عن معتمر بن سليمان عن أبيه : كنا نسأل أنساً رض : هل على

النساء أذان وإقامة؟ قال: لا ، وإن فعلن فهو ذكر » (۳)

(حضرت سليمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رض سے پوچھتے کہ کیا عورتوں پر اذان واقامت ہے؟ وہ فرماتے کہ نہیں اور اگر وہ کر لیں تو یہ ذکر ہو گا ان حضرات صحابہ رض کے اقوال سے معلوم ہوا کہ عورت پر نہ اذان ہے اور اقامت ہے؛ جب کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے اذان واقامت دونوں سنت ہیں، معلوم ہوا کہ عورت کے احکام نماز میں فرق ہے۔

یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر رض جن سے یہاں یہ نقل کیا گیا ہے کہ عورتوں پر نہ اذان ہے اور نہ اقامت، ان ہی سے ایک روایت یہ ہے کہ جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا عورتوں پر اذان ہے؟ تو آپ غصب ناک ہو گئے اور

(۱) عبدالرزاق: ۱۲/۳

(۲) عبدالرزاق: ۱۲/۳

(۳) ابن أبي شيبة: ۲۰۲/۱

فرمایا کہ کیا میں اللہ کے ذکر سے منع کروں؟ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ عورتوں کے لیے بھی اذان و اقامۃت کے قائل تھے۔ (۱)

اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اصل حکم تو آپ نے بیان کر دیا کہ ان پر اذان و اقامۃت نہیں ہے؛ لیکن جب کسی نے اس کا سوال کیا، تو آپ کو ایسا کہنا اچھا نہیں لگا کہ عورتیں اذان و اقامۃت نہ کہیں؛ کیوں کہ ظاہرا یہ ذکر سے منع کرنے کے مشابہ ہے؛ الہذا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے نزد یہ عورتوں کے لیے اذان و اقامۃت مردوں کی طرح سنت ہے، اسی طرح حضرت عائشہ و حضرت حفصة سے، جو اذان یا اقامۃت کہنا ثابت ہے، اس سے بھی سنیت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف جواز معلوم ہوتا ہے۔ (۲)

حضرت ابن مسعود رض کا اثر

«حضرت عبد اللہ بن مسعود رض سے روایت ہے کہ وہ فتنم کھا کر فرماتے تھے کہ عورت کے لیے اپنے گھر سے بہتر نماز کی جگہ کوئی نہیں؛ مگر حج اور عمرہ میں (کہ وہاں مسجد میں پڑھے) سوانے اس عورت کے، جو شوہر سے مایوس ہو گئی ہو (یعنی بوڑھی ہو)، تو وہ مسجد میں پڑھ سکتی ہے» (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو مسجد میں نہیں؛ بل کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل و بہتر ہے، جب کہ مرد کے لیے مسجد افضل ہے۔

یہ کل بارہ آثار و اقوال ہیں، جن سے مرد و عورت کی نماز کے بعض طریقے میں اور بعض احکام میں فرق کا ثبوت ہوتا ہے۔

(۱) ابن أبي شيبة: ۲۰۲/۱

(۲) مجمع الزوائد: ۲/۳۵

(۳) مجمع الزوائد: ۱/۱۵۵

اقوال تابعین عظام

حضراتِ صحابہ کرام ﷺ کے بعد حضراتِ تابعین عظام کا اسلام میں اس اعتبار سے ایک خاص مقام ہے کہ انہوں نے حضراتِ صحابہ کرام ﷺ سے علم قرآن و حدیث حاصل کیا ہے اور دین کے فہم و بصیرت میں ان کو بعد والوں پر ایک گونہ فضیلت ہے، اسی لیے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں بھی صحابہ کے بعد ان ہی حضرات کا درجہ ہے اور اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ (۱)

لہذا صحابہ ﷺ کے اقوال کے بعد حضراتِ تابعین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں، جن سے مردو عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت مجاهد رحمۃ اللہ علیہ کا قول

” عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل
بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة .“ (۲)

(حضرت ليث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مجاهد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ مرد، سجدے میں اپنا پیٹ عورت کی طرح اپنی رانوں پر رکھے۔)

حضرت مجاهد رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی اور ابن عباس رضی اللہ علیہ عنہ کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان کے بارے میں حضرت ليث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد کے لیے عورت کی طرح سجدہ کرنے کو مکروہ فرماتے تھے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک مردو عورت کی نماز کے طریقے میں فرق تھا۔

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳۶۸/۱۳

(۲) ابن أبي شيبة: ۲۲۲/۱

حضرت حسن بصری و حضرت قادہ رحمہمَا اللہ کا قول

”عن الحسن و قتادة رحمہمَا اللہ قالا: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ
فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافِي لَكُنْ لَا تَرْفَعُ
عَجِيزَتِهَا.“ (۱)

(حضرت حسن بصری و حضرت قادہ رحمہمَا اللہ فرماتے ہیں کہ:
عورت جب سجدہ کرے، تو وہ جس قدر ہو سکے ملی ملی رہے اور وہ (اپنے
اعضا کو) نہ کھولے (یعنی مرد کی طرح اعضا کو علیحدہ علیحدہ نہ رکھے
تاکہ اس کی سرین اور پرنہ ہو جائے۔)

حضرت عطاء رحمہمَا اللہ کا فرمان

”عن ابن جریج، قلتُ لعطاء: أَتَشِيرُ الْمَرْأَةَ بِيَدِيهَا
كالرّجَالِ بِالْتَّكَبِيرِ؟ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذَلِكِ يَدِيهَا
كالرّجَالِ، وَأَشَارَ وَخَفَضَ يَدِيهِ جَدًّا، وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ ،
وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هِيَئَةً لَيْسَتْ لِلرّجَالِ“ (۲)

(حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء رحمہمَا اللہ
سے پوچھا کہ کیا عورت مردوں کی طرح تکبیر میں ہاتھ سے اشارہ کرے
گی؟ حضرت عطاء نے فرمایا کہ عورت مردوں کی طرح تکبیر میں ہاتھ نہ
اٹھائے۔ پھر (ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دکھاتے ہوئے) اشارہ کیا، پس اپنے
ہاتھوں کو بہت نیچے رکھا اور ان کو اپنی طرف جمائے رکھا، اور فرمایا کہ
”عورت کے لیے ایک طریقہ ہے، جو مرد کے لیے نہیں ہے۔)

(۱) عبدالرزاق: ۳/۱۳۷

(۲) مصنف عبدالرزاق: ۳/۱۳۷

حضرت عطاء رَحْمَةُ اللَّهِ كا دوسر ا قول

”عن ابن جریج عن عطاء قال: تجتمع المرأة إذا ركعت، ترفع يديها إلى بطنها، وتجتمع ما استطاعت، فإذا سجدت فلتضم يديها إليها، تضم بطنها وصدرها إلى فخذيها ، وتجتمع ما استطاعت“ (۱)

(ابن جریج سے مردی ہے کہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ عورت جب رکوع کرے، تو اپنے آپ کو ملائے، جمائے رکھے، اپنے ہاتھ، پیٹ تک اٹھائے اور جس قدر ہو سکے اپنے کو ملائے رکھے؛ جب سجدہ کرے، تو اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف ملا لے اور اپنے پیٹ اور سینے کو اپنی رانوں سے ملا لے اور جس قدر ہو سکے ملائے رہے)

حضرت عطاء رَحْمَةُ اللَّهِ كا ایک اور قول

”عن ابن جریج عن عطاء قال: تجمع المرأة يديها في قيامها ما استطاعت“ (۲)

(ابن جریج فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے ارشاد فرمایا کہ عورت قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو جس قدر ہو سکتا ہے، اتنا ملائے رکھے) حضرت عطاء رَحْمَةُ اللَّهِ جو ایک بلند پایہ محدث و فقیہ ہیں، ان کے یہ اقوال بتا رہے ہیں کہ عورت کی نماز مرد کے لحاظ سے بعض امور میں مختلف ہوتی ہے، اس کے قیام و رکوع و سجدے کے اركان مرد کی طرح نہیں ہیں۔

(۱) مصنف عبدالرزاق: ۱۳۷/۳

(۲) مصنف عبدالرزاق: ۱۳۷/۳

حضرت ابراہیمؑ کا بیان

”عن ابراہیم قال: كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها و بطنها على فخذيها إذا سجدت، ولا تتجافي‘ كما يتتجافي‘ الرجل لكي لا ترفع عجيزتها.“ (۱)

(حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں: عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ اور پیٹ کو سجدہ کرتے وقت اپنی رانوں پر رکھے اور مرد کی طرح نہ کھلے، تاکہ اس کی سرین اور پرنہ ہو جائے۔)

حضرت ابراہیمؑ کا دوسرا قول

”عن ابراہیم قال: إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجافي‘ كما يتجافي‘ الرجل.“ (۲)

(عورت سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا لے اور سرین نہ اٹھائے اور مرد کی طرح اعضا الگ الگ نہ کرے)

امام ابراہیمؑ معروف تابعی ہیں اور اپنے زمانے کے ایک معتر
محمدث بھی ہیں اور فقیہ بھی، ان کے ان اقوال سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ
عورت و مرد کی نماز میں فرق ہے۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ
عورتوں پر اقامت نہیں ہے۔“ (۳)

(۱) مصنف عبدالرزاق: ۱۳۷/۳ (۲) ابن أبي شيبة: ۱/ ۲۲۲

(۳) مصنف عبدالرزاق: ۱۲۷/۳

امام زہری رَحْمَةُ اللَّهِ كافرمان

حضرت امام زہری رَحْمَةُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ عورتوں پر اقتامت نہیں ہے۔ (۱)

حضرت حسن بصری اور سعید بن الحسین کا قول

حضرت حسن بصری اور سعید بن الحسین کا ارشاد ہے کہ عورتوں پر نہ اذان ہے اور نہ اقتامت ہے۔ (۲)

حضرت ابراہیم بن خنفی رَحْمَةُ اللَّهِ کا ارشاد

حضرت ابراہیم بن خنفی فرماتے ہیں کہ عورتوں پر اذان اور اقتامت نہیں ہے۔ (۳)

حضرت خالد بن الجلاح رَحْمَةُ اللَّهِ کا بیان

”عن خالد بن اللجالج قال: كن النساء يومئون أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ، ولا يجلسن جلوس الرجل على أوراكهن ، يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء.“ (۴)

(حضرت خالد بن الجلاح تابعی رَحْمَةُ اللَّهِ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ جب نماز میں بیٹھیں، تو چار زانو بیٹھیں اور مردوں کی طرح اپنی سُرین پر نہ بیٹھیں، عورت کو اس سے اس اندر لیشے کی وجہ سے بچایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے) حضرت خالد بن الجلاح رَحْمَةُ اللَّهِ ایک معروف تابعی ہیں اور بعض نے تو ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ وہ بتار ہے ہیں کہ عورتوں کو چار زانو بیٹھنے کا حکم دیا جاتا تھا اور عورت کو مرد کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔

(۱) ابن أبي شيبة: ۱/۲۰۲، عبد الرزاق: ۳/۱۲۷

(۲) ابن أبي شيبة: ۱/۲۰۲، عبد الرزاق: ۳/۱۲۷

(۳) ابن أبي شيبة: ۱/۲۰۲، عبد الرزاق: ۳/۱۲۷

(۴) ابن أبي شيبة: ۱/۲۳۲

یہ چند حضراتِ تابعین کے اقوال ہیں، جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ عورت و مرد کی نماز میں فرق ہے اور عورت کو مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔

احادیث و آثار کا مقصد

اوپر جو احادیث و آثار ذکر کیے گئے ہیں، ان میں غور کرنے، ان کے مجموعے پر نظر ڈالنے اور ان میں پائے جانے والے بعض اشاروں پر تحقیق و تدقیق سے کام لینے سے، خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب کا مقصد اور منشایہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ مستور اور پوشیدہ رہے، اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر سکون، ہر طریقہ کار پرده اور ستر کا ضمن ہو، وہ مرد کی طرح بے تحاشا گھل نہ جائے، بے دھڑک کوئی فعل عمل نہ کرے؛ بل کہ وہ حتی الامکان ڈبی ڈبی، ملی ملی، چمٹی چمٹی، چھپی چھپی، نماز ادا کرے، یہی بنیادی نکتہ ہے، جس پر مرد و عورت کی نماز کا فرق بیان کیا گیا۔

اس کی تائید حضرت عطا کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، جو آپ نے حضرت ابن جرج صحیح کے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ کیا عورت جب دور کعت پر بیٹھے تو اپنے بائیں جانب پر بیٹھے؟ فرمایا کہ ہاں، ابن جرج صحیح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا یہ آپ کے نزدیک اس کے دائیں جانب پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ جس قدر ہو سکے سمت کر بیٹھے، ابن جرج صحیح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ عورت دور کعتوں پر مرد کی طرح بیٹھے یا اپنا بایاں پیر سرین کے نیچے سے نکال دے؟ فرمایا کہ ان میں سے کوئی صورت بھی اس کے لیے نقصان دہ نہیں بشرطیکہ وہ سمت کر رہے۔^(۱)

(۱) ابن أبي شيبة: ۱/۲۳۲

اس میں حضرت عطاء نے عورت کی نماز کا وہ بنیادی و مرکزی نقطہ بیان کر دیا ہے، جس پر عورت کی نماز کا طریقہ قائم ہے اور وہ ہے ستروپردے کا لحاظ، اس لیے جس صورت و شکل میں یہ بات زیادہ حاصل ہوگی، وہ اس کے حق میں مطلوب ہوگی۔

عورت کے سجدے کی کیفیت اور اس کی حکمت

مثلاً احادیث رسول ﷺ کے تحت ہم نے دونبر پر جو حدیث پیش کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ”عورت سجدے میں پیٹ کوراؤں سے ملا کر رکھے اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے“، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کامنشاً عورت کو مذکورہ کیفیت سے سجدہ کرنے کا حکم دینے سے یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستورو پوشیدہ رہے۔

عورت کو ”سبحان الله“ کہنے سے منع کرنے کی وجہ

اسی طرح ساتویں حدیث، جو بخاری و مسلم کے حوالہ سے گذری ہے، اس میں آپ ﷺ نے عورتوں کو ضرورت کے موقع پر تالی بجائے کی اجازت دی ہے اور ”سبحان الله“ کہنے کی اجازت نہیں دی؛ بل کہ مردوں کے ساتھ اس کو مخصوص قرار دیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت کا آواز بلند کرنا ستر اور پردے کے خلاف ہے۔ چنانچہ محدث جلیل حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

”وَكَانَ مَنْعُ النِّسَاءِ مِنَ التَّسْبِيحِ لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِخَفْضِ

صوْتِهَا فِي الصَّلَاةِ مَطْلُقاً لِمَا يَخْشِيُّ مِنَ الْإِفْتِنَانِ“ (۱)

(عورتوں کو سبحان الله کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کو فتنے

(۱) فتح الباری: ۳/۷۷

کے اندر یہ شے سے نماز میں مطلقاً اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے)
اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں:

” وإنما كره لها التسبیح لأن صوتها فتنۃ، ولهذا منعْ
من الأذان والإمامۃ والجھر بالقراءۃ فی الصلاۃ“ (۱)

(عورتوں کو سبحان اللہ کہنا اس لیے مکروہ ہے کہ ان کی آواز فتنہ ہے،
اسی لیے ان کو اذان دینے، امامت کرنے اور نماز میں زور سے قرأت
کرنے سے منع کیا گیا ہے)

علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”إنما كره التسبیح للنساء، وأبیح لهن التصفیق من أجل
أن صوت المرأة رخیم في أكثر النساء ، وربما شغلت
صوتها الرجال المصلین معها“ (۲).

(عورتوں کے لیے سبحان اللہ کہنا مکروہ اور تالی بجانا جائز اس لیے ہوا کہ
عورت کی آواز اکثر کے لحاظ سے نرم ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی آواز،
اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے مردوں کو اپنے میں مشغول کر سکتی ہے۔)
اور شارح موطاً علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”وقال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو
الصحيح خبراً ونظراً لأنها مأمورة بخض صوتها في
الصلاۃ مطلقاً لما يخشى من الإفتنان.“ (۳)

(۱) عمدة القاري في شرح البخاري: ۷/۲/۱۲

(۲) التمهید: ۲۱/۱۰۸

(۳) شرح الموطا للزرقانی: ۱/۲۷

(قرطبی نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تالی بجائے کی مشروعتیت ہی صحیح قول ہے، نقلًا بھی عقلًا بھی؛ کیوں کہ ان کو فتنے کے اندیشے سے نماز میں مطلقاً اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے)

فقہا میں سے علامہ ابن نجیم اور علامہ ابن الہمام رحمہم اللہ وغیرہ نے بھی یہی بات اس حدیث کے بارے میں فرمائی ہے۔ (۱)

عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کے حکم کی مصلحت

اور پانچ نمبر پر ابو داؤد کی جو روایت درج کی گئی ہے، اس میں عورت کو گھر میں بھی اندر کے حصوں میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی وہی پرداہ ہے۔ چنانچہ مشہور و معروف محدث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شرح ابو داؤد میں اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ عورت کے احکام کا مبنی ستر اور پردے پر ہے اور گھر میں نماز پڑھنے میں اس کے پردے اور ستر کا کمال ہے۔ (۲)

عورتوں کی آخری صفات افضل کیوں؟

نمبر چھ پر جو حدیث گزری ہے، جس میں عورتوں کی پہلی صفت کو بدتر اور آخری صفت کو بہتر قرار دیا ہے، اس کی وجہ میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جو عورتیں مردوں کے ساتھ جماعت میں حاضر ہوں، ان کی آخری صفوں کو افضل قرار دیا گیا ہے؛ کیوں کہ اس صورت میں عورتیں مردوں سے اختلاط، ان کو دیکھنے اور ان کے حرکات وغیرہ سے ان کی طرف دل مائل ہونے سے دور اور محفوظ ہوں گی۔“ (۳)

(۱) دیکھو: فتح القدیر: ۱/۲۶۰، بحر الرائق: ۱/۲۷۰، شامی: ۱/۳۶

(۲) بذل المجهود شرح أبي داؤد: ۱/۳۲۰

(۳) شرح مسلم للنووی ۱/۱۸۲

اوپر کی تفصیلات سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ان سب احادیث و آثار کا مقصد و منشا عورت کو پرداز کرنے میں رکھنا ہے، جیسا کہ اس کی فطرت و مزاج کا تقاضا ہے۔

امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ كا زر میں ارشاد

یہاں تک پہنچے کے بعد مجھے حضرت سیدنا امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ کی کتاب "الأم" دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں امام موصوف نے عورت کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، وہی بات ارشاد فرمائی ہے، جو اوپر بیان ہوئی۔ میں اس کو یہاں آپ ہی کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں؛ چنانچہ فرماتے ہیں:

"وَقَدْ أَدْبَبَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ بِالِّسْتَارِ، وَأَدْبَبُهُنَّ بِذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَبَّ لِلمرأةِ فِي السُّجُودِ أَنْ
تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَلْصِقَ بَطْنَهَا بِفَخِذِيهَا، وَتَسْجُدَ
كَأْسْتِرٍ مَا يَكُونُ لَهَا، وَهَكُذا أَحَبَّ لَهَا فِي الرَّكْوعِ،
وَالجلوسِ، وَجَمِيعِ الصلوةِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَأْسْتِرٍ مَا يَكُونُ
لَهَا، وَأَحَبَّ أَنْ تَكْفُتَ جَلْبَابَهَا، وَتَجَافِيهِ رَاكِعَةً وَسَاجِدةً
عَلَيْهَا لَثَلَاثَ يَصْفَهَا ثِيَابَهَا۔" (۱)

(تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پوشیدہ اور مستور رہنے کی تعلیم دی ہے اور رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی ان کو اس کی تعلیم دی ہے اور عورت کے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ وہ سجدے میں اپنے بعض حصے کو بعض سے اور اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے اور اس

(۱) کتاب الأم للإمام للشافعی رَحْمَةُ اللَّهِ : ۱/ ۱۱۵

طرح سجدہ کرے کہ اس کے حق میں زیادہ سے زیاد پڑھے ہو جائے؛ نیز اسی طرح آپ ﷺ نے عورت کے لیے رکوع اور جلسے اور پوری نماز میں اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ وہ اس انداز سے نماز پڑھے کہ زیادہ سے زیادہ مستور و پوشیدہ رہے اور یہ بھی پسند فرمایا کہ وہ اپنی چادر کو سمیٹ لے اور چادر کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اپنے اوپر ڈھیلار کھے، تاکہ اس کے کپڑے (چست ہونے کی وجہ سے) اس کی تصویر نہ کھینچیں)

حاصل کلام یہ کہ ان احادیث اور آثار سے بطور قدر مشترک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے اور یہ فرق اس بات پر منی ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ مستور و پوشیدہ رہے۔

ایک ضروری وضاحت

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ”پردہ“ جس کو عربی میں حجاب کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم مرد کے سامنے نہ آئے اور ”ستر“ جس کا ہماری اوپر کی تحریر میں بار بار ذکر آیا ہے، اس سے یہ حجاب مراد نہیں ہے؛ بل کہ ستر کا تعلق خود عورت کی ذات سے ہے، خواہ کوئی مرد سامنے ہو یا نہ ہو، جیسے خود مرد کے لیے بھی ستر کا حکم ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ چھپائے رکھے اور نماز میں بھی اس کا چھپانا ضروری ہے، خواہ رات کی اندر ہیری میں، یا تنہا کسی جگہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ معلوم ہوا کہ ستر کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے، خواہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اسی طرح عورت کے حق میں ستر کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس کے یہی معنے ہیں کہ وہ حتی الامکان اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے اور اپنے افعال و حرکات سے بھی بے پر دگی ظاہرنہ ہو اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، بہر حال اس کے لیے یہ حکم

عورت کی نماز-حدیث اور فقہ کی روشنی میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ وہ نماز میں سراپا شرم و حیا بی ہوئی ہو، یاد رہے کہ لغت میں ”ستر“ کے ایک معنی حیا اور شرم کے بھی آتے ہیں؛ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”مال فلاں سُتُرٌ ولا حِجْرٌ“ (یعنی فلاں کونہ حیا ہے نہ عقل ہے)، اس میں ستر سے مراد حیا ہے اور حجر سے مراد عقل ہے۔ (۱)

حضراتِ علماء کا ادراک و فہم

اسی مشاہد و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے حضراتِ علماء ائمہ نے جہاں عورت کی نماز کا طریقہ اور دیگر احکام بیان فرمائے ہیں، وہاں انہوں نے ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھا ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ مستور و پوشیدہ رہے اور اس کے ارکان و افعال کی ادائیگی کی ستر و پردے کی ضامن ہو۔ یہ دراصل ان حضرات کے درک و فہم کا نتیجہ اور ان کی درایت و تفکّہ کا ثمرہ ہے، اسی تفکّہ و درایت سے کام لیتے ہوئے ”سیدنا امام اعظم“ رَحْمَةُ اللَّهِ کے شاگرِ درشید ”حضرت امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ“ نے فرمایا کہ ضرورت کے موقع پر نماز میں عورت کو، جوتا لی بجانے کی اجازت دی گئی ہے، اگر عورت اس کو بھی ترک کر دے، تو ہمارے نزدیک بہتر اور پسندیدہ بات ہے۔ (۲)

ممکن ہے تفکّہ و درایت سے خالی اور محروم، کسی شخص کو امام محمد رَحْمَةُ اللَّهِ کی یہ بات حدیث کے خلاف نظر آتی ہو؛ مگر خداوند تعالیٰ نے جس کو نورِ بصیرت اور دیدہ حقیقت بیس عطا فرمایا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف نہیں؛ بل کہ مشائی حدیث کے عین مطابق ہے؛ کیوں کہ عورت کو جب ”سبحان الله“ کہنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اس کی آواز سے فتنے کا اندیشہ ہے، تو تا لی بجانے سے پرہیز کرنا، اس مشائی نبوی کی تکمیل ہی ہوگی، نہ کہ اس کی خلاف ورزی، بہر حال! ائمہ و علماء نے

(۱) لسان العرب: ۳۲۲/۲

(۲) کتاب الآثار: ۲۵

اس منشا کو خوب سمجھ کر ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھا ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

ایک حقیقت

مگر ایک بات یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان ائمہ و علمانے نے محض اپنی رائے اور قیاس سے نماز کا طریقہ مقرر نہیں فرمادیا؛ بل کہ بات یہ ہے کہ نماز ایک عملی چیز ہے، جس کو صحابہ سے تابعین، پھر ان سے ان کے بعد آنے والے لوگ عملی طریقے پر یہکے بعد دیگرے لیتے آئے ہیں، اس طرح یہ طریقہ نماز آج تک توارث و تعامل سے چلا آرہا ہے اور اس طریقے کا صحیح ہونا، ان علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، جنہوں نے اب سے بہت پیشتر تابعین و تبع تابعین سے اس کو حاصل کر کے اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے؛ لہذا ہر ہر جزیئے کا، حدیث میں ملنا کوئی ضروری نہیں؛ بل کہ یہ متواتر عمل ہی اس کے لیے کافی وافی ثبوت ہے اور اس کی صحت پر وہ چند احادیث و آثار صاف و واضح دلیلیں ہیں، جو اور پر ذکر کیے گئے ہیں۔

عورت اور مرد کی نماز میں فرق کے بارے میں

دیگر ائمہ کا مسلک

اس رسالے میں اصل مقصود احناف کا مسلک بیان کرنا ہے، اس لیے جہاں ہم آگے چل کر طریقہ نماز بیان کریں گے، تو احناف ہی کے نقطہ نظر سے اس کو پیش کریں گے؛ لیکن جب یہاں یہ بحث آگئی ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بات دیگر ائمہ کے کلام سے بھی ثابت کر دی جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق کے صرف احناف ہی قائل

نہیں؛ بل کہ دیگر ائمہ بھی اس کے قائل ہیں۔

ہم نے اوپر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پیش کی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرد و عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور تصریحات بھی ملاحظہ فرمائیں۔

شافعی مسلک

شافعی مسلک کے مشہور و معروف فقیہ و محدث علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”المنهاج“ میں مرد کا طریقہ نماز بتانے کے بعد فرماتے ہیں:

”وتضم المرأة والختنی“ (کہ عورت اور مختنث اعضا کو ملائے رکھے) (۱)

”مغني المنهاج شرح المنهاج“ میں اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے:

”أي بعضها إلى بعض في ركوعهما وسجودهما ، بأن

تلصقا بطنهما بفخديهما ، لأنه أستر لها وأحوط له“ . (۲)

(وہ دونوں (عورت و ختنی) بعض اعضا کو بعض سے ملائیں، اپنے

ركوع اور سجدے میں، اس طرح کہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے

ملادیں؛ کیوں کہ یہ عورت کے لیے زیادہ پردے کا سبب اور ختنی کے

لیے زیادہ احتیاط کا باعث ہے)

روضۃ الطالبین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع کی کیفیت میں لکھا ہے :

”ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، ولا تجافي المرأة

والختنی!“ . (۳)

(۱) المنهاج على هامش مغني المحتاج: ۱/۳۷۲

(۲) مغني المحتاج: ۱/۳۷۱

(۳) روضۃ الطالبین: ۱/۲۵۰

(مرد اپنی کہنیوں اپنے بازوں سے الگ رکھے اور عورت الگ نہ رکھے اور نہ خشی الگ رکھے)

اور اسی میں سجدے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

” وَيُرْفَعُ الرَّجُلُ مِنْ رَفِيقِهِ عَنْ جَنْبِيهِ وَبَطْنِهِ عَنْ فَخْدِيهِ،
وَالْمَرْأَةُ تَضْمُنُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ .“ (۱)

(مرد اپنی کہنیوں کو اپنے بازوں سے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اٹھا کر رکھے اور عورت بعض حصے کو بعض سے ملا کر رکھے)

اسی طرح شافعی مسلک کے معروف عالم ”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ“ نے ”احیاء العلوم“ اور ”بداية الہدایہ“ میں مرد و عورت کی نماز میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ عورت رکوع میں اپنی کہنیوں کو بازوں سے ملا کر رکھے اور مرد الگ کر کے رکھے اور سجدے میں عورت مرد کی طرح کہنیوں کو بازوں سے الگ اور پیروں کے درمیان جگہ نہ رکھے؛ بل کہ ملا کر رکھے۔ (۲)

مالکی مسلک

ابن ابی زید کے رسائل کی شرح میں ابو الحسن مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”(وَهِيَ) أَيِّ امْرَأَةٍ (فِي هِيَةِ الصَّلَاةِ مِثْلُهُ) أَيِّ مُثْلِ الرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا تَنْضَمُ ، وَلَا تَفْرَجُ فَخْدِيهَا ، وَلَا عَضْدِيهَا ، وَتَكُونُ مَنْضُمَةً مَنْزُوْيَةً فِي جَلْوَسِهَا وَسَجْوَدَهَا وَأَمْرَهَا كَلْهَ.“ (۳)

(۱) روضۃ الطالبین: ۱/ ۲۵۰

(۲) إحياء العلوم: ۱/ ۱۵۲، بداية الہدایہ علی ہامش مراقبی العبودیۃ: ۳۶ - ۳۷

(۳) شرح الرسالة علی ہامش کفایۃ الطالب الربانی: ۱/ ۲۱۸ - ۲۱۷

(اور عورت نماز کے طریقے میں مردہی کی طرح ہے؛ مگر وہ مل ملا کر نماز پڑھے اور اپنی رانیں اور بازوں کھول کر نہ رکھے اور جلسہ، سجدہ اور تمام حالات میں ملی ہوئی اور سُکرطی ہوئی ہو)

نیز نماز میں عورت کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی؟ اس کے بارے میں امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے: ”وَهُوَ مَرْدٌ سَمِّيٌّ كَمْ ہَاتَھٖ اُٹھَائَے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے۔“ (۱)

حنبلی مسلک

امام منصور البهوتی الحنبلي رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلہ کی مشہور کتاب ”المقنع“ کی شرح ”الروض المربع“ میں فرماتے ہیں:

”والمرأة مثله) مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى في رفع اليدين لكن تنضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما، فلا تتجافي، وتسلد رجلها في جانب إذا جلست، وهو أفضل أو مترا Burke، وتسر بالقراءة وجوهاً، إن سمعها أجنبية.“ (۲)

(عورت تمام امور میں، جو اوپر گزرے ہیں مرد کی طرح ہے، حتیٰ کہ رفع یدین میں بھی؛ لیکن وہ اپنے آپ کو رکوع، سجدے اور دوسرا امور میں ملائے رکھے؛ لہذا (مرد کی طرح) کھل نہ جائے اور جب بیٹھے، تو پیروں کو ایک طرف نکال دے اور یہ افضل ہے، یا چوز انوبیٹھے اور اگر کوئی اجنبي سن رہا ہو، تو قرأت و جوبي طور پر آہستہ کرے)

(۱) الشمر الداني شرح رسالۃ القیروانی: ۱/۱۰۲، کفاية الطالب الربانی: ۱/۳۲۷

(۲) الروض المربع: ۱۸۳

نیز علامہ ابن الجوزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”احکام النساء“ میں فرمایا کہ

”والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع، والسجود، وتسدل رجليها في الجلوس، ف يجعلها في جانب يمينها ، أو تجلس متربعة۔ (۱)

(اور عورت اُن تمام باتوں میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، مرد ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ وہ رکوع اور سجدہ میں اپنے آپ کو سمیٹے گی، اور بیٹھنے میں اپنے پیروں کو دہنی جانب نکال دے گی، یا چوز انوں بیٹھے گی)

عورت نماز میں زور سے قرأت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں فقہ حنبلی کی معروف و مستند کتاب ”المبدع“ میں لکھا ہے:

”وَأَمَا الْمَرْأَةُ فِإِنْ لَمْ يَسْمَعْهَا أَجْنبِيٌّ، فَقَبِيلٌ: تَجَهِّرُ كَالرَّجُلِ ، وَ قَبِيلٌ: يَحْرُمُ، قَالَ أَحْمَدٌ: لَا ترْفَعُ صَوْتَهَا، قَالَ الْقَاضِيُّ: أَطْلُقُ الْمَنْعَ . (۲)

(اور ہی عورت، تو اگر کوئی اجنبی نہ سن رہا ہو، تو کہا گیا ہے کہ وہ مرد کی طرح زور سے پڑھے اور کہا گیا کہ زور سے پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ”وہ اپنی آواز بلند نہ کرے“، قاضی نے فرمایا کہ ”امام احمد نے یہ بات مطلقًا بیان کی ہے“)

اور اسی ”المبدع“ میں عورت کی نماز کا طریقہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها

(۱) احکام النساء: ۲۶

(۲) المبدع: ۲۲۲/۱

فی الرکوع والسجود، وجلس متربعةً، وتسلد رجليها،
فتجعلهما في جانب يمينها۔ (۱)

(اور عورت اُن تمام باتوں میں مرد ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی اور بیٹھنے میں چوڑانوں بیٹھنے کی یا اپنے پیروں کو دہنی جانب نکال دے گی)

ہم نے یہاں شافعی، مالکی و حنبلی تینوں مسالک کی معتبر و مستند کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان تمام مسالک میں بھی مردو عورت کی نماز میں فرق کو تسلیم کیا گیا ہے اور احتجاف کا مسلک تو واضح ہے! اور اس رسالے میں بھی اسی پر بحث ہے؛ لہذا انہم اربعہ کے مسالک میں یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کی گئی ہے کہ مردو عورت کی نماز میں فرق ہے؛ البتہ وہ کیا کیا فرق ہیں؟ اور عورت کی نماز کی مکمل صورت کیا ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے؛ چنانچہ بعض جزئیات میں اس بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے؛ مگر یہ بحث اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے؛ کیوں کہ یہاں صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ مردو عورت کی نماز میں فرق ایک متفقہ بات ہے اور تمام فقہاء نے اس کا لحاظ کیا ہے اور یہ بات الحمد للہ خود ان مسالک کی معتبر کتب سے بخوبی ثابت ہو گئی؛ لہذا ہم آگے صرف حقیقہ کی رو سے عورت کی نماز کا طریقہ و احکام پیش کریں گے۔

عورت کی نماز کا طریقہ

اب ہم فقہاء کرام کے کلام سے فقہ حنفیہ کے مطابق عورت کی نماز کا طریقہ بیان کریں گے؛ مگر چوں کمکمل طریقہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں؛ بل کہ صرف ان موقعوں کو بتانا ہے، جن میں مردو عورت کی نماز میں فرق ملحوظ رکھا گیا ہے؛ لہذا ان

(۱) المبدع: ۳۲۳/۱:

موقوں کو بیان کرنے پر اکتفا کریں گے اور ساتھ ہی مرد کے لیے ان موقوں کا کیا حکم ہے، اس کو بھی پیش کریں گے۔

تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، مرد کے لیے تو کانوں کی لوٹک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائے۔ (۱)

اس کی تائید حضرت ام درداء صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ خاتون کے عمل سے ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کندھوں تک اٹھاتی تھیں، جیسا کہ اس کا حوالہ گزر چکا ہے؛ نیز ایک مرفوع حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس کو طبرانی نے حضرت وائل بن ججر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرد اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورت اپنی چھاتیوں تک اٹھائے۔ (۲)

علامہ پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی یا مترجمی بنت عبد الجبار ہے جس کو میں نہیں جانتا اور باقی راوی سب ثقہ ہیں۔ (۳)

الہذا یہ روایت ایک راوی کے مجھوں ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گی، تاہم تائید و تقویت کے لیے می جاسکتی ہے اور موئذھوں اور چھاتیوں میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے دور روایتوں میں اختلاف کا شہنشہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی سن لیجیے کہ عورت کے لیے علمانے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ وہ موئذھوں تک ہاتھ اٹھائے؟ اس

(۱) البحر الراائق: ۱، الهدایہ: ۸۲/۱، بدائع الصنائع: ۱/۱۱۹۔ الجوهرة النيرة: ۱/۱۰۷، شامی: ۱/۵۰۲

(۲) المعجم الكبير للطبراني: ۲۲/۱۹

(۳) مجمع الزوائد: ۲/۱۰۳

کی وجہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اس میں عورت کے لیے زیادہ پرداہ ہے۔ (۱)

ہاتھ باندھنے کا طریقہ

تلکپیر تحریک کے بعد قیام میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، مردوں کے لیے اس کا مسنون طریقہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلائی پر حلقة بنالے اور عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ”وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی با پیسہ ہاتھ کی پشت پر سینے کے اوپر رکھے اور حلقة نہ بنائے؛ بلکہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ لے۔“ (۲)

اور اس کی وجہ بھی وہی ہے، جو اور پر عرض کر چکا ہوں کہ اس میں عورت کے لیے زیادہ پرداہ ہے؛ چنانچہ علامہ ابن حجّم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”لأنه أستر لها، فيكون في حقها أولى“ (۳)

(کیوں کہ یہ عورت کے لیے زیادہ پرداے کا سبب ہے؛ لہذا اس کے حق میں یہ بہتر ہوگا)

اسی طرح علامہ عبدالحکیم لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ شرح وقایہ میں فرماتے ہیں کہ ”ہمارے احباب نے عورت کے لیے اس کو اختیار کیا ہے؛ کیوں کہ ہاتھ کا سینہ پر رکھنا عورت کے حق میں زیادہ پرداے کا سبب ہے۔“ (۴)

رکوع کا طریقہ

رکوع کا طریقہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ:

(۱) الہدایہ: ۱/۸۲

(۲) البحر الرائق: ۱/۳۳۹، الجوهرة النيرة: ۱/۵۷، در مختار مع الشامي: ۱/۳۸۷، الفقه على المذاهب الأربعة: ۱/۲۲۲

(۳) البحر الرائق: ۱/۳۰۳

(۴) عمدة الرعایة: ۱/۱۲۲

- (۱) پورے طور پر جھک جائے کہ گردن پیٹھ اور سرین ایک سیدھ میں ہو جائیں۔
 - (۲) دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پکڑ لے اور انگلیاں کھلی رکھے۔
 - (۳) بازوں کو اپنے پہلو سے جدار کھے۔
 - (۴) گھٹنے موڑ کرنہ رکھے؛ بل کہ بندیوں کی طرح سیدھا رکھے۔
- اس کے برخلاف، عورت اس طرح رکوع کرے:

”وہ پورے طور پر نہ بھکے؛ بل کہ ذرا سا بھکے، گھٹنوں کونہ پکڑے؛ بل کہ صرف ان پر ہاتھ رکھے اور انگلیاں ملا کر رکھے، بازو بھی پہلو سے ملا دے اور گھٹنوں کو موڑ کر رکھے۔“ (۱)

اور ان سب امور کی وجہ بھی پر دے ہی کا اہتمام ہے؛ چنانچہ علامہ شامي رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بحوالہ ”معراج الدرایہ مجتبی“ سے نقل کرتے ہیں کہ ”اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اس میں زیادہ پر دہ ہے“۔ اسی طرح علامہ عبدالرحمن الجزری رحمۃ اللہ علیہ بھی ”الفقه علی المذاہب“ میں ان امور میں سے بعض کو ذکر کر کے ان کی وجہ یہی پر دے کی بات بتاتے ہیں۔

سجدے کا طریقہ

مرد سجدہ اس طرح کر کے

- ۱- تمام اعضا جد اجذب اہوں، ہاتھ بغلوں سے اور انہیں پیٹ سے الگ ہوں۔
 - ۲- سرین کا حصہ اور پر کی طرف ہو۔
 - ۳- ہاتھز میں پر نہ بچھائے؛ بل کہ اٹھائے رکھے۔
 - ۴- پیروں کے پنج کھڑا کر کے ان کی انگلیاں قبلہ کی طرف کر دے۔
- اور عورت ان تمام امور میں مرد سے مختلف ہے؛ چنانچہ اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ

اس طرح کرے کے

۱- اس کے تمام اعضا ملے ہوئے ہوں، ہاتھ بغلوں سے، رانیں پیٹ سے ملی

ہوئی ہوں۔ (۱)

اس کی وجہ علامہ حصلفی رحمۃ اللہ علیہ نے درختار میں یہ لکھا ہے کہ اس میں عورت کے لیے زیادہ پرودہ ہے۔ (۲)

اور کتب شوافع میں سے ”مغنى المحتاج“ میں بھی یہی لکھا ہے، جیسا کہ اس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔

۲- سُرین کے حصے کو اوپر کی طرف نہ اٹھائے؛ بل کہ اپنے جسم کو حتی الامکان زمین سے ملا کر پست رکھے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، جو پہلے نمبر پر بحوالہ ”مرا سیل“، ہم نے درج کی ہے۔

۳- اپنے ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر رکھے، مرد کی طرح اٹھا کرنے رکھے۔ (۳)

رقم کہتا ہے کہ بعض حدیثوں میں جو آیا ہے: ”وَكَانَ يَنْهَا إِنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ“ (۴)

(رسول اللہ ﷺ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ مرد اپنے ہاتھ بچھا دے) اس سے شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہاتھ نہ بچھانے کا حکم مرد کے لیے

(۱) الدر المختار مع الشامي: ۱/۵۰۳، الفقه على المذاهب: ۱/۳۱۲، كنز الدقائق: ۲۵، البحر الرائق: ۱/۳۳۹

(۲) الدر المختار مع الشامي: ۱/۳۰۵، نيز البحر الرائق: ۹/۳۳۹، بدائع الصنائع: ۱/۲۱۰

(۳) الشامي: ۱/۵۰۳، بدائع الصنائع: ۱/۲۱۰

(۴) مسلم: ۱/۱۹۵

عورت کی نماز-حدیث اور فقہ کی روشنی میں

ہے، عورت کے لیے نہیں۔

۲- اپنے دونوں پیر ایک طرف (دہنی طرف کو) نکال دے اور اپنے پیروں

کو کھڑانہ کرے۔ (۱)

بیٹھنے کا طریقہ

نماز میں بیٹھنے کا طریقہ مرد کے لیے یہ ہے کہ

”وہ اپنا بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر انگلیوں کے بل کھڑا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف کر دے اور ہاتھ کی نگلیاں گھٹنوں کے قریب ذرا کھول کر رکھئے۔“

اور عورت کے لیے طریقہ یہ ہے کہ

”وہ اپنی سُرین کے بل زمین پر بیٹھئے اور اپنے دونوں پاؤں کو دہنی طرف نکال دے اور ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھئے۔“ (۲)

صاحب ہدایہ و صاحب بداع عورت کو اس طرح بیٹھنے کا حکم دینے کی وجہ وہی بیان کرتے ہیں کہ اس میں عورت کے لیے زیادہ پرودھ ہے۔ (۳)

مولانا ایوب ندوی صاحب کے شبہ کا جواب

عورت کے سجدے کی جو کیفیت لکھی گئی ہے، اس پر مولانا ایوب صاحب ندوی بھٹکلی نے ایک اشکال کیا ہے، یہاں مناسب ہے کہ اس کا بھی جواب رقم کر دیا جائے

(۱) البحر الرائق: ۱/۲۳۱، شامی: ۱/۵۰۲، بہشتی زیور: ۲/۱۶

(۲) الشامی: ۱/۴۰۵. البحر: ۱/۳۲۱، الجوهرة: ۱/۵۷، الآثار للإمام محمد

: ۳۸۵، الہدایہ: ۱/۹۳، الأشباه مع الحموی: ۳/۳۸۵

(۳) الہدایہ: ۱/۹۳، بداع الصنائع: ۱/۲۱۱

مولانا کا کہنا ہے کہ حنفی عورتیں سجدے میں جو دونوں پیروں کو دا ہنی جانب نکال کر تورک کے ساتھ سجدہ کرتی ہیں، یہ صحیح نہیں۔

ایک تو اس لیے کہ بات خود حضراتِ فقہائے حنفیہ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتی اور کسی نے اس کو نہیں لکھا ہے۔

دوسرے اس لیے کہ اس کیفیت کے ساتھ سجدہ کرنے سے زمین پر گھٹنے نہیں لگتے، حالاں کہ حدیث میں سات اعضا پر سجدے کا حکم ہے۔

تیسرا اس لیے کہ سجدے میں مرد کی طرح عورت کو بھی پیروں کی انگلیاں قبلہ روکھنا سنت ہے اور تورک کے ساتھ سجدہ کرنے میں یہ سنت چھوٹ جاتی ہے۔

چوتھے اس لیے کہ فقہائے عورت اور مرد کی نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”لاتنصب أصابع القدمين“ (عورت قدم کی انگلیاں کھڑے نہ کرے) اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت قدم تو کھڑا رکھے گی؛ مگر انگلیاں موڑ لے گی اور مرد جو طریقے میں قدم ہی بچھادیے جاتے ہیں، جو اس عبارت کے خلاف ہے یہ خلاصہ ہے ان کے اشکالات کا جوانہوں نے احقر کے ایک پروگرام میں ”بھٹکل“ حاضری کے موقع پر ملاقات کے دوران پیش کیا؛ لہذا ان کے مطابق عورت بھی مرد ہی کی طرح سجدہ کرے؛ البتہ مرد سرین کو اونچا کرے گا اور عورت سرین کو پست رکھے گی۔

الجواب : اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث اور فقہاء کے کلام میں ہمیں اس سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ عورت کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ سجدے میں خوب سمت جائے اور دبی دبی اس طرح سجدہ کرے کہ زمین سے اس کا جسم مل جائے اور پیٹ رانوں سے اور بازو پہلو سے مل جائیں؛ کیوں کہ اس میں اس کے لیے ستر کا زیادہ اہتمام ہے اور یہی اس سے مطلوب ہے۔

اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر عورت تو رک کرتے ہوئے سجدہ کرے تو یہ بات اس کو زیادہ حاصل ہے یا اس کے بغیر؟ ظاہر یہی ہے کہ تو رک کرتے ہوئے سجدہ کرنے میں زمین سے جسم کا چمٹنا اور جسم کا دبے رہنا زیادہ پایا جاتا ہے؛ لہذا اسی کو احادیث اور فقہاء کے کلام کی روشنی میں سمجھایا گیا اور اسی کے مطابق عمل جاری ہے۔ اب رہایہ سوال کہ فقہاء نے اس کو نہیں لکھا ہے، یہ بات صحیح نہیں، کیوں کہ جب انہوں نے سمیئنے اور دنبے اور زمین سے جسم کو ملا دینے کی بات لکھی ہے تو اس کا مفہوم ومصدقہ یہ مذکورہ بیت و صورت ہے، اور فقہاء کے کلام سے بعد کے دور کے علماء و مفتیان نے یہی سمجھا ہے؛ چنانچہ علامہ عبدالحی لکھنؤی جیسے محقق نے اور مولانا تھانوی جیسے فقیہ نے اور ان کے علاوہ سبھی علماء نے فقہاء کے کلام کا یہی مطلب سمجھا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ فقہاء نے اس کو لکھا ہے، اگرچہ تو رک کے الفاظ نہیں لکھے، لیکن اس کی جانب مشیر الفاظ لکھے ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہر بات صراحةً کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ بعض مواقع پر اشارے و کنائے بھی مفید مطلب ہوتے ہیں۔

رہایہ سوال کہ اس صورت میں عورت کے گھٹنے زمین پر نہیں لگتے، اور یہ احادیث کے خلاف ہے تو عرض ہے کہ پورے گھٹنے تو مرد کے بھی نہیں لگتے، اور یہ مراد بھی نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ کا لگ جانا کافی ہے، اور کچھ حصہ تو عورت کے گھٹنے کا بھی لگ جاتا ہے اور یہ کافی ہے۔

رہائیں اشیہ کہ اس صورت میں انگلیاں قبلہ رخ نہیں رہتیں تو جواب یہ ہے کہ جب عورت تو رک کرتے ہوئے اپنے دونوں پیروں کو ملا دے تو یہ سنت ایک حد تک ادا ہو جاتی ہے، جیسے خود جلسہ میں بھی یہ انگلیوں کا قبلہ رونکھنا سنت ہے اور تو رک کے ساتھ جلسہ کرنے والے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ اور آخری اشکال کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کہ کلام میں انگلیاں کھڑی نہ کرنے

سے مراد خود قدم کا کھڑا نہ کرنا ہے، کیوں کہ جب فقہاء مرد و عورت کی نماز میں فرق بیان کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ عورت انگلیاں کھڑی نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہئے کہ یہ کام مرد نہ کرے، اور ظاہر ہے کہ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ انگلیاں کھڑی نہ کرے، بلکہ ان کو حتی الامکان قبلہ روکر دے، تو آخر فقہاء کے اس کلام میں مرد عورت کے طریقہ میں فرق ہی کیا ہوا؟ لہذا یہاں انگلیوں سے مراد خود قدم ہیں، ورنہ کلام لغو ہو جائے گا۔ اسی لیے متعدد حضرات علماء نے اس کلام سے یہی مراد لیا ہے کہ عورت اپنے قدم کھڑی نہ کرے بلکہ زمین پر رکھ دے۔ (۱)

عورت کی نماز کے دیگر احکام

یہاں تک طریقہ نماز کے متعلق بحث تھی۔ اب عورت کی نماز سے متعلق دیگر احکامات پیش کیے جاتے ہیں۔

ستر عورت

عورت کا پورا بدن ستر ہے، سوائے تین چیزوں کے: چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم، یعنی نماز میں اور نماز کے باہر بھی اس کا ڈھانکنا و چھپانا فرض ہے۔ (۲)

مذکورہ تین اعضاء کے سوا کوئی حصہ بھی کھلانہ میں ہونا چاہیے؛ چنانچہ حدیث میں ہے:

«أَنْ أَسْمَاءَ بُنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَاقِقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: "يَا أَسْمَاءً! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمُحِيطَلْمَ يَصْلِحُ

(۱) اس مسئلے کی پوری بحث کے لیے دیکھیے امداد الا حکام: ۱۰۱/۲ ۱۱۱

(۲) الأشباه مع الحموي: ۳۸۲/۳، هدایہ: ۱/۲

لہا ان یوں منہا إلّا هذَا وَهذَا“ وأشار إلى وجهه وكفيه. » (۱)

(حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریک کپڑے پہن کر آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ ”عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے یا چھانبیں کہ اس کا کوئی حصہ نظر آئے؛ مگر یہ اور یہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اشارہ کیا چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف)

معلوم ہوا کہ عورت کا پورا بدن ستر میں داخل ہے، سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے اور بعض علمانے ضرورت اور حرج کا خیال کرتے ہوئے قدموں کو بھی مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (۲)

ہاتھ کو آستین سے نہ نکالے

تلکبیر تحریک کے وقت مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلیاں آستین سے باہر نکال لے؛ مگر عورت اپنی ہتھیلیاں آستین کے باہر نہ نکالے بل کہ اندر ہی رہنے دے۔ (۳)

(۱) ابو داؤد: ۵۶۷۔ اس روایت کو دو وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، ایک تو اس لیے کہ امام ابو داؤد نے اس کو منقطع قرار دیا ہے، کیوں کہ خالد بن دریک راوی جو اس حدیث کو حضرت عائشہؓ سے راویت کرتے ہیں انہوں نے حضرت کوئی پایا، مگر یاد ہے کہ احتجاف کے بیہاں قرون صحابہ، تابعین و تبع تابعین کا انقطاع جرح نہیں ہے۔ (اصول بزدوی: ۱۷)

دوسرے اس لیے کہ اس کے ایک راوی سعید بن بشیر پر بعض ائمہ نے کلام کیا ہے، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی بہت سے ائمہ نے توثیق بھی کی ہے، سعید القطان نے کہا کہ سچے ہیں، صدوق الحدیث ہیں، ابن عینیہ نے کہا کہ حافظ ہیں، عبد الرحمن بن ابراہیم نے کہا کہ ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے، ابو حاتم اور ابو زرعہ نے کہا کہ ان کا مقام صدق ہے۔ (تہذیب التہذیب: ۹/۶-۱۰/۲)

(۲) الہدایہ: ۱/۲۶

(۳) الشامی: ۱/۵۰۳

قرأت آہستہ کرے

نمازیں دو طرح کی ہیں: ایک وہ جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر، مغرب اور عشا، اور بعض وہ ہیں، جن میں آہستہ قرات ہوتی ہے، جیسے: ظہر اور عصر، مرد کے لیے؛ جب کہ وہ امام ہو، جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے اور امام نہ ہو؛ بل کہ تہا نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے؛ لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تمام نمازوں میں قرات آہستہ کرے، زور سے نہ پڑھے۔ (۱)

امام ابو الحسن مالکی فقہ مالکی کی معتبر کتاب ”رسالة ابن أبي زيد“ کی شرح میں یہ مسئلہ لکھنے کے بعد کہ ”عورت صرف اتنی آواز سے پڑھے کہ دوسرا نہ سن سکے؛ بل کہ صرف اپنی ذات کو سنائے“، اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ ”عورت کی آواز بھی عورت، یعنی ستر ہے اور بسا اوقات اس کی آواز سے فتنہ ہو جاتا ہے، اسی لیے بااتفاق علماءہ اذان نہیں دے سکتی“۔ (۲)

فجر کی نماز جلدی پڑھ لے

احناف کے نزدیک فجر کی نماز میں مردوں کے لیے اسفار کرنا مستحب ہے، اسفار کے معنے ہیں روشنی پھیل جانا، مراد یہ ہے کہ جب آسمان پر سفیدی پھیل جائے، و فجر کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے؛ مگر عورت سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے اندر ہیری میں ہی فجر پڑھ لے، جس کو غلس کہتے ہیں، اس کے لیے یہی

(۱) البحر الرائق : ۳۲۱ الشامي : ۱/۵۰۳، الأشياه : ۳/۳۸۳

(۲) شرح الرسالة على هامش كفاية الطالب الرباني : ۱/۲۷

مستحب ہے۔ (۱)

بہ ضرورت تالی بجا سکتی ہے

نماز میں اگر کوئی بات پیش آجائے، مثلاً نماز کے دوران کوئی شخص دروازے پر دستک دے یا اپنے امام کو سہو ہو جائے، تو مرد ”سبحان اللہ“ کہہ کر دستک دینے والے کو اپنے نماز میں ہونے کی اطلاع دے اور امام کو سہو پر تنبیہ کرے اور عورت ایسے موقع پر تالی بجائے، جیسا کہ احادیث کے تحت اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اور تالی بجانے کا طریقہ بعض علماء یہ بیان کیا ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو باہمیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر مارے، ہتھیلی کو ہتھیلی کے اندر وہی حصہ پر نہ مارے۔ (۲) اور بعض فقہاء یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ داہمیں ہاتھ کی انگلیوں سے باہمیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر مارے۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر کھیل تماشے میں ایک ہتھیلی کو دوسرا ہتھیلی کے اندر وہی حصہ پر مار کر جوتالی بجاتے ہیں، یہ طریقہ نماز میں نامناسب ہے؛ بل کہ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے تالی بجانے پر نماز فاسد ہو جائے گی۔ (۴)

احناف کے نزدیک فاسد تونہ ہو گی؛ مگر اچھی بات نہیں ہے۔

(۱) الشامی: ۱/۵۰۳، البحر الرائق: ۱/۲۶۰

(۲) شرح مسلم للنووی: ۱/۷۹

(۳) البحر الرائق: ۲/۱۸، شامی: ۱/۲۳۸

(۴) شرح مسلم للنووی: ۱/۷۹

عورتیں جماعت نہ کریں

عورتیں جماعت نہ بنائیں؛ بل کہ تنہا تنہا نماز پڑھیں، اسی میں ان کے لیے بھلائی اور خیر ہے اور جماعت بنانے میں حدیث کی رو سے ان کے لیے خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یہ حدیث اور اس کا حوالہ اور اس پر کلام اور گذر چکا ہے؛ لہذا ان کے لیے جماعت بنانا مکروہ ہو گا، جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے۔ (۱)

اور جو بعض صحابیہ عورتوں سے جماعت بنانا مروی ہے، یہ کبھی کبھی اور کسی مصلحت سے ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر ان روایات کے تحت عرض کیا ہے۔

عورتیں مسجد میں حاضرنہ ہوں

اوپر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر قرار دیا ہے اور یہ اُس دور کی بات ہے؛ جب کہ عورتوں میں شرم و حیا، پردے اور حجاب کا کامل اہتمام تھا؛ پھر اس کے بعد شرم و حیا اور پردے کا اتنا اہتمام نہ رہا، تو صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا اور منع فرمایا۔

چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

«لوأن رسول الله ﷺ رأى ما أحدث النساء

لَمْ يَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنْعِتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. الْخَ» (۲)

(اگر رسول اللہ ﷺ ان باتوں کو دیکھتے، جو عورتوں

(۱) الأشباه: ۳۸۲/۳، البحر الرائق: ۳۸۲/۱، الدر المختار: ۵۶۵/۱

(۲) مسلم: ۱/۱۸۳، أبو داؤد: ۱/۸۲

نے (بپر دگی وغیرہ کی) پیدا کر لی ہیں، تو مسجد میں آنے سے ان کو ضرور منع فرمادیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے ایک دفعہ جمعہ میں عورتوں کو مسجد سے نکلنے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی طرف جاؤ یہ تھارے لیے بہتر ہے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ (رضی اللہ عنہم) کے زمانے ہی میں بعض باتیں ایسی پیدا ہو گئی تھیں، جن کی بنابر صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) نے عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے منع کیا۔ اب غور کیجیے! کہ اس زمانے میں جب کہ بے پر دگی اور بے حیاتی عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے اور ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، عورتوں کے لیے کیسے اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ مسجد میں حاضر ہوں؟ لہذا ان کو مسجد میں نہ آنا چاہیے اسی کو فقہائے حفیہ نے اختیار کیا ہے۔ (۲)

البتہ فقہاء نے بوڑھی عورت کو اجازت دی ہے؛ مگر احتلاف میں سے متاخرین نے بوڑھی عورتوں کو بھی منع کیا ہے اور اسی پر فتویٰ دیا ہے؛ البتہ بہت ہی بوڑھی عورت جس کی طرف میلان نہ ہوتا ہو، وہ اس سے مستثنی ہے۔ (۳)

یہاں یہ بھی عرض کردیا ضروری ہے کہ بعض کتب فقہ میں بوڑھی عورتوں کو صرف مغرب، عشا اور فجر میں مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے۔ (۴)

(۱) مجمع الزوائد: ۱/۱۵۶

(۲) الہدایہ: ۱/۱۰۵، در مختار مع شامی: ۱/۵۲۶

(۳) در مختار: ۱/۵۲۶

(۴) الہدایہ: ۱/۱۰۵

اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ظہر اور عصر میں فساق و فجار لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور شہوت کی شدت سے ممکن ہے کہ یہ فساق بوڑھی عورتوں سے بھی ملوث ہو جائیں؛ لہذا ظہر اور عصر میں بوڑھی عورت کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں اور مغرب میں یہ لوگ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں اور فجر و عشا میں سونے میں مشغول رہتے ہیں؛ لہذا ان اوقات میں بوڑھی عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے۔ (۱)

اس تقریر سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورتوں کو بھی محل فتنہ تسلیم کیا ہے، اسی لیے دن میں نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے اور رات میں نکلنے کی اجازت بھی اس وجہ سے دی ہے کہ اس زمانے میں فساق و فجارات کے وقت گھومتے پھرتے نہیں تھے۔

لیکن اس زمانے میں دن سے زیادہ رات کو فساق و فجارات پنی ہوں کے شکار کے لیے گھومتے رہتے ہیں، تو پھر خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی رو سے رات میں بھی بوڑھی عورتوں کو نکلنے سے منع کرنا چاہیے، یہی فقہ و تفہیم کا تقاضہ ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”نہر الفائق“ سے نقل کیا ہے کہ رات میں بوڑھی عورتوں کو نکلنے سے منع کرنا بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی کے قول سے ماخوذ ہے؛ کیوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نکلنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ فساق رات میں گھومتے نہیں ہیں؛ لیکن جب ان دنوں میں ان کے فشق کے غلبہ کی وجہ سے وہ رات میں بھی گھومتے پھرتے ہیں؛ بل کہ عورتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو رات میں دن سے زیادہ منع کرنا چاہیے۔ (۲)

(۱) الہدایہ: ۱/۱۰۵

(۲) منحة الخالق علی البحر الرائق: ۱/۳۵۹، رد المحتار: ۱/۵۶۶

الغرض! موجودہ زمانے میں عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی

جاسکتی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اور اس پنا پر یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ ﷺ کے دور میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی دعوت دی جاتی تھی اور یہ کہ عورتوں کو بھی جماعت میں حاضری کا ایسا ہی حکم ہے جیسا مردوں کو ہے؛ اس لیے اس پر اصرار اور اس کے لیے اشتہار کا بھی ان لوگوں کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا ہے؛ حالاں کہ کسی بھی حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ عورتوں کو مساجد میں آنے کا حکم یا اس کی فضیلت ہے، بل کہ زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس زمانے میں (جو کہ خیر و شرم و حیا کا دور تھا) عورتوں کو مساجد میں آنے کی صرف اجازت دی تھی اور اسی اجازت کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ نے یہ بھی صاف طور پر بتایا کہ عورت کے لیے فضیلت اس میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔

چنانچہ حضرت اُم حمید الساعديہ ؓ نے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ہم عورتیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں؛ مگر ہمارے شوہر ہمیں منع کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”صلاتُكْنَ فِي بُيوْتِكْنَ خَيْرٌ مِنْ صلاتِكْنَ فِي دُورِكْنَ، وَ صلاتِكْنَ فِي دُورِكْنَ أَفْضَلُ مِنْ صلاتِكْنَ فِي مسجدِ الجَمَاعَةِ“ (۱)

(تم عورتوں کی نماز تمہارے گھروں کے اندر اس نماز سے افضل ہے، جو گھروں کے دالان میں ہوا اور گھروں کے دالان میں تمہاری نماز افضل ہے، اس نماز

(۱) سنن البیهقی: ۱۳۲/۳، ابن أبي شیبۃ: ۱۵۷/۲، المعجم الکبیر للطبرانی: ۱۵۰/۶، الاحاد والمثانی: ۱۳۸/۲۵

سے، جو مسجد جماعت میں ہو)

الغرض! آپ ﷺ نے خود یہ واضح کر دیا کہ عورت کے لیے مسجد کے بے جائے اس کا گھر ہی افضل ہے اور جو اجازت تھی، وہ اُس دور کے لحاظ سے تھی، جب حالات بدل گئے، تو صحابہ کرام ﷺ، (جو اللہ کے بنی ﷺ کے سب سے زیادہ مزاج شناس تھے) نے عورتوں کو مسجد میں حاضری سے منع بھی کر دیا اور ہمارے لیے صحابہ بھی لاائق اتباع ہیں۔

پھر اس حدیث سے ایک خاص بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام خود اس دور میں بھی اپنی عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع کیا کرتے تھے، اسی لیے حضرت اُمِ حمید رضی اللہ عنہا نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا؛ مگر اس کے باوجود بنی کریم ﷺ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی؛ بل کہ منع کرنے والوں کی تائید میں یہ بتایا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔

اس سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں کا مساجد میں آنا، رسول اللہ ﷺ کا منشا نہیں تھا؛ بل کہ آپ کا منشا ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مساجد میں نہ آئیں۔

عورت امامت نہ کرے

عورت امامت بھی نہ کرے، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی، مردوں کی امامت تو درست ہی نہیں اور اس کی امامت میں نماز پڑھنے والے مردوں کی نماز ہی نہیں ہوتی اور اس پر تمام ائمہ و علماء کا اجماع ہے۔

علامہ ابن حزم الظاہری نے ”مراتب الإجماع“ میں لکھا ہے کہ ”وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُؤْمِنُ الرِّجَالُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا“

امرأة، فإن فعلوا فصلاتهن فاسدة بِإجماعٍ. ”(۱)

(علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی؛ جب کہ یہ لوگ جانتے ہوں کہ وہ عورت ہے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی نماز باجماع و اتفاق فاسد ہے)

اور ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے کہ

”يشترط لِإمامَةِ الرِّجَالِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ ذَكَرًا ، فَلَا تَصْحُ إِمامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ ، وَهَذَا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفَقَهَاءِ.“ (۲)

(مردوں کی امامت کے لیے امام کا مرد ہونا شرط ہے؛ لہذا عورت کا مردوں کی امامت کرنا صحیح نہیں اور یہ حکم تمام فقہا کے مابین اتفاقی ہے۔) اور عورت عورتوں کی بھی امامت نہیں کر سکتی، جیسا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”عورت امامت نہ کرے“۔ (اس حدیث کا حوالہ اور گزر چکا ہے) اور اس کی تائید ایک مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو اگرچہ کہ بہت ضعیف ہے، تاہم حضرت علیؓ کی اس حدیث موقوف کو تائید کے لیے می جاسکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ ایک لمبی روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”لَا تَؤْمِنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا“ (کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے) (۳)

(۱) مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري : ۲۷

(۲) الموسوعة الفقهية : ۲۰/۶

(۳) سنن ابن ماجہ: ۱/۵۷۔ رقم کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی ولید بن کبیر ابو جناب کی ائمہ حدیث نے تضعیف کی ہے، تاہم بعض نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور ابن حبان نے ثقات میں ان اس کا ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔

ہاں اگر عورت عورتوں کی امامت کرے، تو نماز ہو جائے گی؛ مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔

امام عورت آگے نہ کھڑی ہو

اگر عورت عورتوں کی امامت کرے، تو مردوں کی طرح صف سے آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو؛ بل کہ صف ہی میں درمیان میں کھڑی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ اور امام سلمہ رضی اللہ عنہما نے کیا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ یہ آثار اور ان کا حوالہ اور گز رچکا ہے۔

عورت پر اذان و اقامت نہیں ہے

عورت پر اذان اور اقامت نہیں ہے، وہ بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھے، اس کے لیے اذان حنفیہ و مالکیہ و حنابلہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ (۱)

اور اقامت بھی حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ (۲)

اس کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی موقوف روایات ہیں،

دیکھو: تهذیب الکمال: ۵/۳۱، الکاشف: ۳۵۰/۲، تهذیب التهذیب: ۱۱۵/۹، الثقات: ۲۲۳)، اور اس کا دوسرا روایت عبد اللہ بن محمد العدوی انتہائی ضعیف ہے، امام بخاری نے اس کو منکر الحدیث اور ابو حاتم نے ”شیخ مجهول“ کہا ہے، اور امام کیع نے کہا کہ حدیثین گھڑتا تھا۔ (التاریخ الکبیر: ۱۹۰/۵، تهذیب التهذیب: ۶/۱۹، المجروحین: ۹/۲) اور تیسرا علی بن زید بن جدعان ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے ان کی توثیق کی ہے اور بعض نے تضعیف کی ہے۔ (تهذیب الکمال: ۲۰/۳۳۶-۳۴۰)

(۱) الفقه علی المذاہب الأربعة: ۱/۳۲۰

(۲) الفقه علی المذاہب الأربعة: ۱/۳۲۰

جو اوپر گزر چکی ہیں، نیز حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ہم بغیر اقامت نماز پڑھتے تھے۔ (۱)

اور جو بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہؓ اذان واقامت کہتی تھیں، یہ کبھی کبھی کسی مصلحت سے کرنے پر محمول ہے۔ (والله أعلم) (۲)

عورت پر جمعہ کی نماز نہیں

عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، وہ جمعہ کے دن اپنے گھر میں ظہر کی نمازاً کرے گی، ابو داؤد نے حضرت طارق بن شہابؓ سے روایت کیا ہے:

عن طارق بن شہابؓ عن النبی ﷺ

قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا

أربعة، عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض (۳)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ

جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے چار قسم کے لوگوں کے: ایک غلام ، دوسرے عورت ، تیسرا بچہ ، چوتھے مريض)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تلخیص الحبیر“ میں لکھا ہے کہ اس حدیث

کی متعدد حضرات نے تصحیح کی ہے۔ (۴)

(۱) رواه البيهقي كما في إعلاء السنن عن التلخیص الحبیر: ۱۲۵/۲

(۲) الحاكم كذا في الإعلاء: ۱۲۲/۲

(۳) أبو داؤد: ۱/۱۵۳

(۴) التلخیص الحبیر: ۲/۶۵

نیز حضرات صحابیات بھی سب کی سب جمعہ میں نہیں آتی تھیں؛ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ”بہت کم صحابیات جمعہ میں حاضر ہوا کرتی تھیں“۔ (۱)

اس حدیث اور حضرات صحابیات کے طرزِ عمل سے معلوم ہوا کہ عورت پر جمعہ نہیں ہے، یہی فقہاءِ احناف کا قول ہے۔ (۲)

اور یہی مسلک ائمہٗ ثلاثہ ”امام مالک“، ”امام شافعی“، ”امام احمد بن حنبل“ کا بھی ہے، جیسا کہ ”الفقه علیٰ مذاہب الأربعة“ سے ظاہر ہے۔ (۳)

عورت پر عید کی نمازوں میں

عورت پر جمعہ کی طرح عید کی نمازوں میں ہے۔ (۴)

کیوں کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور عورت کو جماعت میں حاضر ہونے سے منع کر دیا گیا ہے، جیسا کہ اوپر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے؛ لہذا ان پر عید کی نماز فرض نہیں ہے اور نہ ان کو عیدگاہ میں جانا چاہیے؛ کیوں کہ عیدگاہ جانے میں فتنہ کا اندیشہ ہے، جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں۔

ہاں! اس مسئلہ میں سلف سے اختلاف چلا آرہا ہے، سلفِ صالحین میں سے بعض حضرات سے منع منقول ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ علیہ عنہ سے منع نقل کیا گیا ہے۔ (۵)

(۱) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۵۸/۲

(۲) شامي: ۱/۵۰۲، الأشباه والناظر: ۳۸۲/۳

(۳) الفقه علیٰ مذاہب الأربعة: ۱/۳۷۸-۳۸۱

(۴) شامي: ۱/۵۰۲، الأشباه والناظر: ۳۸۲/۳

(۵) فتح الباری: ۲/۳۷۰

اور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، وہ اپنی عورتوں کو عید میں (عیدگاہ) نہیں لے جاتے تھے۔ (۱)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عیدین میں عورتوں کو نکلنے کی اجازت پہلے دی جاتی تھی؛ لیکن اب یہ درست نہیں کہ وہ نکلیں؛ سوائے اس کے جو بہت ہی بُرھی ہو، اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ (۲)

اور بعض حدیثوں میں جو یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہْ سَلَّمَ نے عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، جیسا کہ بخاری و مسلم وغیرہ نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہْ سَلَّمَ ہمیں (عورتوں کو) حکم دیتے تھے کہ ہم عیدگاہ جائیں اور جو حیض والی ہو، وہ نماز سے دور رہے اور دعا میں شامل ہو جائے۔ (۳)

اس سے اولاً تو واجب ثابت نہیں ہوتا؛ کیوں کہ اس میں ان عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، جو سرے سے مکلف ہی نہیں ہیں، جیسے حاضرہ عورت۔ (۴)
 دوسرا یہ شروع اسلام میں حکم تھا؛ جب کہ مسلمان تھوڑے تھے، بعد میں اللہ کے رسول صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہْ سَلَّمَ نے عورتوں کو نکلنے سے منع کر دیا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (۵)

(۱) عبد الرزاق: ۳۰۳/۳

(۲) الحجۃ علیٰ أهل المدینہ: ۳۰۶

(۳) بخاری: ۱/۱۳۳، مسلم: ۱/۲۹۰

(۴) قالہ ابن حجر فی فتح الباری: ۲/۲۷۰

(۵) الطحاوی: ۱/۱۹۲

ویسے علماء کے اس سلسلے میں متعدد اقوال ہیں، علامہ شوکانی نے ”نیل الأول طار“ میں پانچ اقوال ذکر کیے ہیں:

۱- عورتوں کا عید کے لیے نکنا مستحب ہے اور ان علماء نے حدیث میں وارد امر کو ندب و استحباب پر محمول کیا ہے۔

۲- بوڑھی عورت کو مستحب ہے، جوان کے لیے نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ جمہور شافعیہ اسی پر ہیں۔

۳- صرف جائز ہے، مستحب نہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔

۴- مکروہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری، ابن المبارک سے یہی نقل کیا ہے، اور امام مالک و ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

۵- حق و واجب ہے، حضرت ابو بکر و علی و ابن عمر سے یہی نقل کیا گیا ہے۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ علمائے حنفیہ کا یہ کہنا کہ عید کے لیے عورتوں کا نکنا مکروہ ہے، سلف صالحین میں سے متعدد حضرات ائمہ کا مختار قول ہے۔ علمائے حنفیہ اس میں متفرد نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ علمائے حنفیہ کا نقطہ نظر احادیث کے خلاف نہیں ہے۔

عورت صفائی میں تنہا کھڑی ہو سکتی ہے

عورت اگر کبھی جماعت میں حاضر ہو اور صاف بھری ہوئی ہو اور ساتھ میں کوئی اور عورت صفائی بنانے کے لیے نہ ہو، تو وہ صفائی کے پیچھے تنہا کھڑی ہو سکتی ہے اور اس کا تنہا کھڑا ہونا بھی صفائی کے حکم میں ہوگا۔

(۱) نیل الأول طار : ۳۵۲/۲

حدیث میں ہے: ”المرأة و حدها صفت“ (۱)

حالاں کہ مرد کے لیے اس کی ممانعت ہے کہ تنہا صفت میں کھڑا ہو؛ بل کہ بعض حدیثوں میں فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو صفت کے پیچھے کھڑا ہو۔ (۲)

چند شبہات اور اس کے جوابات

اخیر میں چند شبہات کا جواب دے دینا بھی ضروری ہے، جو بعض لوگوں کو اس سلسلے میں خلجان میں بنتا کر دیتے ہیں:

پہلا شبہ اور اس کا جواب

ایک شبہ یہ دامن گیر ہوتا ہے (جیسا کہ بعض حضرات نے مجھ سے اس شہے کا اظہار کیا ہے) کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «صلوّا کما رأيتمونِي أصلّي» (تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو) (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے جس طرح نماز پڑھی ہے، اسی طریقے پر مردوں اور عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے؛ کیوں کہ آپ کا یہ خطاب اور حکم پوری امت کو ہے، جس میں مردوں کی طرح عورتیں بھی داخل ہیں اور مردوں اور عورت کی نماز میں تفریق کی صورت میں آپ کے اس ارشاد کے خلاف لازم آتا ہے؟

اس شہے کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے تم کو تعلیم دی ہے، ویسے نماز پڑھو، مردوں کو جیسے تعلیم دی ہے، وہ اسی طریقہ پر نماز پڑھیں

(۱) فتح الباری: ۲۱۲/۲

(۲) الطحاوی: ۱۹۲/۱، بلوغ المرام: ۳۰

(۳) البخاری: کتاب الأذان: ۸۸، الدارمي: ۱۲۲۵

اور عورتوں کو جس طرح تعلیم دی ہے، وہ اسی کے مطابق نماز ادا کریں؛ ورنہ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا، جس میں آپ ﷺ نے خود فرمایا کہ ”عورت اس بارے میں مرد کی طرح نہیں ہے“، نیزان احادیث کا کیا کیجیے گا، جو اون پر درج کی گئی ہیں؟

معلوم ہوا کہ اس کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے؛ بل کہ اس کا مطلب وہ ہے، جو اون پر ذکر کیا گیا، پھر غور کیجیے! کہ اگر اس کا ظاہری مطلب مراد لیں، تو لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے تکبیر بلند آواز سے کہیں اور جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ بھی زور سے پڑھیں اور اس کے بعد کی سورت بھی پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، کیوں کہ آپ ﷺ اسی طرح نماز پڑھتے تھے؛ حالاں کہ یہ اس کا مطلب نہ کبھی کسی نے نہیں لیا اور نہ لیا جا سکتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ ﷺ تو تکبیر بلند آواز سے اور قرأت زور سے اس وقت کرتے تھے، جب کہ آپ ﷺ امام ہوتے تھے اور اسی کے مطابق امام کو کرنا چاہیے اور مقتدی ہونے کی حالت میں آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا؛ اس لیے مقتدی کو اس کی اجازت نہ ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں کہ مذکورہ حدیث کی یہ تاویل، خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کا مذکورہ بالا ارشاد اپنے ظاہر پر محمول نہیں، بل کہ اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جس طرح تعلیم دی گئی ویسا نماز پڑھو، نہ یہ کہ جیسا مجھ کو دیکھتے ہو ویسا کرو، اگر جیسا آپ ﷺ کو کرتے دیکھا ویسا کرنے کی اجازت ہوتی، تو تمام مقتدی آپ کی طرح کرنے کے مجاز؛ بل کہ مأمور ہوتے؛ حالاں کہ ایسا نہیں ہے۔

غرض یہ کہ آپ ﷺ نے اس جملے سے یہ بتایا ہے کہ جیسے میری تعلیم ہے، اسی کے مطابق نماز پڑھی جائے؛ لہذا مرد کو اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، جو اس کو دی گئی ہے اور عورت کو اس پر، جو اس کو دی گئی ہے۔

دوسرہ اشبہ اور اس کا جواب

دوسرہ شبہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت اُم درداء نبی ﷺ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ بڑی فقیہہ تھیں۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عورت مردوں کی طرح بیٹھے، نہ کہ اس طریقے پر، جو آج عورتوں نے اختیار کیا ہے؟

اس کا جواب اولاً تو یہ ہے کہ یہ اُم درداء نبی ﷺ جن کا حوالہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ اُم درداء نامی صحابیہ خاتون نہیں ہیں؛ بل کہ یہ اُم درداء ایک تابعیہ بزرگ خاتون ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں اس کی وضاحت کی ہے۔^(۲)

لہذا ان کا قول عمل و عمل دوسرے مجتہدین؛ بل کہ صحابہ کرام کے مقابلہ میں جحت اور قابل قبول نہیں ہو سکتا اور یہاں تو صرف مجتہدین امت اور صحابہ ہی کے خلاف نہیں؛ بل کہ ان کا یہ عمل رسول اللہ ﷺ کے بھی خلاف ہے، کیوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ عنہ کی روایت، جس میں رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ بیان کیا ہے، یہ صاف طور پر اُم درداء کے عمل کا رد کرتی ہے؛ لہذا

(۱) البخاری: ۱/۱۱۳

(۲) فتح الباری: ۳۰۶۲

ان کا عمل جھٹ نہیں ہو سکتا؛ البتہ ہم خود ام درداء کے عمل میں یہ تاویل کر کے کہ انہوں نے کسی عذر سے ایسا کیا ہوگا، ان کو مغذور کہنا اچھا سمجھتے ہیں؛ کیوں کہ یہ حضرت اُم درداء بڑی فقیہہ اور نیک خاتون تھیں اور بڑی زاہدہ عورت تھیں، جیسا کہ ابن حبان اور ابن حجر رحمہمَا اللہ نے فرمایا ہے۔^(۱)

دوسرے یہ کہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا کہ اُم درداء مکحول رحمۃ اللہ علیہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں، تو بہت ممکن ہے کہ اس سے ان کی مراد بعض کیفیتوں میں مرد کی طرح بیٹھنا ہو، جیسے یہ بھی بعض ائمہ کا مسلک ہے۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری قعدے میں مردا اور عورت دونوں اس طرح بیٹھیں گے کہ دونوں پیر وہنی طرف نکال دیں گے اور سرین کے بل زمین پر بیٹھیں گے؛ مگر اس کے باوجود بعض کیفیتوں میں دونوں کے درمیان فرق انہوں نے کیا ہے؛ چنانچہ آپ نے عورت کو رکوع اور سجدے کی طرح بیٹھنے میں بھی اسی بات کو ملاحظہ کرنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مستور رہے، ان کی یہ عبارت اوپر درج کی گئی ہے، ملاحظہ کر لیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مردا اور عورت کے بیٹھنے کا طریقہ ایک ہونے کے باوجود بعض کیفیتوں میں فرق ہے، تو ممکن ہیکہ حضرت اُم درداء کا بھی یہی مسلک ہوا اور انہوں نے بعض کیفیتوں میں مرد کی طرح بیٹھا ہوا اسی طرف حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہوں۔

الغرض! اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت اُم درداء پورے طور پر مرد کی طرح بیٹھتی تھیں؛ بل کہ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہو سکتا

(۱) ثقات ابن حبان: ۵/۷۴۵، تهذیب التهذیب: ۱۲/۳۶۷

عورت کی نماز-حدیث اور فقہ کی روشنی میں ہے کہ امام درداء بعض کیفیتوں میں مرد کی طرح پیٹھتی تھیں اور یہ بھی ایک مسلک ہے اور ایک مسلک وہ بھی ہے، جو احناف نے اختیار کیا ہے کہ مرد و عورت کے بیٹھنے کے طریقے میں زیادہ فرق ہے اور ہم نے اوپر عرض کر دیا ہے کہ انہم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے اور ہمارا مقصود احناف کے نقطہ نظر سے عورت کا طریقہ نماز پیش کرنا ہے۔

ضمیمه

[نوٹ: غیر مقلدین کے ایک ماہنامے ”التوعیہ“، دہلی کے شمارہ بابت: مئی ۱۹۹۰ء میں اس کے اڈیٹر ”جناب رفیق احمد سلفی“ نے مرد و عورت کی نماز میں فرق کے عنوان پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس سلسلے کی روایات پر ضعف کا حکم لگایا تھا اس پر احقر نے ان کے نام ایک خط میں تقید کی تھی، جو مفید ہونے کی وجہ سے بطورِ ضمیمه شاملِ اشاعت کیا جا رہا ہے۔ [محمد شعیب اللہ خان]]

بخدمت ”جناب رفیق احمد سلفی صاحب“، زید مجده اڈیٹر ماہنامہ ”التوعیہ“
السلام علیکم ورحمة اللہ و برکاتہ

مزاج بخیر ہو گے!

”التوعیہ“، مئی ۱۹۹۰ء کا شمارہ نظر سے گذرا، جس میں آپ نے ”مرد و عورت کی نماز میں فرق و اختلاف“ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں ان تمام روایتوں کو ضعیف اور ناقابلِ احتجاج قرار دیا ہے، جو مرد و عورت کی نماز میں فرق بیان کرتی ہیں، اس پر میری کچھ گذارشات ہیں، امید ہے کہ آپ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔

۱- ”إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعْتَ فَخْذَهَا عَلَىٰ فَخَذْهَا

الآخری الخ“ جو یہیقی نے ابو مطیع الحکم بن عبد اللہ البُلخی کے طریق سے روایت کی ہے، اس کو آپ نے ابو مطیع کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے اور آپ نے اس راوی کے متعلق جرحوں کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے؛ مگر تجھ بہے کہ آپ نے اس راوی کی تعریف سے قطعاً گریز و احتراز کیا؛!! حالانکہ کسی راوی کے بارے میں انہے اختلاف کیا ہو، تو صرف ایک کو ذکر کرنا علمی دنیا میں عیب شمار کیا جاتا ہے۔

علامہ ذہبی نے ابان بن یزید کے ترجیحے میں ابن الجوزی پر رد کرتے ہوئے اسی کو لکھا ہے:

”لَمْ يَذْكُرْ أَقْوَالَ مِنْ وَثَقَةٍ، وَهَذَا مِنْ عَيُوبِ كِتَابِهِ، يَسِّرِدُ الْجَرَحَ وَيَسْكُنُ عَنِ التَّوْثِيقِ“ (۱)

ابو مطیع الحکم بن عبد اللہ البُلخی کے معاصر اور بہت قریب سے ان کو دیکھنے والے مشہور و معروف محدث امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ابو مطیع کے ساتھ کیا تھا؟ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”كَانَ ابْنُ الْمَبَارِكَ يُعَظَّمُهُ وَيُبَجَّلُهُ لِدِينِهِ وَعِلْمِهِ“ (۲)

غور کرنا چاہیے کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس کی تعظیم و تکریم دین و علم کی بنیاد پر کریں، اس کا دین و علم کیسا کچھ نہ ہوگا؟ پھر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس میں متفرد نہیں ہیں؛ بل کہ حافظ ہی نے نقل کیا ہے کہ : ”روی عنہ محمد بن مقاتل و موسیٰ بن نصر، و كانا يُسْجَلُانِهِ“ (۳)

(۱) میزان الاعتدال: ۱/۱۶

(۲) لسان المیزان: ۲/۷۰۷

(۳) لسان المیزان: ۲/۹۰۹

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور میں علم سے ”قرآن و حدیث“ اور دین سے ”اہل سنت، ہی کے عقائد“ مراد ہوا کرتے تھے؛ لہذا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم بن عبد اللہ قرآن و حدیث کے علم اور اہل سنت کے عقائد کے حامل تھے، جس کی بنیاض وہ ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اس وزنی شہادت کے بعد ان کو چھپی و مرچی قرار دینے والوں کی بھلا کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جو اکثر حکم بن عبد اللہ کے بہت بعد کے ہیں؟ پھر ان پر ”واه فی ضبط الأثر“ کی جرح کیا اثر کر سکتی ہے؛ جب کہ عقیلی نے ان پر ارجا کی جرح کے ساتھ یہ بھی کہا ہے ” صالح فی الحدیث“ (۱) پھر ارجا کا یہ الزام ان پر کچھ حقیقت بھی رکھتا ہے یا محض الزام ہے؟ اور یہ کہ ارجاء کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مستقبل بحثیں ہیں۔

لگانے والوں نے ان پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ سنت اور حدیث سے بعض رکھتے تھے؛ مگر ذہبی نے ”العبر“ میں نقل کیا ہے: ”بلغنا أَنَّهُ مِنْ كَبَارِ الْأَمَّارِينَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيِنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ (۲) غور فرمایا جائے کہ جو ”امر بالمعروف و نهي عن المنكر“ کے علم برداروں میں سے خاص مقام رکھتا ہو، وہ سنت اور حدیث سے بعض رکھ سکتا ہے؟ پھر آخر وہ ”امر بالمعروف و نهي عن المنكر“ کا علم بردار کیوں کر ہوگا؟ اس میں ہماری بھی وہی رائے ہے، جو علامہ عبدالحکیم لکھنؤی کی ہے کہ

”لعل هذا التحامل عليه من المحدثين لكونه من أصحاب الإمام أبي

حنفية رحمۃ اللہ علیہ“ (۳)

(۱) لسان المیزان : ۲/۸۰۸

(۲) الفوائد البهیة : ۳۲

(۳) الفوائد البهیة : ۳۲

اگر اس کو مانے میں کسی کوتائِ مل و تردد ہو تو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ حکم بن عبد اللہ بلخی مختلف فیہ روایی ہیں اور ایسا راوی حسن الحدیث ہوتا ہے، دیکھیے ابن حجر ابن القطان سے عبد اللہ بن صالح کے بارے میں نقل کرتے ہیں:

”قال ابن القطان وهو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حدشه إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسن“ (۱)

الغرض! حکم بن عبد اللہ کو ضعیف قرار دینا صحیح نہیں؛ لہذا ان کی روایت بھی ضعیف قرار نہیں دی جاسکتی؛ بل کہ حسن ہوگی۔

۲ - ”عن یزید بن أبي حبیب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَاتِينَ تُصَلِّيَانِ الْخَ“ جس کو ابو داؤد نے مراسل (ص: ۸) میں روایت کیا ہے، اس کے ناقابلِ احتجاج ہونے کی دو وجہ آپ نے بیان کی ہیں، ایک یہ کہ اس میں انقطاع ہے، دوسرے اس کا راوی سالم بن غیلان متروک ہے۔ مگر آپ کی دونوں باتیں مخدوش ہیں، اول اس لیے کہ یہاں انقطاع سند کے شروع حصہ میں ہے، جس کو ”ارسال“ کہا جاتا ہے اور مرسل روایت جمہور کے نزدیک مقبول ہے، امام ابو حذیفۃ، امام مالک اور ان کے تبعین رحمہم اللہ اس کو مقبول قرار دیتے ہیں۔ (۲)

امام احمد رحمہم اللہ کی ایک روایت یہی ہے۔ (۳)

اما ابو داؤد اپنے خط میں، جوانہوں نے اہل مکہ کو ارسال فرمایا تھا، تحریر کرتے ہیں:

”أَمَا الْمَرَاسِيلُ فَقَدْ كَانَ يَحْتَجُ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِيمَا مَضِيَ

(۱) تهذیب التهذیب : ۵/۲۶۰

(۲) مقدمة ابن الصلاح: ۲۲

(۳) نزهة النظر: ۴/۵

مثُل سفیان الثوری، و مالک، و الأوزاعی، ثُمَّ جاءَ الشافعی
فتَكَلَمْ فِيهَا“ (۱)

پھر جب مرسل کی تائید کسی اور موصول روایت یا مرسل روایت سے ہو جائے تو
سبھی علماء اس کے مقبول ہونے کے قائل ہیں اور یہاں اس کی تائید خود آپ کی پیش کردہ
دوسری روایات سے ہو رہی ہے، تو پھر اس کو ناقابلِ احتجاج کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟
علام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم کے ”مقدمہ“ میں لکھتے ہیں:

”ثُمَّ مَذَهَبُ الشافعِيِّ، وَ الْمُحَدِّثِيْنَ، وَ جَمِيعَ الْمُهَاجِرِيْمَ،
وَ جَمِيعَ الْفَقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَحْتَجُ بِالْمَرْسَلِ، وَ مَذَهَبُ مَالِكَ
، وَ أَبِي حِنْفَةَ، وَ أَحْمَدَ، وَ أَكْثَرُ الْفَقَهَاءِ أَنَّهُ يَحْتَجُ بِهِ. وَ مَذَهَبُ
الشافعِيِّ أَنَّهُ إِذَا النَّصْمَ إِلَى الْمَرْسَلِ مَا يَعْضُدُهُ احْتُجَّ بِهِ،
وَذَلِكَ بَأْنَ يُرُوَى أَيْضًا مَسْنَدًا، أَوْ مَرْسَلًا مِنْ جَهَةِ أُخْرَى،
أَوْ يَعْمَلُ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، أَوْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ“ (۲)

اور یہاں تو اس کی تائید دوسری روایات سے بھی ہو رہی ہے، اور علماء کے اس
کے مطابق عمل سے بھی ہو رہی ہے؛ کیوں کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق تمام ائمہ کا
مذہب و مسلک ہے، میں ان کی کتابوں سے عبارات نقل کرتا؛ مگر تطول کے خوف
سے صرف امام شافعی کی ایک عبارت پر اکتفا کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں:
”وَقَدْ أَدْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى النِّسَاءَ بِالإِسْتِتَارِ، وَأَدْبَهُنَّ بِذَلِكَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَبَّ لِلْمَرْأَةِ فِي السُّجُودِ
أَنْ تَضُمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخْدِهَا،

(۱) مقدمہ سنن أبي داود: ۶

(۲) مقدمہ شرح مسلم: ۷۸

وتَسْجُد كَأَسْتِرٍ مَا يَكُونُ لَهَا، وَهَكُذَا أَحَبُّ لَهَا فِي الرُّكُوعِ،
وَالجلوس، وَجَمِيع الصَّلَاةِ أَنْ تَكُونَ فِيهَا كَأَسْتِرٍ مَا يَكُونُ
لَهَا، وَأَحَبُّ أَنْ تَكْفُتَ جَلْبَابَهَا، وَتَجَافِيهِ رَاكِعَةً وَسَاجِدَةً
عَلَيْهَا، ثُلَّا يَصْفُهَا ثِيَابَهَا”。 (۱)

اس کے علاوہ شافعی مذهب کی کتاب ”المنهاج“ اور اس کی شرح ”مغني المحتاج: ۱/۳/۱۷“، اور ”إحياء العلوم: ۱۵۴۳۱“ اور مالکی مذهب کی کتاب ”رسالہ ابن ابی زید“ اور اس کی شرح ”لإمام أبي الحسن: ۲۱۷/۱“ اور اس کی شرح ”کفاية الطالب الربانی: ۱/۲۱۸“ اور حنبلی مسلک کی کتاب ”الروض المربع: ۵۷“ دیکھیے اندازہ ہو گا کہ سب ہی علماء روایات کی بنابر مردو عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں؛ پھر یہ روایت مرسلہ کیوں قابل قبول نہ ہوگی؟

رہاسالم بن غیلان کا متروک ہونا، یہ صرف دارقطنی کی رائے ہے اور دوسرے ائمہ فن نے سالم کی توثیق فرمائی ہے۔ ابن حبان نے ان ثقفات میں ذکر کیا ہے۔ (۲)
اور ابن حجر نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ذکرہ ابن حبان فی
الثقافت“، اور ابن حجر ہی نے امام احمد اور امام ابو داؤد سے ان کے بارے میں ”لاباس
بہ“، نقل کیا ہے، اسی طرح نسائی سے بھی ”لیس بہ باس“ نقل کیا ہے اور ابن یونس
نے ان کو فقیہہ کہا اور عجلی نے ثقہ کہا ہے۔ (۳)

(۱) کتاب الأُم للإمام الشافعي: ۱/۱۵۵

(۲) ثقات ابن حبان: ۸/۲۹۲

(۳) تهذیب التهذیب: ۳/۲۲۲-۲۲۳

اور ”لا بأس به“ کا توثیق کے لیے استعمال متقدمین میں رانج تھا۔ (کما لایخفی علی المھرہ)

اب غور کرنا اس پر ہے کہ ان سب حضرات کی توثیق کے مقابلہ میں دائرۃ قسطنی کی تضعیف اتنی وزن دار قرار کیوں دی گئی کہ اس پر اس روایت کو ناقابل قبول قرار دے دیا گیا؟ اور یہ کہنا کہ ”جرح“، ”تعديل“ پر مقدم ہوتی ہے، صحیح نہیں؛ کیوں کہ یہ علی الاطلاق نہیں ہے؛ بل کہ اس وقت ہے جب کہ جرح مفسّر ہوا اور یہاں جرح مفسّر نہیں ہے، تو کیوں کہ اس جرح کو تعديل پر مقدم کیا جاسکتا ہے؟۔ الغرض! اس روایت کو مذکورہ وجوہ سے ضعیف قرار دینا صحیح نہیں ہے، غور فرمائیں۔

۳- حضرت علیؓ پر موقوف روایت: ”إِذَا سَجَدَتِ الْمُرْأَةُ فَلَتَضْرِمْ فَخْذِيهَا“ کے راوی الحارث بن عبد اللہ الاعور کے بارے میں بھی حسب سابق آپ نے صرف جرح نقل کی ہے اور حق یہ ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تہذیب میں ابن حجر نے ان کے بارے میں جو لکھا، وہ آپ کی نظر سے رہ گیا ہو، آخر اس کو نظر انداز کرنے کی کیا حاجت تھی؟

ابن حجر نے ابن معین سے ان کے بارے میں ”لا بأس به“ نقل کیا ہے، ابن ابی داؤد نے کہا کہ: ”كان الحارث أفقه الناس، وأحب الناس، وأفرض الناس، تعلم الفرائض من عليؓ“، اور لکھا ہے: ”قال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى:

يحتاج بالحارث؟ فقال: ”ما زال المحدثون يقبلون حديثه“.

جس کی روایت حدیث محدثین کے یہاں مقبول چلی آرہی ہو، اس پر ایک دم سے جملہ کر دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ابن حجر ہی لکھتے ہیں:

”قال ابن شاهین في الثقات : قال أحمد بن صالح

المصری : الحارت الأعور ثقة، ما أحفظه ، وما أحسن ما روی عن علی ، وأثنى عليه ، قيل له: فقد قال الشعبي: كان يكذب، قال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه”。(۱)

ان سب چیزوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھلا ان کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟
 ۲- ”عن ابن عمر رض كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة“
 اس کے راوی عبد اللہ بن عمر العمری کو آپ نے حسب سابق ضعیف قرار دیا ہے؛ جب کہ ان کی بھی ابن معین، یعقوب، ابن عدی، عجیل، ابن یوس، احمد ابن حنبل، اور خلیل بن نے توثیق و تعریف کی ہے۔(۲)

اور ابن عمار الموصلي نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے: ”لم يتركه إلا يحيى بن سعيد“ (ایضاً)، اور علی بن المدینی جیسے ماہر نے یہاں کہا ہے کہ: ”إذا جتمع يحيى بن سعيد، و عبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن لأنه أقصدهما۔(۳)

اور عبد الرحمن بن مہدی نے عبد اللہ بن عمر العمری کو ترک نہیں کیا؛ بل کہ ان سے روایت کیا ہے، تو علی بن المدینی کے بقول انہی کی بات اقصد و اعدل ہے؛ پھر امام احمد نے کہا ہے کہ ”إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة“。(۴)
 اب غور فرمائیں کہ ان سب باقوں کو نظر انداز کر دیا جانا چاہیے؟

(۱) تہذیب : ۱۳۶/۲ - ۱۳۷/۲

(۲) تہذیب : ۳۲۷/۵ - ۳۲۸/۵

(۳) تہذیب : ۲۸۰/۶

(۴) تہذیب : ۲۸۱/۶

یہ میری معمروضات محض طالب علمانہ اور نیک جذبے سے ہیں، مناظرہ بازی
مقصود نہیں؛ اُمید ہے کہ آپ ان پر غور فرمائے جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔

نبوت : یہ خط آج سے پندرہ سال قبل لکھا گیا تھا؛ مگر افسوس کہ تادم تحریر اس کا کوئی جواب

موصول نہیں ہوا۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی

مہتمم جامعہ اسلامیہ میسح العلوم، بیگلور

۱۹ / ربیع الاول / ۱۴۳۲ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تشريع اسلامی میں

عرف و عادت کا مقام

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تشریع اسلامی میں عرف و عادت کا مقام

”عرف و عادت“، اکثر علماء ائمہ کے نزدیک مصادر شریعت میں سے ایک مصدر کی حیثیت رکھتا ہے اور اسلامی شریعت میں اس کو مصدر کی حیثیت حاصل ہونا، دراصل اسلامی شریعت کی زمانہ اور ماحول کے ساتھ ساتھ چلنے کی صلاحیت واستعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی سربزی و تروتازگی اور ہر دم جوان ہونے کی دلیل ہے، استاذ زکی الدین شعبان نے بہت صحیح فرمایا:

”عرف“، تشریع، قضاؤفتی کے زرخیز مصادر میں سے ہے، شریعت اور فقہا نے اس کا جواں طرح اعتبار کیا ہے، یہ فقہ اسلامی کی زرخیزی و شادابی اور مخلوق کے درمیان فیصلے کی صلاحیت پر دلیل ہے، خواہ وہ کہیں ہوں اور کسی زمانے میں پائے جائیں۔^(۱)

فقہا و شریعت نے عرف کا جواعتبار کیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا نزول و ظہور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے مصالح و حقوق کو منظم کرے، کبھی اور ٹیڑھ کو درست کرے تحریفات کا خاتمہ کرے اور لوگوں کے مابین جو رسومات جاری و ساری ہیں، ان میں اعتدال کی راہ بتائے، پس اگر لوگوں کے معاملات و عادات و اعراف میں سے وہ ایسی چیزوں کو پاتی ہے، جو مصالح و مفید ہوں تو وہ ان کو برقرار رکھتی ہے، یہی وہ بات ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے

(۱) أصول الفقه الاسلامي: ۱۹۶

اپنی کتاب ”حجۃ اللہ البالغة“ میں بیان فرمائی ہے:

”فَاعْلَمْ أَنَّهُ حَلَالٌ لِّفِيْلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثٌ بِالْمُلْمَةِ الْحَنِيفِيَّةِ إِلَيْهَا
عِيلِيَّةٌ لِّإِقَامَةِ عَوْجَهِهَا، وَإِزَالَةِ تَحْرِيفِهَا، وَإِشَاعَةِ نُورِهَا، وَذَلِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِلْمَةٌ أَيْكُمْ ابْرَاهِيمُ﴾ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
وَجَبَ أَنْ تَكُونَ أَصْوَلُ تِلْكَ الْمُلْمَةِ مُسْلِمَةً، وَسَنَنُهَا مُقرَّرَةً، إِذَا
النَّبِيُّ إِذَا بَعَثَ إِلَى قَوْمٍ فِيهِمْ بَقِيَّةُ سَنَةِ رَاشِدَةٍ، فَلَا مَعْنَى لِتَغْيِيرِهَا
وَتَبْدِيلِهَا، بَلْ الْوَاجِبُ تَقْرِيرُهَا اخْ. (۱)

(جانا چاہیے کہ نبی کریم ﷺ ملت حنفیہ اسماعیلیہ کے ساتھ بھیجا گیا؛ تاکہ اس کے ٹیڑھ کو درست اور اس کی تحریف کو ختم اور اس کے نور کو شائع کریں، جیسا کہ اللہ کا قول ہے: ﴿مِلْمَةٌ أَيْكُمْ ابْرَاهِيمُ﴾ (ملت ابراہیم کا اتباع کرو)، جب بات یہ ہے تو ضروری ہوا کہ اس ملت کے اصول مسلم ہوں اور اس کے طریقے مقرر ہوں؛ کیوں کہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے، جس میں سنت راشدہ سے کچھ باقی ہو، تو اس کو بد لئے کے کوئی معنی نہیں؛ بل کہ ضروری ہے کہ اس کو ثابت رکھا جائے)

غرض یہ کہ عرف و عادت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، جب کہ وہ صالح ہوں اور اصول شریعت سے مناسبت رکھتی ہوں، لہذا ضروری ہوا کہ عرف کے معنی اور اس کی تعریف؛ نیز اس کے اعتبار کے لیے شرائط و حدود پر بحث کی جائے۔

عرف کی حقیقت اور فسیلیں

”عرف“، لغت و اصطلاح میں

سب سے پہلے، عرف و عادت کے معنی جانے کی ضرورت ہے، لہذا پہلی بحث اسی سلسلے میں ہے، ”عرف“ کے معنی لغت میں ”جاننے“ کے آتے ہیں اور عام طور پر اس شیئ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو معروف ہو اور عقلی صحیح و سلیم کے نزدیک مقبول اور طبیعتِ سلیمانی کے نزدیک مالوف و مانوس ہو۔

چنانچہ علامہ جرج جانی ”التعريفات“ میں لکھتے ہیں:

”العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول
وتلقته الطبائع بالقبول.“ (۱)

(عرف وہ چیز ہے، جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بناء پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کر لیں۔)

ابو الحسن زکریا انصاری ”الحدود الأئمۃ“ میں فرماتے ہیں:

”العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول
وتلقته الطبائع بالقبول.“ (۲)

(عرف وہ چیز ہے، جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بناء پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کر لیں۔)

(۱) تعریفات: ۱/۱۹۳

(۲) الحدود الأئمۃ: ۱/۷۲

لغت کی مشہور کتاب ”المنجد“ میں ہے:

”العرف ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول
و تلقته الطباع السليمة بالقبول.“ (۱)

(عرف وہ چیز ہے جس پر لوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بنابر قائم
ہوں اور سلیم طبیعتیں اس کو قبول کر لیں۔)

اور ”لسان العرب“ میں ہے:

”العرف ضد النكر يقال: أولاه عرفاً أي معروفاً، وهو كل
ما تعرفه الناس من الخير، و تبسأبه، و تطمئن إلية .“ (۲)

یہ تو عرف کے لغوی معنی ہیں اور فقہی اصطلاح میں عرف نام ہے، اس چیز کا
جس کی جمہور لوگوں نے عادت بنائی ہو اور وہ ان کے مابین جاری و ساری ہو، خواہ وہ
چیز فعل ہو جو لوگوں کے درمیان شائع و عام ہو گیا ہو، یا وہ کوئی قول ہو جو کسی خاص معنی
میں ان کے مابین مستعمل ہو، اس طرح کہ وہ بولا جائے تو وہی معروف معنی کی طرف
ذہن مبتادر ہو۔

استاذ منصور محمد الشیخ اپنی کتاب ”أصول الأحكام“ میں فرماتے ہیں:
”فالعرف ماتعارفه الناس و ألفوه، حتى استقر في
نفوسهم من فعل شاع بينهم أو قول كثر استعماله في
معنى خاص بحيث يتبادر منه هذا المعنى عند إلاطلاق
دون معناه الأصلي.“ (۳)

(۱) منجد مادہ عرف

(۲) لسان العرب: ۹/۲۳۹

(۳) أصول الأحكام: ۲۰۰

(عرف وہ ہے، جو لوگوں میں متعارف ہوا اور لوگ اس سے منوس ہو گئے ہوں، حتیٰ کہ وہ ان کے نفوس میں پیوست ہو گیا ہو، خواہ وہ فعل ہو جوان میں شائع ہو، یا قول ہو جس کا استعمال کثرت کے ساتھ کسی خاص معنی میں ہوتا ہو، اس طرح کہ اطلاق کے وقت یہی معنی اس سے مفہوم و متبادل ہو، نہ کہ اس کے اصلی معنی۔)

استاذ مصطفیٰ محمد الزرقان نے فرمایا کہ:

”أَمَا فِي الْاَصْطَلَاحِ الْفَقِيْهِ إِنَّ الْعُرْفَ هُوَ عَادَةٌ جَمِيعُ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ وَعَمَلٍ.“

(لیکن اصطلاح فقہی میں عرف، قوم کی اکثریت کی عادت کا نام ہے، خواہ وہ قول میں ہو یا عمل میں۔) (۱)

اوپر جو عرض کیا گیا اس سے چند امور واضح ہوتے ہیں:

- (۱) ایک یہ کہ عرف کا تحقیق اسی وقت ہوتا ہے، جب کہ وہ اکثر لوگوں میں عام و رائج ہو جائے، یا کم از کم اس کا رواج غالب ہو، چنانچہ جمہور کا لفظ اس کی دلیل ہے۔
- (۲) دوسرے یہ کہ عرف، عمل میں بھی ہوتا ہے اور قول میں بھی، پہلے کو عرف عملی اور دوسرے کو عرف قولی کہتے ہیں،

-
-
- (۳) تیسرے یہ کہ فقہی واصطلاحی عرف اس وقت تحقیق ہوتا ہے، جب کہ وہ

(۱) المدخل الفقهي الإسلامي : ۱/۱۳۲

(۲) دیکھو: المدخل للدراسة الشرعية الإسلامية : ۲۰۵

نفوس میں مستقر ہوا ور عقول کے نزدیک مقبول ہو، لہذا جو امور لوگوں میں رانج ہوں؛ مگر نہ نفوس میں مستقر ہوں اور نہ عقول کے نزدیک مقبول ہوں، وہ اصطلاحی عرف میں داخل نہیں، اگرچہ عرف کا اطلاق ان پر لغت میں ہوتا ہو، مثلاً جو امور ریاء و شہرت کی بنا پر کیے جاتے ہیں، یا اس لیے کہ ان کے نہ کرنے سے معاشرے میں رسوانی ہوگی، یا لوگوں کی طرف سے ظلم ہوگا، یہ عرف فقہی میں داخل نہیں ہوں گے۔

حاصل یہ کہ عرف فقہی اصطلاح میں اس قول فعل یا ترک کا نام ہے، جو اکثر لوگوں میں معروف و معتاد ہوا اور لوگوں کے نفوس و قلوب ان سے مانوس و مالوف ہوں اور عقول صحیح کے نزدیک وہ مقبول و مسلم ہو۔

”عادت“ کے معنی اور تعریف

عادت کا لفظ ”عُودٌ“ یا ”مَعَاوِدَةٌ“ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی کام کا بار بار کرنا، لہذا لغت میں عادت اس فعل کا نام ہے، جس کو انسان بار بار کرے۔

”المنجد“ میں ہے:

”العادة ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مراراً متكررة.“

(عادت وہ کام ہے، جس کا انسان عادی ہو یعنی بار بار اس کی طرف لوٹے اور اس کو کرے۔) (۱)

اور فقہی اصطلاح میں عادت کے معنے ہیں:

”ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند

الطبع السليمة.“

(۱) المنجد مادہ ”عُود“

(عادت وہ بار بار کیے جانے والے امور ہیں، جو نفوس میں مستقر اور سلیم طبائع کے نزدیک مقبول ہوں۔) (۱)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”إن العادة ماخوذة من المعاودة فهي بتكررها و معاودتها مرّةً بعد أخرى صارت معروفةً مستقرةً في النفوس والعقول، متلقاةً بالقبول من غير علاقة ولا قرينة حتى صارت حقيقةً عرفيةً.“ (۲)

(”عادت“ معاودت سے ماخوذ ہے، پس عادت، بار بار ہونے کی وجہ سے نفوس و عقول میں مستقر ہو جاتی ہے اور وہ بغیر کسی علاقہ و قرینہ کے مقبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ حقیقتِ عرفیہ بن جاتی ہے)

خلاصہ یہ کہ عادت وہ فعل ہے، جو بار بار ہو اور نفوس میں درجہ استقرار و قبولیت حاصل کر لے، حتیٰ کہ اس کا کرنا آسان اور چھوڑنا مشکل ہو جائے۔

کیا عرف و عادت میں فرق ہے؟

یہاں ایک اہم اور ناقابل فراموش سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ عرف و عادت کے ما بین کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں نظریاتی طور پر علماء کا اختلاف ہے اور اس میں علماء کے تین قول ملتے ہیں:

(۱) اکثر علماء فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عرف و عادت مفہوم کے لحاظ سے دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن مصدقہ کے لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف و فرق

(۱) الأشباه: ۲۹۶

(۲) نشرالعرف: رسائل ابن عابدین: ۱/۱۱۳

نہیں۔ علامہ شامی ”نشر العرف“ میں لکھتے ہیں:

”فالعادة و العرف بمعنى واحد من حيث المصدق،
وإن اختلفا من حيث المفهوم.“

(عرف و عادت دونوں مصدق کے لحاظ سے ایک ہی معنی میں

ہیں، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ ہیں۔) (۱)

(۲) بعض معاصر علماء کے قائل ہیں کہ عرف عام اور عادت خاص ہے، ان حضرات کے نزدیک ”عرف“ ہروہ چیز ہے، جو لوگوں میں متعارف ہو، خواہ قول ہو یا فعل اور عادت ان افعال کے ساتھ خاص ہے جو لوگوں میں معروف ہوں۔

”الأشباه والنظائر“ کی ایک عبارت سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے،

چنانچہ ”فتح القدير“ سے نقل کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”الحقيقة تترك بدلالة العادة إذ ليست إلا عرفاً عملياً.“

(حقیقت، عادت کی دلالت سے ترک کر دی جاتی ہے؛ کیوں کہ عادت عرف عملی ہی ہے) (۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عادت ان افعال و اعمال کو کہتے ہیں، جو لوگوں میں معروف ہوں؛ نیز معلوم ہوا کہ عادت عرف کی ایک قسم ہے۔ استاذ زکی الدین شعبان نے اپنی کتاب ”أصول الفقه الإسلامى“ میں لکھا ہے:

”عرف وہ ہے، جس کو اکثر لوگوں نے عادت بنالیا ہوا اور وہ اس سے مانوس ہو جائیں، خواہ کوئی فعل ہو جوان میں راجح ہو جائے، یا کوئی لفظ

(۱) رسائل الشامی: ۱۱۳/۲:

(۲) الأشباه: ۳۰۵/۱:

ہو، جس کو لوگ کسی خاص معنی پر اطلاق کا عرف بنالیں، اس طرح کہ جب اس کو سناجائے تو وہی معنی متبار ہوں، پس پہلی قسم کو عرف عملی کہتے ہیں، بعض علماء کو عادت کا نام دیتے ہیں اور دوسرا قسم عرف قولی ہے۔^(۱)

(۳) تیرا مسلک یہ ہے کہ عادت عام ہے اور عرف خاص، یہ اوپر کے قول کے بالکل برعکس ہے، اسی قول کو استاذ مصطفیٰ الزرقانی نے اختیار کیا ہے، چنانچہ وہ اپنی کتاب ”المد خل الفقهی الاسلامی“ میں ایک جگہ فرماتے ہیں:

”عرف“ عادت کی ایک قسم ہے، پس عادت ایک عام جنس ہے، جس کے تحت بہت سی انواع ہیں، ان میں سے ایک عرف ہے۔^(۲)

ایک اور جگہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں:

”يتضح من جميع ما تقدم أن العادة أعم من العرف ، لأنها تشمل العادة الناشئة من عامل طبيعي ، والعادة الفردية ، و عادة الجمهور التي هي العرف .“

(اوپر جو عرض کیا گیا اس سے واضح ہوتا ہے کہ عادت، عرف سے عام ہے؛ کیوں کہ عادت کا لفظ طبعی تقاضے سے پیدا ہونے والی عادت اور عادت فردیہ (جو کسی ایک آدمی کی عادت ہو) اور عادت جمہور جس کو عرف کہتے ہیں، ان سب کو شامل ہے۔)^(۳)

یہ اس سلسلے کے تین قول ہیں؛ لیکن حضرات فقہا کی اکثریت اس پر قائم ہے کہ

(۱) أصول الفقه الإسلامي: ۱۹۱/

(۲) المدخل الفقهي الإسلامي: ۸۳۱/۲:

(۳) المدخل الفقهي الإسلامي: ۸۳۳/۲:

عادت و عرف مصدق کے لحاظ سے ایک ہی ہے اور فقہا کے استعمالات اور تعبیرات سے بھی یہی واضح ہوتا ہے۔

عرف اور اجماع میں فرق

اس سلسلے میں اسی طرح کا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ عرف اور اجماع میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے اور یہ فرق کئی طرح پر ظاہر ہوتا ہے:

۱- اول یہ کہ عرف کا تحقیق اس وقت ہوتا ہے، جب کہ وہ عوام و خواص سب میں رائج ہو جائے؛ لیکن اجماع کا تحقیق صرف فقہائے مجتهدین کے اتفاق سے ہوتا ہے، اس میں عوام کا اعتبار نہیں، جیسا کہ امام فخر الدین الرازی نے ”المحصول“ میں، امام غزالی نے ”المستصفی“ اور ”المنخول“ میں اور امام سراج الدین الارموی رحمہم اللہ نے ”التحصیل من المحصول“ میں اس کی تصریح کی ہے۔^(۱)

اور امام الحرمین الجوینی رحمہم اللہ نے ”البرهان“ میں فرمایا:
 ”فلا شك أن العوام ، ومن شدا طرفاً قريباً من العلم لم يصر بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة ، وليسوا من أهل الإجماع ، فلا يعتبر خلافهم ولا يؤثر وفاقهم“.^(۲)
 (اس میں شک نہیں کہ عوام اور وہ لوگ جو تھوڑا سا علم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس علم سے مزین ہونے کے سبب شریعت میں تصرف

(۱) المحصول: ۲۸۰/۳، المستصفی: ۱/۲۳۳، المنخول: ۱/۳۱۰، والتحصیل من المحصول: ۸۱/

(۲) البرهان لإمام الحرمین: ۱/۸۲

کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے اور یہ اہل اجماع میں سے نہیں

ہیں، لہذا ان کا اختلاف معتبر ہے اور نہ ان کا اتفاق موثر ہے۔)

۲- دوسرے اجماع کے تحقیق کے لیے، اہل اجماع کا عاقل، بالغ، مسلمان، عادل، اور اہل سنت والجماعت سے ہونا ضروری ہے؛ لیکن عرف کے لیے ان میں سے کوئی چیز بھی شرط نہیں، امام ابو بکر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ”میزان الأصول فی نتائج العقول“ میں اجماع کی بحث میں بہت تفصیل سے اہل اجماع کے شرائط کا ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع کی الہیت کے لیے کئی شرائط ہیں: بعض متفق علیہ ہیں اور بعض مختلف فیہ ہیں، ان میں سے جو اتفاقی ہیں، وہ یہ ہیں: عقل، بلوغ، اسلام، عدالت اور اہل سنت میں سے ہونا اور احکام شریعت میں فتویٰ دینے اور اجتہاد کی صلاحیت ہونا۔ (۱)

ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں عرف کے تحقیق کے لیے ضروری نہیں ہیں۔ فاضح الفرق.

۳- تیسرا یہ کہ اجماع تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک جحت قطعیہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے؛ لیکن عرف جحت قطعیہ نہیں ہے؛ بل کہ ظنیہ ہے۔ لہذا اجماع سے ثابت شدہ امور کا منکر کافر ہے، لیکن عرف سے ثابت شئی کا منکر کافر نہیں ہے۔
نور الانوار میں ہے:

”إِنَّ الْإِجْمَاعَ فِي الْأُمُورِ الشُّرُعِيَّةِ فِي الْأَصْلِ يَفِيدُ
الْيَقِينَ وَالْقَطْعِيَّةَ، فَيَكْفُرُ جَاحِدُهُ“۔ (۲)

(۱) میزان الأصول: ۳۹۰-۳۹۱

(۲) نور الأنوار: ۲۲۵

۴- چوتھے یہ کہ اجماع تمام علماء کے نزدیک جحت ہے، جب کہ عرف کی جیت متفق علیہ نہیں ہے، بعض علماء اس کو جحت نہیں مانتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرف و اجماع کے مابین تحقیق و مصدق اور حکم سب میں فرق ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ

عرف کی فہمیں

اب عرف کی قسموں کی طرف آئیے عرف اپنے موضوع، اپنے دائرے و حدود اور معتبر ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے متعدد قسموں پر ہے، موضوع کے اعتبار سے عرف کی دو فہمیں ہیں: ایک ”عرف قولی“، دوسرے ”عرف عملی“ اور اپنے دائروں کے لحاظ سے بھی اس کی دو فہمیں ہیں: ایک ”عرف عام“، دوسرے ”عرف خاص“ اور اس کے معتبر عند الشرع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی دو فہمیں ہیں: ایک صحیح، دوسری کو فاسد کہتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور اس کی مشالیں ملاحظہ فرمائیں۔

”عرف قولی و عملی“ کی تعریف

”عرف قولی“ یہ ہے کہ لوگ کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے استعمال کریں، اس طرح کہ اطلاق کے وقت وہی خاص معنی ذہن میں متبار ہوں، جیسے لفظ ”دابة“ کہ عرف میں چوپائے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال آں کہ لغت میں ہر اس چیز پر اطلاق کیا جا سکتا ہے، جوز میں پر چلنے والی ہے؛ اسی طرح لفظ ”ولد“ کہ عرف میں عام طور پر صرف مذکور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب کہ لغوی معنی کے لحاظ سے مذکور موئنت یعنی لڑکے و لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

”عرف عملی“ یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی کام اس طرح راجح و متعارف ہو جائے،

کہ وہ نفوس میں مستقر ہونے لگے۔ جیسے لوگوں کا گیہوں کھانا یا بھیڑ بکری کا گوشت کھانا، یا جیسے بیع تعاطی، یا جیسے آرڈر دے کر کسی چیز کا بنانا وغیرہ یہ سب افعال ہیں جن کا رواج پایا جاتا ہے۔

”عرف عام“ و ”عرف خاص“ کی تعریف

عرف عام یہ ہے کہ وہ تمام شہروں اور علاقوں میں راجح و متعارف ہو، کسی طبقے یا کسی شہر یا علاقے کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ جیسے ”استصناع“، یعنی آرڈر دے کر کسی چیز کا بنانا تمام جگہوں پر اور ہر طبقے میں راجح ہے، یا جیسے بغیر اجرت و مدت کے مقرر کیے ہوئے حمام میں داخل ہونا وغیرہ۔

”عرف خاص“ یہ کہ کوئی خاص طبقہ یا علاقہ اس کی عادت بنالے یا اس کا رواج کر لے۔ جیسے اہل عراق لفظ ”دابة“ کہہ کر گھوڑا مراد لیتے ہیں، یا جیسے نوحی لوگ لفظ ”اسم“ سے ایک خاص معنی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسی طرح بعض علاقوں میں بیع بالوفا کا رواج عرفِ خاص میں داخل ہے۔

انتباہ: یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرفِ عام و عرفِ خاص میں سے ہر ایک قویٰ عملی دونوں ہو سکتے ہیں۔

”عرف صحیح“ اور ”عرف فاسد“ کی تعریف

عرف صحیح اس عرف کو کہتے ہیں جو نصوص شرعیہ اور قواعد ثابتہ کے مناقض و مخالف نہ ہو۔ جیسے لوگوں میں مروج وہ معاملات، جن میں کوئی نص شرعی وارد نہیں اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں، جو کسی حرام کو حلال کرنے والی ہو۔

”عرف فاسدہ“ وہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہو یعنی جو نصوص شرعیہ میں سے کسی نص کے مناقض ہو یا قواعد شرعیہ میں سے کسی قاعدہ کے مخالف ہو، اس طرح کہ اس سے کسی حرام کا حلال کرنا لازم آئے۔

استاذ منصور محمد الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”أصول الأحكام“ میں لکھتے ہیں:

”إنَّ كَانَ (الْعِرْفُ) لَا يَنَاقِضُ الْقَوَاعِدَ الْشَّرِعِيَّةَ، وَالْحَكَامُ الْمُبَابَةُ الَّتِي لَا تَتَغَيِّرُ كَالْمَعَالَمَاتِ الَّتِي تَقْوِدُهَا النَّاسُ مَمَّا لَمْ يُرِدْ فِيهِ نَصٌّ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَحْلِيلٌ لِشَيْءٍ حَرَامٍ، إِنَّ كَانَ الْعِرْفُ كَذَلِكَ فَهُوَ صَحِيحٌ، وَإِنَّ كَانَ مَنَاقِضاً لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عِرْفٌ فَاسِدٌ.“ (۱)

عرف و عادت کا اعتبار

شرعیت میں عرف و عادت کا اعتبار ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں جمہور علماء و فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اعتبار ہے اور ان حضرات نے قرآن و حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے:

شرعی دلائل

(۱) قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ﴾ (عرف کے مطابق حکم دیجئے)

(الْإِعْرَافُ : ۱۹۹)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ بعض علمانے اس آیت سے عرف کے

(۱) أصول الأحكام: ۲۰۲

اعتبار پر استدلال کیا ہے۔ (۱)

اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الْکَلِیْل فِی اسْتِبْطَاطِ التَّنْزِیْل“ میں اس آیت سے مستنبط مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”قَالَ ابْنُ الْفَرْسٍ : الْمَعْنَى اقْضَى بِكُلِّ مَا عَرَفَتْهُ النُّفُوسُ مِمَّا لَا يَرْدِدُهُ الشَّرْعُ ، وَهَذَا أَصْلُ الْقَاعِدَةِ الْفَقِهِيَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْعَرْفِ .“ (۲)

(ابن الفرس نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ”آپ فیصلہ کیجیے ہر اس چیز کے موافق جس کو لوگ پہچانتے ہیں،“ یعنی جو ان میں راجح ہے، ان چیزوں میں سے جس کو شریعت روشنیں کرتی، اور یہ آیت عرف کے اعتبار ہونے کے سلسلے میں قاعدة فقهیہ کی اصل یعنی دلیل ہے۔)

اس آیت میں جو لفظ ”عرف“ آیا ہے، جمہور علمانے اس کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے، علامہ ابن العربي مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں چار اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) اس سے مراد معروف چیز ہے۔

(۲) اس سے مراد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا ہے۔

(۳) اس سے مراد وہ چیز ہیں جن کا دین میں سے ہونا معلوم ہو۔

(۴) وہ چیزیں یعنی محسن جن پر تمام شریعتیں متفق ہوں اور جن کا لوگ ان کا رنه کریں۔ (۳)

(۱) رسائل ابن عابدین : ۲/ ۱۱۵

(۲) الإکلیل : ۱۰/ ۱۱۰

(۳) أحكام القرآن : ۲/ ۸۲۳

ایک شبہ کا جواب

یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ یہ بات واضح ہے کہ آیت میں ”عرف“ سے وہ فقہی و اصطلاحی عرف مراد نہیں ہے، جو حضرات فقہا کے مابین دائر ہے؛ لہذا عرف کو یہاں فقہی و اصطلاحی معنی پر محمول نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ یہ اصطلاح حادث ہے اور نزول قرآن کے وقت اس اصطلاح کا کوئی وجود نہ تھا؛ لہذا عرف اصطلاحی پر اس آیت سے استدلال قابل اشکال معلوم ہوتا ہے؟

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ آیت میں اگرچہ فقہی و اصطلاحی عرف مراد نہیں ہے؛ لیکن اس سے عرف اصطلاحی کی تائید ہوتی ہے اور اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے، وہ اس طرح کہ مراد عرف سے معروف یعنی اچھی چیز ہے اور لوگوں کا اپنے معاملات و اعمال میں کسی چیز کا رواج و عادت بھی ان کے نزدیک امور معروفة میں سے ہے اور عقل ان کو مستحسن خیال کرتی ہے؛ لہذا یہ عرف بھی قرآنی عرف میں داخل ہوتا ہے۔

غالباً علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس درج ذیل عبارت کا یہی حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں:

”توجيه هذا الاستدلال هو أن العُرف في الآية وإن لم يكن مراداً به المعنى الاصطلاحي قد يستانس به في تأييد اعتبار العُرف بمعناه الاصطلاحي؛ لأن عُرف الناس في أعمال لهم ومعاملاتهم هو مما استحسنوه وألفته عقولهم، والغالب أن عُرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر بالمعارف، فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة.“ (۱)

(۱) المدخل الفقهي الإسلامي: ۱/۱۳۲

عرف کے عند الشرع معتبر ہونے کی دوسری دلیل حدیث پاک ہے۔

(۲) « عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ! أن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني و ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . فقال خذني ما يكفيك و ولدك بالمعروف . » (۱)

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوسفیان بہت بخیل آدمی ہیں، وہ اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو، الایہ کہ میں ان کی بے خبری میں ان کا مال لے لوں (تو کیا مجھے یہ جائز ہے)? آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے اور تیرے بچے کے لیے، جو کافی ہو وہ معروف طریقہ پر لے لے)

اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے ”خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف“ اس میں معروف سے مراد وہ ہے، جو عادةً معلوم ہو، چنانچہ ابن حجر رحمہم اللہ نے قرطبی سے نقل کیا ہے:

”والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.“ (۲)

اس تفسیر کی بنا پر یہ حدیث عرف کے معتبر ہونے کی دلیل ہے، چنانچہ امام نووی نے شرح مسلم میں، حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں اور امام قرطبی نے اس حدیث سے عرف کے اعتبار پر استدلال کیا ہے۔

(۱) صحيح البخاري: ۲/۸۰۸، صحيح المسلم: ۲/۷۵

(۲) فتح الباري: ۹/۵۰۹ اور بذل المجهود: ۵/۲۹۶ میں بھی اسی طرح معروف کی تفسیر کی گئی ہے۔

اما نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد گناتے ہوئے کہتے ہیں:

” ومنها اعتماد العرف في الامور التي ليس فيها تحديد ”

(١) شرعی۔“

اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

” وفيه اعتماد العرف في الامور التي لا تحدى في لها من قبل الشرع، وقال القرطبي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافاً لمن أنكر ذلك اخ. (٢)

معلوم ہوا کہ یہ حدیث، عرف کے اعتبار پر ایک دلیل ہے۔

(٣) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی جو تفصیل آئی ہے، اس میں عرفات کا خطبہ بھی مذکور ہے اور اس خطبے کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا:

«ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»

(تم پر اپنی عورتوں کا کھانا کپڑا بھی معروف طریقے پر لازم ہے۔) (٣)

اس میں بھی معروف سے مراد عرف و عادت سے معلوم چیز ہے، اسی لیے علامہ کہا ہے کہ عورت کا کھانا اور کپڑا عرف و عادت کے مطابق دینا شوہر کے ذمے ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے:

”أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج“

(١) شرح مسلم للنووي: ٢/٥

(٢) فتح الباري: ٩/٥١٠

(٣) مسلم: ١/٣٩٧

کسوتها وجوباً، والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد، وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها۔^(۱)
 (علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے، کہ عورت کے لیے اس کے شوہر پر نفقة کے ساتھ وجوہی طور پر کچھ ادینا بھی ہے اور اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام شہروں کے لوگوں کو ایک ہی طریقے پر نہیں رکھا جائے گا؛ بل کہ ہر شہر والوں پر وہی لازم ہوگا، جو ان کے عرف و عادت میں، شوہر کی طاقت کے بقدر، عورت کو کفایت کرنے والی مقدار جاری ہے۔)

غرض اس حدیث میں بھی معروف سے یہی عرف و عادت مراد ہے؛ لہذا اس سے عرف کا معتبر ہونا معلوم ہوا۔

(۳) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

«ما رأاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». «
 (مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے)
 اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ، ابوسعید بن الاعرابی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" میں لکھا ہے۔
 البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے؛ نیز لکھا کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح اور سخاولی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔^(۲)

(۱) فتح الباری: ۹/۵۱۳

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة: ۲/۱۷

میں کہتا ہوں کہ یہ روایت اگرچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے؛ مگر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے؛ کیوں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کا قول جو عقل و رائے سے نہیں کہا جاسکتا، مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ (کما حقہ علماء الأصول) اور یہ روایت مرفوعاً بھی مردی ہے، مگر اس کی سند میں سلیمان بن عمر و خبی ہے جو کذاب ووضاع ہے، امام احمد، تیجی بن معین، قتیبه اور اسحاق نے اس کی تکذیب کی ہے۔ (۱)

(اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال میں نے اپنے عربی مقالے میں پیش کیے ہیں۔)

اس لیے یہ روایت مرفوع ثابت نہیں ہے، ہاں! یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بحکم مرفوع ہے۔

اس حدیث سے عرف کے اعتبار پر متعدد علمانے استدلال کیا ہے، جیسے ابن نجیم رحمہ اللہ نے ”الأشباء“ میں اور ابن عابدین رحمہ اللہ نے ”نشر العرف“ میں؛ لیکن اس پر یہ اشكال ہوتا ہے کہ حدیث سے اجماع امت مراد ہے نہ کہ عرف، جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے ”المستصفی“ میں فرمایا ہے۔ (۲)

یہ چند دلائل ہیں، جن سے شریعت میں عرف کا اعتبار اور اس کا ایک مقام ثابت ہوتا ہے، ایک دلیل قرآن کی آیت سے دی گئی ہے اور دو دلیلیں حدیث سے اور ایک صحابی کے قول سے جو اگرچہ روایت موقوف ہے؛ مگر معنی مرفوع ہے۔ والله اعلم

(۱) تهذیب التهذیب: ۳/۱۱۵-۱۱۷

(۲) المستصفی من الأصول: ۱/۱۳۸

عرف قولی احکام شرعیہ میں معتبر ہے

پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عرف، قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ احکام شرعیہ میں کیا دونوں معتبر ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دونوں معتبر ہیں۔ چنانچہ عرف قولی کے معتبر ہونے کے بارے میں فقہاء نے تصریح کی ہے۔

”الأشباء و النظائر“ میں ہے:

”فصل في تعارض العرف مع الشرع، فإذا تعارضاً قدم الاستعمال خصوصاً في الأيمان، فإذا حلف: لا يجلس على الفراش أو على البساط أو يستضي بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضائة بالشمس، وإن سماها الله فراشاً وبساطاً وسمى الشمس سراجاً۔ (۱)“

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عرف کا شرعی استعمال سے ٹکراؤ ہو، تو عرف کو مقدم رکھا جائے گا، خصوصاً قسم کے باب میں؛ لہذا کسی نے اگر یہ قسم کھائی کہ وہ فرش پر یا بساط پر نہیں بیٹھے گا، یا سراج یعنی چراغ سے روشنی حاصل نہ کرے گا، پھر وہ زمین پر بیٹھا، یا سورج سے روشنی حاصل کیا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حالاں کہ اللہ نے زمین کو فرش و بساط اور سورج کو سراج فرمایا ہے۔

”الأشباء“ میں ”فصل في التعارض بين العرف و اللغة“ میں لکھا ہے:

”صرح الذي يعني وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية و عليها فروع، منها لو حلف لا يأكل

(۱) الأشباء: ۳۰۲/۱

الخبز حنث بما يعتاده أهل البلد، وفي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البرّ، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرض، وفي زبيد إلى خبز الدُّرَّة، والدُّخْن، ولو أكل الحالف بخلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث . (۱)

(امام زیلیعی وغیرہ حضرات نے تصریح کی ہے کہ قسموں کا مدار عرف پر ہے نہ کہ لغوی حقائق پر اور اس اصول پر چند مسائل متفرقہ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، تو اس کی قسم اس چیز سے ٹوٹ جائے گی، جس کی اس کے شہر کے لوگ عادت رکھتے ہیں، ”قاهرة“ میں گیہوں کی روٹی کے سوا کسی اور روٹی کے کھانے سے وہ حانت نہ ہوگا اور ”طبرستان“ میں چاؤل کی روٹی مراد ہوگی اور ”زبید“ میں اس سے مراد مکمی اور باجراء کی روٹی ہوگی، قسم کھانے والا اس کے علاوہ کسی اور قسم کی روٹی کھائے گا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔)

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ کا جو معنی عرف میں مستعمل ہے اسی کا اعتبار ہوگا، کسی نے قسم کھائی کہ روٹی نہیں کھاؤں گا، تو روٹی کا لفظ عرف میں جس خاص چیز کے لیے مستعمل ہے اسی کے کھانے سے قسم ٹوٹے گی، ورنہ نہیں۔

فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ کبھی حقیقت کو عرف و عادت کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے۔ (۲)

(۱) الأشباه والناظائر: ۳۰۵

(۲) كنز الأصول للبذوي: ۸۶/۳

ابن قدامة حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغني“ میں لکھا ہے:

”إِنْ أَقْرَ بِدِرَاهِمْ، وَ أَطْلَقَ فِي بَلدٍ أُوزَانَهُمْ ناقِصَةٌ فِيهِ
وَجْهَانَ أَوْلَهُمَا يَلْزِمُهُ مِنْ دِرَاهِمِ الْبَلْدِ وَ دَنَانِيرِهِ، لِأَنَّ مَطْلَقَ
الْكَلَامِ يَحْمِلُ عَلَى عِرْفِ بَلْدِهِمْ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَ الْأَثْمَانِ .“ (۱)
ابن قدامة رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر لکھا:

”لَهُ عَلَى دِرَاهِمِ كَبِيرٍ لَزِمَّهُ دِرَاهِمُ مِنْ دِرَاهِمِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ
كَبِيرٌ فِي الْعَرْفِ“ . (۲)

ان تمام عبارات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، کہ بیع و شرایں، قسم میں، اقرار
میں اور دوسرے موقعوں پر عرف قولی احکام شرعیہ میں معتبر و موثر ہے۔

کیا عرف عملی معتبر ہے؟

اب رہا عرف عملی، تو اس کے بارے میں بھی فقہی تصریحات ملاحظہ فرمائیں،
جن سے واضح ہو گا کہ ”عرف عملی“، بھی شرعی احکامات میں معتبر و موثر ہے:
ابن قدامة حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المغني“ میں لکھا ہے:

”مَكْلِيٌّ“ و ”مُوزُونٌ“ چیز کے بارے میں ججاز کا عرف اصل و مرجع ہے (وہاں
جس کو وزنی سمجھا جاتا ہے، وہ وزنی اور جس کو مکلی سمجھا جاتا ہے وہ مکلی ہو گی)
آگے چل کر فرمایا: اور جس چیز میں ججاز میں کوئی عرف نہ ہو وہ دو صورتوں کو محتمل ہے:
ایک یہ کہ ججاز میں جو چیز اس سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اس کی طرف لوٹایا
جائے، جیسے حوادث کو منصوص علیہ کے ساتھ زیادہ مشابہ کی طرف پھیرا جاتا ہے،

(۱) المغني: ۵/۱۶۹

(۲) المغني: ۵/۱۷۰

قياس کا یہی تقاضا ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اپنے مقام کے عرف کا اعتبار کیا جائے، پس اگر اس کے لیے شریعت میں کوئی چیز مقرر نہ ہو، تو مرجع عرف ہو گا، یہی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور اس قول پر اگر اس معاملے میں شہروں (کاعرف) مختلف ہو، تو اعتبار غالب کا ہو گا اور اگر کوئی ایک غالب نہ ہو، تو یہ صورت باطل ہو گی اور پہلی صورت (عرف اپنی اپنی جگہ کا معتبر ہے) متعین ہو گی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ان ہی دو صورتوں پر ہے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں شرعاً کوئی حد مقرر نہیں، ان میں عرف عملی کا معتبر ہونا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب کا مذہب ہے۔

نیز ”هدایہ“ میں ہے:

جس نے جو تا اس شرط پر خریدا کہ باع اس کو بنائے کر دے یا اس میں تسمہ لگائے، تو بیع فاسد ہے، صاحب ”هدایہ“ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کا جواب ہے اور اس کی وجہ وہ ہے، جو ہم نے اوپر بیان کر دی اور استحسان یہ ہے کہ یہ تعامل (عرف) کی وجہ سے جائز ہے، پس یہ ایسا ہے جیسے کپڑا رکنا (یعنی جائز ہے) اور ہم نے تعامل ہی کی وجہ سے ”استصناع“ (آرڈر دے کر کسی چیز کے بنانے) کو بھی جائز قرار دیا ہے۔^(۲)

در مختار میں ہے:

”کما یصح أيضاً وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفاس، وقدوم، بل ودراثم، ودنانير إلى أن قال.... لأن التعامل يترك به القياس بخلاف مala تعامل فيه، كثياب ومتاع الخ.“^(۳)

(۱) المغني: ۲۱/۲-۲۲

(۲) هدایہ: ۳/۳-۴۵

(۳) الدر المختار مع الشامي: ۳۶۲/۲-۳

اس کا حاصل یہ کہ اشیائے منقولہ کا وقف اگرچہ قیاساً صحیح نہیں؛ الا یہ کہ تبعاً ہو، قصد آنہ ہو؛ لیکن جن منقول اشیا کا وقف کرنا تعامل سے ثابت ہو، ان چیزوں کو وقف کر سکتے ہیں، جیسے کلہاڑی، کلہاڑا اور درہم و دینار وغیرہ؛ کیوں کہ تعامل کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان تمام عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات فقہاء نے عرفِ عملی کا شرعی احکامات میں اعتبار کیا ہے۔

عرف عام معتبر ہے یا نہیں؟

جیسا کہ معلوم ہو چکا، عرفِ قولی عملی دونوں کی دو قسمیں ہیں، عرف عام و عرف خاص، سوال یہ ہے کہ شرعیات میں عرف عام کا اعتبار ہے یا نہیں؟ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ عرف عام ہی شرعیات میں معتبر ہے اور اس کے معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نص عام کی تخصیص کر سکتا ہے اور یہ کہ اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جا سکتا ہے۔

اس کی توضیح یہ ہے کہ عرف اگر ہر طرح اور ہر صورت سے شرعی دلیل کے مخالف ہو، اس طرح کہ اس سے نص شرعی کا ترک لازم آتا ہو، تو وہ ہرگز معتبر نہیں ہے، جیسا کہ محور ثالث میں اس پر بحث آئے گی اور اگر دلیل شرعی کے ہر طرح مخالف نہ ہو؛ بل کہ اس کے بعض افراد کے اعتبار سے اس کا مخالف ہو، مثلاً: دلیل شرعی تو عام ہو اور عرف اس کے بعض افراد کے مخالف ہو، تو وہ معتبر ہو گا یعنی وہ اس دلیل شرعی کی تخصیص کر دے گا، اسی طرح اگر عرف قیاس کے مخالف ہو؛ تو قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔

عرفِ عام کی وجہ سے دلیل شرعی کی تخصیص کی مثال استصناع ہے جو کہ معدوم کی
تبع ہے اور حدیث میں معدوم کی تبع سے منع کیا گیا ہے۔ (۱)

(۱) آخر جه الخمسة وصححه الترمذی وابن خزيمة و الحاکم، قاله ابن حجر فی "بلوغ المرام": ۵۸

فقہا نے تعامل و عرف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا ہے، جس سے اس نص شرعی کی تخصیص ہو گئی ”الذخیرۃ البرھانیۃ“ میں ہے:

”أَلَا تری إِنَا جُوزْنَا الْاسْتَصْنَاعَ لِلتَّعَامِلِ، وَالْاسْتَصْنَاعَ بَعْدَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ مِنْهِ عَنْهُ، وَتَجْوِيزُ الْاسْتَصْنَاعَ بِالتَّعَامِلِ تَخْصِيصٌ مَنْا لِلنَّصِ الَّذِي وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَعْدِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، لَا تَرْكُ لِلنَّصِ أَصْلًا، لَأَنَا عَمَلْنَا بِالنَّصِ فِي الْغَيْرِ الْاسْتَصْنَاعَ“ . (۱)

اور عرف کی وجہ سے قیاس کو ترک کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی جوتا اس شرط پر خریدتا ہے کہ باعث اس میں تسمہ لگائے تو مقتضائے بیع کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ شرط اس بیع کو فاسد کر دیتی ہے؛ لیکن پھر بھی فقہا نے اس قیاس کو ترک کر کے عرف کی وجہ سے اس بیع کو جائز قرار دیا ہے۔ (۲)

یہ ترک قیاس کی مثال ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عرف عام کی وجہ سے نص شرعی میں تخصیص کی جاسکتی ہے اور قیاس کا ترک جائز ہے، یہی معنے ہے عرف عام کے معتبر ہونے کا۔

عرف خاص کا اعتبار ہے یا نہیں؟

رہا عرف خاص تو اصل مذهب یہ ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ ”الأشباه“ میں تصریح کی ہے:

”فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَدْمُ اعْتِبَارِ الْعِرْفِ الْخَاصِ“ . (۳)

(۱) رسائل شامي: ۲/۱۱۶

(۲) الہدایہ: ۳/۲۵

(۳) الأشباء: ۱/۳۱۷

اور عرفِ خاص کا معتبر نہ ہونا اس معنی کر ہے کہ وہ نص میں تخصیص کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کی وجہ سے قیاس کو بھی ترک نہیں کیا جائے گا، چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”وبما قررنا تبیین لک أن ما تقدم عن الأشیاء من أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص إنما هو في ما إذا عارض النص الشرعي، فلا يترك به القياس ولا يخصّ به أثر.“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عرفِ خاص کا معتبر نہ ہونا اس صورت میں ہے، جب کہ دلیل شرعی کے مخالف ہو، پس اس کی وجہ سے نہ تو قیاس شرعی کو ترک کیا جائے گا، اور نص کو مخصوص کیا جائے گا؛ لیکن جہاں نص وارد نہ ہو اور نہ وہ قیاس شرعی کے معارض ہو، وہاں عرفِ خاص بھی معتبر ہے۔

چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کی عبارت سے اس کو واضح کیا ہے۔ مثلاً فقہانے یہ لکھا ہے کہ:

”العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق، وبشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه أو منه الخ“. (۲)

اس کے متعلق صاحب ”بحر الرائق“ نے ”کافی“ سے نقل کیا ہے کہ علو کا بعض صورتوں میں داخل شرا ہو نا اور بعض میں نہ ہونا کوفہ کے عرف پر مبنی ہے اور ہمارے عرف میں ہر صورت میں علو داخل شرا ہو گا، آگے لکھتے ہیں:

”و الأحكام تبني على العرف، فيعتبر في كل إقليم

(۱) رسائل شامی ۱۳۳/۲:

(۲) کنز الدقائق: ۲۵۰

وفي كل عصر عرف أهله۔ (۱)

یہ عبارت عرفِ خاص کے معتبر ہونے پر صریح ہے، پس خلاصہ یہ ہے کہ عرفِ خاص اگر نص یا قیاس شرعی کے معارض ہو، تو اس کا اعتبار نہ ہو گا اور اگر معارض نہ ہو، تو اس کا اعتبار ہو گا۔

عرف کے معتبر ہونے کی شرطیں

عرفِ خواہ عام ہو یا خاص، اس کا اعتبار اس وقت ہو گا، جب کہ ان شرائط کا تحقق ہو، جن پر اس کے معتبر ہونے کو موقوف رکھا گیا ہے، اگر وہ شرائط پائی جائیں، تو عرف معتبر ہو گا، ورنہ نہیں۔

وہ شرائط حسب ذیل ہیں:

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نص شرعی سے اس طرح نہ ٹکراتا ہو، جس سے نص معطل ہو جائے؛ کیوں کہ نص شرعی، عرف سے اقویٰ ہے، لہذا اقویٰ کو لیا جائے گا۔

علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”أن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل، كتعارف أهل زماننا في إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد ، و النص بعد ثبوته لا يحتمل أن يكون على باطل“۔ (۲)

علامہ شامي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إذا خالف العرف ، الدليل الشرعي فإن خالفه من كل

(۱) البحر الرائق: ۶/۱۳۷

(۲) فتح القدير: ۷/۱۵

ووجه بأن لزم منه ترك النص ، فلاشك في رده، كتعارف الناس كثيراً من المحرمات من الربا، و شرب الخمر، ولبس الحرير والذهب، وغير ذلك مما ورد تحريمها نصاً۔ (۱)

(عرف اگر دلیل شرعی کے ہر طرح مخالف ہو کہ اس سے نص کا ترك لازم آئے، تو اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، جیسے بہت سے محرمات کا لوگوں میں عرف ہو گیا ہے، مثلا: سود، شراب پینا، ریشم اور سونا پہننا وغیرہ جن کی ممانعت نص میں وارد ہوئی ہے)

”الأشباه والنظائر“ میں ہے:

محمد بن فضل رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ناف سے لے کر بالوں کے أگنے کے مقام تک کا حصہ چوں کہ عام طور پر لوگ چھپاتے نہیں، لہذا اس عرف کی وجہ سے اس حصہ کا چھپانا ضروری نہیں ، علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ”و هذا ضعيف و بعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر“۔ (۲)

(یہ ضعیف و بعيد ہے؛ کیوں کہ نص کے خلاف تعامل معتبر نہیں۔) فقہا کی ان تمام عبارات سے واضح ہوا کہ عرف کا اعتبار اسی وقت ہو گا، جب کہ وہ نصوص شرعیہ کے معارض نہ ہو۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ عرف تمام لوگوں میں شائع و عام ہو، یا کم از کم اس کا رواج غالب ہو، اگر غالب نہ ہو گا، تو اس کا اعتبار نہیں، ابن نجیم رحمۃ اللہ نے فرمایا:

(۱) رسائل ابن عابدین ۲/۱۱۶

(۲) الأشباه: ۱/۲۹۸

”إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلت، ولذا قالوا في
البيع: لو باع بدرًاهم أو دنانير و كانا في بلد اختلف فيه
النقود مع الاختلاف في الماليّة و الرواج انصرف إلى
الأغلب“.^(۱)

اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”اعلم أن كلاً من العرف العام و الخاص إنما يعتبر إذا
كان شائعاً بين أهله يعرفه جميعهم“.^(۲)

(عرف عام وخاص میں سے ہر ایک اسی وقت معتبر ہوگا، جب کہ وہ
تمام اہل عرف میں شائع و عام ہو کہ سب اس کو جان لیں۔)

(۳) تیسرا شرط یہ ہے کہ عرف سابق ہو، طاری نہ ہو، ”الأشباه والنظائر“
میں ہے کہ وہ عرف جس پر الفاظ مجموع ہوتے ہیں، وہ عرف مفارق سابق ہے، نہ کہ
عرف متاخر، اسی لیے فقہاء کہا ہے ”لاعبرة بالعرف الطاري“۔^(۳)

علامہ جموی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شرح میں جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو
عرف، لفظ بولنے سے پہلے سے قائم ہوا اور برابر قائم رہے، وہ عرف مراد و معتبر ہے، اور
جو عرف پہلے نہ تھا، کلام کے بعد پیدا ہوا، اس پر الفاظ کو مجموع نہیں کیا جائے گا۔

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ کلام میں عرف کے خلاف کوئی تصریح نہ ہو، اگر عرف کے
خلاف کسی بات کی تصریح کر دی جائے تو اعتبار اسی تصریح کا ہوگا، نہ کہ عرف کا۔^(۴)

(۱) الأشباه والنظائر: ۲۹۹/۱

(۲) رسائل ابن عابدین: ۱۳۲/۲

(۳) الأشباه: ۳۱۱/۱

(۴) (راجع) المدخل الفقهي: ۸۷۳/۲

عرف اگر نص عام کے معارض ہوتا؟

اوپر کی پیش کردہ شرطوں کی روشنی میں بعض اہم سوالات حل ہو جاتے ہیں۔

مثلاً: یہ سوال کہ عرف اگر نص عام کے مخالف و معارض ہو، تو اس کا اعتبار ہو گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرف اگر نص عام سے پوری طرح معارض نہ ہو، یعنی من کل وجہ مخالف نہ ہو؛ بل کہ صرف بعض افراد میں اس کے مخالف ہو تو اس کا اعتبار ہے اور اگر ہر اعتبار سے مخالف ہو تو اعتبار نہیں، جیسا کہ ہم نے محورِ ثانی میں اس کی وضاحت کی ہے کہ عرف عام نص شرعی کا تخصیص بن سکتا ہے، ہاں! عرفِ خاص چوں کرنص کا تخصیص نہیں بن سکتا؛ لہذا اس کا اعتبار نہ ہو گا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

” وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْهُ (أَيْ إِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْعَرْفَ الدَّلِيلُ الشَّرِعيُّ) مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَأْنَ وَرَدَ الدَّلِيلُ عَامًا وَالْعَرْفُ خَالِفُهُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ، أَوْ كَانَ الدَّلِيلُ قِيَاسًا، فَإِنَّ الْعَرْفَ مُعْتَبِرٌ إِنْ كَانَ عَامًا، فَإِنَّ الْعَرْفَ الْعَامَ يُصْلِحُ مُخْصِصًا۔“ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر عرفِ عام ہو اور نص عام سے ٹکراتا ہو، تو اگر بعض افراد کے اعتبار سے ٹکراتا ہو، تو وہ معتبر ہو گا، بایں معنی کہ وہ نص کو خاص کر دے گا؛ لیکن اس صورت میں عرفِ خاص کا اعتبار نہ ہو گا، یعنی وہ نص عام کی تخصیص نہیں کر سکتا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

” وَبِمَا قَرَرْنَا تَبَيَّنَ لِكَ أَنَّ مَا تَقْدِمُ عَنِ الْأَشْبَاهِ مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبُ عَدَمُ اعْتَبَارِ الْعَرْفِ الْخَاصِ، إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا عَارَضَ

(۱) رسائل ابن عابدین: ۲/۱۱۶

النص الشرعي، فلا يترك به القياس ولا يخص به الأثر.“ (۱)

عرف عام کی بنابر نص عام کی تخصیص کی مثال یہ ہے کہ حدیث میں قفیز طحان سے نہیں آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طحان کو، گیہوں پسینے کی اجرت میں اس گیہوں کا ایک قفیز دینا منع ہے، اب اگر کوئی شخص کسی کپڑے بننے والے کوروئی یا اور کوئی چیز دے کر، بننے کی اجرت اسی سے طے کرے تو یہ بھی قفیز طحان کی نظیر ہونے کی بنابر ممنوع ہونا چاہیے؛ مگر مشائخ بلخ نے ان کے عرف و تعامل کی بنیاد پر اس کو جائز قرار دیا ہے؛ مگر اس سے نص عام کا ترک نہیں؛ بل کہ صرف تخصیص ہوئی ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الذخیرۃ البرهانیۃ“ سے نقل کیا ہے:

”ومشائخ بلخ كنصير بن يحيى و محمد بن مسلمة وغيرهما كانوا يُجيزون هذه الإجارة في الشياب لتعامل أهل بلدهم، والتعامل حجة يترك به القياس، ويخص به الأثر، وتجويز هذه الإجارة في الشياب ل التعامل بمعنى التخصيص للنص الذي ورد في قفیز الطحان؛ لأن النص ورد في قفیز الطحان لا في الحائک؛ إلا أن الحائک نظیره، فيكون وارداً فيه دلالة، فمتى تركنا العمل بدلة هذا النص في الحائک، و علمنا بالنص في قفیز الطحان كان تخصیصاً لا ترکاً أصلأً.“ (۲)

(مشائخ بلخ جیسے نصیر بن یحییٰ اور محمد بن مسلمه وغیرہ کپڑوں میں اس طرح کے اجرت کے معاملے کو ان کے اہل شہر کے تعامل کی بنابر جائز

(۱) رسائل شامی: ۱۳۳/۲

(۲) رسائل شامی: ۱۱۶/۲

قرار دیتے تھے اور تعامل ایسی جست ہے، جس کی وجہ سے قیاس کو ترک کیا جاتا اور حدیث کی تخصیص کی جاتی ہے اور اس اجرت کے معاملے کو تعامل کی بنا پر جائز قرار دینا، اس نص کی تخصیص کے معنی میں ہے، جو قفیز طحان کے بارے میں وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ نص تو قفیز طحان کے بارے میں ہے، نہ کہ کپڑا بننے والے کے بارے میں، ہاں کپڑا بننے والا اس کی نظیر ہے، لہذا یہ نص بہ اعتبار دلالت کے اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے، پس جب ہم اس نص کی دلالت پر عمل کو کپڑا بننے والے کے بارے میں ترک کر دیں اور قفیز طحان کے بارے میں اس نص پر عمل کر لیں تو یہ تخصیص ہوئی نہ کہ بالکل یہ اس کا ترک۔)

پس معلوم ہوا کہ عرف عام اس معنی کر معتبر ہے کہ وہ نص عام کی تخصیص کر سکتا ہے۔

عرف اگر نصِ خاص سے ٹکرائے تو؟

لیکن عرف اگر نصِ خاص سے معارض ہو کہ اس پر عمل کرنے سے نص کی تعطیل لازم آئے، تو اس کا اعتبار نہیں؛ اس لیے کہ تعامل اور عرف کی وجہ سے نص کا ترک جائز نہیں، عرف خواہ عام ہو یا خاص۔ مثلاً کسی جگہ یہ عرف ہو جائے کہ پیسے والے کو گیہوں کا ایک قفیز اجرت میں دیتے ہیں تو اس عرف کی بنا پر یہ جائز نہ ہو گا؛ کیوں کہ اس پر عمل کرنے سے نص کی تعطیل لازم آتی ہے، جو قفیز طحان کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے۔

چنانچہ ”الذخیرۃ البرهانیۃ“ میں لکھا ہے:

”وَ هَذَا بِخَلَافِ مَا لَوْ تَعْمَلُ أَهْلَ بَلْدَةٍ قَفِيزَ الطَّحَانَ،
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَ لَا تَكُونُ مُعَامَلَتَهُمْ مُعَتَبِرًا، لَأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا
مُعَامَلَتَهُمْ كَانَ تَرْكًا لِلنَّصِ، وَ بِالْتَّعْمَالِ لَا يَجُوزُ تَرْكٌ“

النص أصلًا وإنما يجوز تخصيصه. ”(۱)

(یہ اس صورت کے بخلاف ہے کہ کسی شہروالے خود قفیز طحان کا معاملہ کریں کہ یہ جائز نہیں ہے اور ان کا یہ معاملہ معتبر بھی نہیں ہے؛ اس لیے کہ اگر ہم ان کے اس معاملے کا اعتبار کریں، تو نص کا ترک لازم آئے گا اور تعامل کی وجہ سے بالکل یہ نص کا ترک جائز نہیں؛ بل کہ صرف نص کی تخصیص جائز ہے۔)

کیا عرف پرمنی احکام، تغیر عرف سے بدل جاتے ہیں؟

اس ضمن میں ایک نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو احکام عرف پرمنی ہوتے ہیں، عرف کے بدل جانے سے کیا ان احکام میں بھی تغیر ہوتا ہے؟

اس مسئلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ شریعت نے جن احکام کو بیان کر دیا ہے، وہ اگر چہ مرنی بر عرف ہوں؛ مگر ان میں کبھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کو کیلی (نالپی جانے والی) قرار دے دیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے کیلی ہوں گی اور جن کو وزنی (وزن کی جانے والی) قرار دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وزنی ہوں گی، اگرچہ کہ عرف بدل گیا ہو اور لوگ کیلی کو وزنی اور وزنی کو کیلی قرار دے لیں۔

صاحب ”هدایۃ“ نے لکھا ہے:

”کل شيء نصّ رسول الله ﷺ على تحريم التفاضل فيه كيلاً فهو مكيل أبداً، وإن ترك الناس الكيل“

(۱) رسائل الشامي: ۲/۱۱۶

فیه، مثل الحنطة و الشعیر و التمر والملح، وكل شيء
نص على تحريم التفاضل فيه وزناً فهو موزون أبداً، وإن
ترك الناس الوزن فيه، مثل الذهب و الفضة؛ لأن النص
أقوى من العرف.“^(۱)

(ہر وہ چیز جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے
باعتبار کیل کے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ مکملی ہوگی، اگرچہ کہ
لوگوں نے اس میں ناپنا چھوڑ دیا ہو، جیسے گیہوں، جو، کھجور، نمک اور ہر
وہ چیز جس کے اندر باعتبار وزن کے اللہ کے رسول ﷺ نے
نے کمی بیشی کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ موزونی ہوگی، اگرچہ کہ لوگوں نے
اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو۔ جیسے سونا اور چاندی؛ کیوں کہ نص عرف
سے زیادہ قوی ہے) ”در مختار“ وغیرہ میں بھی اسی طرح ہے۔^(۲)

یہ جمہور کا قول ہے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عرف کا
اعتبار کرتے ہوئے حکم میں تبدیلی ہوگی؛ کیوں کہ بعض اشیا کا کیلی اور بعض کا وزنی
قرار دیا جانا، اس بنابر ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ چیزیں کیلی یا وزنی تھیں،
تو معلوم ہوا کہ اصل چیز عرف ہے، پس جب عرف بد لے گا تو حکم بھی بد لے گا۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف کے قول کی تشریع کرتے ہوئے
”نشر العرف“ میں لکھا ہے:

”و إنما أراد (أبو يوسف رحمۃ اللہ علیہ) تعلیل النص بالعادة بمعنى“

(۱) الہدایہ: ۳/۲۴

(۲) دیکھو: الدر المختار مع الشامي: ۵/۲۷، الجوهرة النيرة: ۲/۲۲، البحر الرائق: ۶/۲۹

أنه إنما نص على البرّ والشعير والتمر والملح بأنها مكيلة، وعلى الذهب والفضة بأنها موزونة؛ لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك، فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة، حتى لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البرّ وكيل الذهب لورد النص على وفقها، فحيث كانت العلة للنص على الكيل في البعض، والوزن في البعض هي العادة تكون العادة هي المنظور إليها”。 (۱)

”درمختار“ و ”نشر العرف“ میں ہے کہ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو راجح قرار دیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بھی اسی طرف مشیر ہے، وہ فرماتے ہیں:

”فالناس في مقادير الدرارم والدنانير على عادتهم، فما أصطاحوا عليه وجعلوه درهماً فهو درهم، وما جعله ديناراً فهو دينار، وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيراً أو كبيراً۔“ (۲)

علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عرف پر بنی احکام، عرف کے بدل جانے سے، متغیر ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نے ”اعلام الموقعين“ میں لکھا ہے:

”إِنَّ النَّبِيَّ حَلَّى لِفَتَنَةِ الْكَلْمَ فِرْضَ صَدَقَةِ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقطَ، وَ

(۱) رسائل ابن عابدین ۲/ ۱۱۸

(۲) فتاویٰ ابن تیمیہ ۱۹/ ۲۲۹

هذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فاماً أهل بلد أو محله
قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. قال: وإنما
نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون
اتخاذ الأطعمة يوم العيد؛ بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم
سائر السنة، ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم
الأضاحي ^{أمرووا} أن يطعموا منها القانع و المعتر، فإذا كان
أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم

بل يشرع لهم أن يواسوا المساكين من أطعمةتهم“.(۱)

علامہ کی یہ عبارت اس فصل میں ہے، جس میں زمانہ، جگہ، حالت و نیت کے
بدل جانے سے فتاویٰ میں تغیر کی بحث فرمائی ہے، غرض یہ مسئلہ اختلافی ہے، احוט
جمہور کا مسلک ہے، دوسرا مسلک اوسع ہے۔

عرف اگر قیاس کے مخالف ہوتا؟

عرف اگر قیاس شرعی کے معارض و مخالف ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عرف کا
اعتبار کیا جائے گا یا قیاس پر عمل کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مختلف
صورتیں ہیں:

(۱) عرف اگر عام ہو اور قیاس اس کے مخالف ہو، تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا
اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔
شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے:

”فِإِنَّ الْعُرْفَ الْعَامَ يَصْلَحُ مُخْصَصًا كَمَا مَرَّ عَنِ التَّحْرِيرِ،“

(۱) إعلام الموقعين: ۳/۱۲-۱۳

و يترك به القياس كما صرحوا به في مسئلة الاستصناع،
ودخول الحمام، والشرب من السقاء.“ (۱)

علامہ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”صح بيع نعل على أن يحدوه أو يشرّكه ، والقياس فساده
لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه ، و ما ذكره
جواب الاستحسان للتعامل .“ (۲)

خلاصہ یہ کہ جوتا اس شرط پر خریدنا کہ اس میں باع تمہ لگائے یا چہڑا اس شرط
پر خریدنا کہ باع اس کا جوتا بنائے، یہ شرط فاسد ہے اور تقاضائے عقد کے خلاف ہے؛
الہذا قیاس کہتا ہے کہ یہ بیع فاسد ہو؛ مگر اس قیاس کو ترک کر کے علمانے عرف و تعامل کی
بنابر اس بیع کو جائز قرار دیا ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ عرف عام کی بنابر، قیاس کو ترک کیا جاتا ہے، اگر وہ عرف
کے مخالف اور معارض ہو۔

(۲) اگر عرفِ خاص ہو، تو قیاس کے مقابلے میں اس کا اعتبار نہ ہوگا؛ الہذا قیاس
کو ترک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی گئی ہے۔
اور وجہ یہ ہے کہ قیاس شرعی ادله شرعیہ میں سے ہے، اس کا معارضہ و مقابلہ
صرف ایسی دلیل کر سکتی ہے جو اس سے قوی ہو، یا کم از کم اس کے مثل ہو اور عرف
خاص اگر چہ دلیل شرعی ہے؛ مگر قیاس کے مقابلے میں اس درجہ کی نہیں ہے۔
چنانچہ قیاس سے حکم عام ثابت ہوتا ہے اور عرفِ خاص سے حکم عام ثابت نہیں ہوتا؛
بل کہ صرف حکم خاص ثابت ہوتا ہے۔

(۱) رسائل الشامی: ۱۱۶/۲

(۲) البحر الرائق: ۸۸/۶، رد المحتار: ۵/۸۸

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إن حکم العرف یثبت علی أهله عاماً أو خاصاً، فالعرف العام
في سائر البلاد یثبت حکمه علی أهل سائر البلاد، و الخاص في
بلدة واحدة یثبت حکمه علی تلك البلدة فقط۔ (۱)

غرض یہ کہ عرف خاص اگر قیاس کے معارض ہو، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا
اور اس کی وجہ سے قیاس کو ترک نہیں کریں گے۔

قواعد عامہ کی خلاف ورزی کی صورت میں عرف کا حکم

کیا عرف اس صورت میں قابل اعتبار ہو سکتا ہے، جب کہ وہ شریعت کے
قواعد عامہ کے خلاف ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں؛ کیوں کہ قواعد شرعیہ عامہ ایسے
محکم اور قطعی ہوتے ہیں، کہ وہ تغیر و تبدل کو قطعاً قبول نہیں کرتے اور عرف ظاہر ہے
کہ ایک ضمنی چیز ہے، جو قطعیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا عرف قواعد شرعیہ کا
معارض و مقابل نہیں ہو سکتا اور جو عرف قوائد شرعیہ کا معارض ہو، وہ واجب الرد ہو گا۔

استاذ زکی الدین شعبان نے لکھا ہے:

”و لا نزاع بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفًا
للأدلة الشرعية وأحكامه الثابتة التي لا تغير باختلاف البيئات
و العادات لا يلتفت إليه ، ولا يعتمد به بل يجب الغاؤه۔“ (۲)

اور استاذ منصور محمد اشخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”و إن كان (أي العرف) مناقضاً لشيء من ذلك (أي

(۱) رسائل الشامي: ۱۳۲/۲

(۲) أصول الفقه إسلامي: ۱۹۳

القواعد الشرعية) فهو عرف فاسد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل يتبعين محاربته و القضاء عليه“۔ (۱)

عرف وعادت سے متعلق قواعد فقہیہ

جاننا چاہیے کہ حضرات فقہا علیہم الرحمہ نے عرف و عادت سے متعلق متعدد قواعد وضع کیے ہیں اور ان قواعد سے عرف کے معتبر ہونے یا غیر معتبر ہونے کے شرائط؛ نیز ان سے متعلق احکام کا علم بھی ہو جاتا ہے، لہذا یہاں ان فقہی قواعد کو مختصر تشریع و توضیح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے:

(۱) العادة مُحكمة

یعنی عرف و عادت شرعی حکم کے ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

(۲) استعمال الناس حجة يجب العمل بها

یعنی لوگوں کا عادت کے طور پر کسی چیز کا استعمال جلت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے؛ مگر یہ وہاں ہے جہاں نص شرعی وارد نہ ہو اور استعمال کا معنے بعض علمان یہ بتایا کہ یہ (استعمال) اور عادت دونوں متراوف ہیں اور بعض نے فرمایا کہ استعمال کے معنے ہیں لفظ کو اس کے مجاز شرعی کی طرف منتقل کرنا اور عادت یہ ہے کہ لفظ کو اس کے مجاز عرفی کی طرف منتقل کرنا۔ (۲)

(۱) أصول الأحكام: ۲۰۲:

(۲) كما في الأشباه: ۳۹۶/۱

(۳) العادة إنما تعتبر إذا اطّردتْ أو غلت

یعنی عادت اس صورت میں قابل اعتبار ہوگی، جب کہ وہ تمام لوگوں میں پھیل جائے یا یہ کہ وہ غالب ہو، اس طرح کہ اکثر لوگوں میں پھیل جائے، پس اگر صرف خواص میں یہ شائع ہو، عام لوگوں میں شائع نہ ہو، تو اتنی سی بات سے تعارف ثابت نہ ہوگا، یعنی یہ عرف و عادت میں داخل نہ ہوگا۔^(۱)

(۴) الثابت بالعرف كالثابت بالنص

جو عرف سے ثابت ہو وہ ایسا ہے، جیسے نص سے ثابت ہو، علامہ ابو زہرہ نے فرمایا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف سے ثابت ہوتا ہے، وہ ایک ایسی دلیل سے ثابت ہے، جس پر نص کی طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے، جب کہ نص موجود نہ ہو۔^(۲)

میں کہتا ہوں کہ پھر اس اصول کا معنی یہ ہوگا کہ عرف جدت شرعی ہے، جس طرح کہ نص ہے، اگرچہ مرتبے میں اس سے کم ہوا ورنہ یہ معنی بالکل صحیح ہیں۔

(۵) التعین بالعرف كالتعین بالنص

اس کا مطلب یہ ہے کہ جن امور میں نص شرعی وارد نہیں، ان کی عرف و عادت تعین کرنا بہ لحاظ حکم ایسا ہے جیسے نص کے ذریعے تعین کرنا، جیسے وہ اشیا جن کے مکملی یا موزونی ہونے کی شارع نے تصریح نہیں کی ہے، تو ان میں مرجع عرف و عادت ہے۔

(۱) الأشباه: ۱/۳۱۶، رسائل الشامي: ۲/۱۳۲

(۲) أصول الفقه لأبي زهرة: ۲/۲۷۳

(۶) الحقيقة تترك بالعادة والاستعمال

فخر الاسلام بزدوي رحمة الله نے فرمایا:

”حقيقة بھی عادت اور استعمال کی وجہ سے ترک کر دی جاتی ہے، جیسے لفظ ”صلوة“ کہ دعا کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”وصل عليهم“ (یعنی ان کے لیے دعا کرو) مجازاً عبادت معرفہ معلومہ کا نام رکھا گیا ہے، کیوں کہ نماز (عبادت معلومہ) ذکر کے لیے مشروع ہوئی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ”و أقم الصلاة لذكري“ اور ہر ذکر دعا ہے (لہذا نماز کو صلوٰۃ کہا گیا) اور جیسے حج کہ اس کے معنی لغت میں ارادہ کرنے کے ہیں، پس وہ ایک معلوم عبادت کا نام ہو گیا مجازاً، کیوں کہ حج میں قطع مسافت کا پختہ ارادہ و عزم ہوتا ہے، اسی طرح دیگر نظائر میں جیسے عمرہ، زکوٰۃ، حتیٰ کہ حقیقت متزوک ہو گئی، عرف و عادت کا ترک حقیقت پر دلالت کرنا؛ اس لیے ہوتا ہے کہ کلام لوگوں کے استعمال اور ان کی حاجت کے لیے بنایا گیا ہے، پس مجاز ہی ان کے استعمال کی وجہ سے حقیقت کے برابر ہوگا۔“ (۱)

(۷) المعروف عرفًا كالمشروع شرطاً

علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ نے ”اشباه“ میں اس قاعدے پر بسوط کلام کیا ہے، اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ نے بھی ”نشر العرف“ میں اس پر کلام کیا ہے اس قاعدے پر جن جزئیات کو متفرع کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ کہ اگر باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے، پھر یہ

(۱) كنز الأصول للبزدوی: ۸۷

دعویٰ کرے کہ عاریٰ دیا تھا اور اس پر کوئی گواہ نہ ہو، تو اس میں اختلاف ہے، فتنوی اس پر ہے کہ اگر عرف یہ چل رہا ہو اور چلتا آیا ہو کہ باپ اس جہیز کو ملکیت کے طور پر دیتا ہے، نہ کہ عاریٰ کے طور پر تو باپ کا یہ دعویٰ قبول نہ ہو گا، ہاں اگر یہ عرف مشترک ہو، یعنی ملکیت کے طور پر اور عاریٰ کے طور پر دونوں طرح کا عرف ہو، تو باپ کے دعوے کو مان لیا جائے گا۔ (۱)

(۸) العادة تجعل حکماً إذا لم يوجد التصریح بخلافه
عادت کو اس وقت حکم قرار دیا جائے گا جب کہ (عادت) کے خلاف تصریح نہ ہو۔

(۹) العرف یسقط اعتبارہ عند وجود التسمیة بخلافه
عرف کا اعتبار اس وقت ساقط ہو جاتا ہے، جب کہ اس کے خلاف تصریح موجود ہو۔ ان دونوں قواعد (۸ و ۹) کا معنی ظاہر ہے کہ عرف کا اعتبار اسی وقت ہو گا، جب کہ اس کے خلاف تصریح اور بیان نہ ہو اور یہ اعتبار عرف کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

(۱۰) العرف غير معتبر في المنصوص عليه
منصوص علیہ میں عرف کا اعتبار نہیں ہے، یہ قاعدہ بھی اعتبار عرف کے شرائط میں سے ایک شرط ہے اور اس کی شرح محور ثالث میں گزر چکی ہے۔

”الأشباه“ میں ہے:

اموال ربویہ میں سے جن کے بارے میں نص وارد نہیں ہوتی، ان کے مکملی یا موزنی ہونے میں عرف کا اعتبار ہو گا اور جب میں نص وارد ہوتی ہے کہ یہ مکملی یا موزنی

ہیں، ان میں عرف کا اعتبار نہ ہوگا۔ یہ امام ابوحنیفہ و امام محمد کے زدیک ہے۔ (۱)

علامہ ابوزہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”إن العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول الاستباط
يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب أو سنة.“ (۲)

(۱۱) النص أقوى من العرف

یہ قاعدہ حقیقت میں اوپروا لے قاعدے کی تقلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عرف منصوص علیہ میں اس لیے معتبر نہیں کہ نص عرف سے اقویٰ ہے اور یہ مسلم ہے کہ اقویٰ کوادنی کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا۔ (۳)

(۱۲) العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام

عادت مطلق کلام کی تقيید میں معتبر ہے۔

(۱۳) المطلق يتقييد بدلالة العرف

مطلق، عرف کی دلالت سے مقید کیا جاسکتا ہے۔

(۱۴) مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف

مطلق ذکر، عرف کی وجہ سے معروف کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔

یہ تینوں قواعد (۱۲، ۱۳، ۱۴) ایک ہی معنی رکھتے ہیں کہ جب کلام میں اطلاق سے کام لیا جائے، تو اس سے وہ مراد ہوتا ہے، جو عرف و عادت میں معروف ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے بیع کے موقع پر قیمت بیان کرنے میں اطلاق سے کام لیا، تو شہر میں جو غالب نقد ہے اس پر محمول کیا جائے گا؛ کیوں کہ یہی متعارف اور

(۱) الأشباه: ۱/۳۰۹

(۲) أصول الفقه: ۲۷۳

(۳) دیکھو: الدر المختار مع الشامي: ۵/۶۷

معروف ہے۔ (۱)

اسی طرح اگر کسی نے قسم کھائی، کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، تو کون سی روٹی مراد ہوگی؟ ابن بحیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے کے مطابق لکھا ہے کہ اس کے اہل شہر جس روٹی کے عادی ہیں، اس روٹی کو کھائے گا، تو حانت ہوگا۔ ”قاہرہ“ میں گیہوں کی روٹی سے حانت ہوگا، ”طبرستان“ میں اس سے مراد چاول کی روٹی ہوگی اور ”زبید“ میں مکتی اور باجرہ کی روٹی مراد ہوگی، ابن بحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھانے والا دوسرا قسم کی روٹی کھائے گا، تو حانت نہ ہوگا۔ (۲)

اسی قاعدے کی فرع میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ گھر میں نہیں داخل ہوگا، پھر چرچ (یسائی عبادت خانہ) یا مجوس کے عبادت خانے یا کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، تو حانت نہ ہوگا، اس لیے کہ مطلق کلام متعارف اور معروف بالعادة والعرف سے مقید ہوتا ہے۔

(۱۵) للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم

اسم کی مراد جاننے میں عرف کا اعتبار ہے۔ علامہ عیمیم الاحسان مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قواعد الفقه“ میں اس قاعدے پر لکھا ہے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ”سیر کبیر“ میں ایک مسئلہ میں اس کو لکھا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے امن طلب کرتے ہوئے کہا کہ میرے آزاد کردہ غلاموں (موالی) کو امن دو، حال آں کہ اس کے آزاد کردہ غلام نہیں ہیں؛ بل کہ صرف آزاد کردہ لوئڈیاں ہیں تو ان آزاد لوئڈیوں کو ہی اس (موالی) سے مراد لے کر ان کو امن حاصل ہوگا، وجہ یہ ہے کہ اہل لغت آزاد

(۱) الہدایۃ: ۳/۳، وغیرہ

(۲) الأشیاء والنظائر: ۱/۳۰۵

باندیوں کو بھی موالي بنی فلاں کہہ دیتے ہیں اور مراد جانے میں عرف کا اعتبار ہے۔ (۱) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عقود رسم المفتی“ میں فرمایا ہے: فتاویٰ علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ واقف، وصیت کرنے والے، قسم کھانے والے، نذر ماننے والے اور ہر معاملے کرنے والے کے الفاظ اس کے اس عرف و عادت پر محمول کیے جائیں گے جس میں وہ کلام کر رہا ہے، خواہ عرب اور شرع کی لغت کے موافق ہو یا نہ ہو۔

ان کے الفاظ یہ ہیں:

”التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والhalb والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، وافتلت لغة العرب والشرع أولاً.“ (۲)

(۱۶) يخص القياس والأثر بالعرف العام دون الخاص
قياس اور حدیث، عرف عام سے خاص کیے جاسکتے ہیں نہ کہ عرف خاص سے۔
اس مسئلے پر اوپر ہم نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عرف سے قیاس اور اثر (حدیث) کی تخصیص اس وقت ہوگی، جب کہ عرف عام ہو؛ بل کہ عرف عام کی وجہ سے قیاس کو ترک بھی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ گزر چکا۔ رہا عرف خاص، تو اس سے نہ توازن کی تخصیص ہو سکتی ہے اور نہ قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرف عام معتبر ہے اور عرف خاص معتبر نہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔

(۱۷) إن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص
اصل مذهب یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

(۱) قواعد الفقه: ۱۰۳:

(۲) رسائل الشامی: ۸/۱

عرفِ خاص اگر نص شرعی سے معارض ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لہذا اس سے نہ قیاس کو ترک کیا جائے گا اور نہ اثر کی تخصیص ہو گی اور اگر وہ نص شرعی سے معارض نہ ہو، بل کہ نص فقہی کے معارض ہو، جو صاحب مذهب سے منقول ہے، تو پھر عرفِ خاص کا اعتبار کیا جائے گا۔^(۱)

(۱۸) لا عبرة بالعرف الطاري

عرفِ طاری کا کوئی اعتبار نہیں۔ ”الأشباء“ میں ہے کہ جو عرف کہ اس پر الفاظ کو محمول کیا جاتا ہے، وہ صرف وہ ہے جو مقارن سابق ہو (یعنی لفظ کے استعمال سے پہلے وہ عرف جاری ہوا اور اب تک برابر جاری رہے) نہ کہ وہ جو متاخر ہو (یعنی بعد میں جاری ہوا ہو)؛ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ ”لا عبرة بالعرف الطاري“ اور اسی لیے (عرف کا) اعتبار معاملات میں کیا گیا ہے، تعلیق میں اعتبار نہیں کیا گیا۔ حموی رحمۃ اللہ نے ”اشباء“ کے اس قول پر تعلیقاً لکھا ہے کہ عادت غالبہ، مطلق لفظ کو مقید اس صورت میں کرتی ہے، جب کہ اس کا تعلق کسی امر کے فی الحال ہونے سے ہو، نہ کہ اس صورت میں جب کہ وہ پہلے امر کی خبر واقع ہو، پس عرف متاخر سے (امر مقدم) مقید نہیں ہو گا۔^(۲)

(۱۹) العرف العام يثبت به الحكم العام ،والعرف الخاص يثبت به الحكم الخاص.

عرف عام سے حکم عام ثابت ہوتا ہے اور عرف خاص سے حکم خاص ثابت ہوتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے ”عقود رسم المفتی“ میں لکھا ہے:

(۱) كما حققه العلامة الشامي في نشر العرف (رسائل): ۳۲/۲:

(۲) الأشباء مع حاشية الحموي رحمۃ اللہ: ۱/۳۱۱-۳۱۲:

”اعلم أن العرف قسمان : عام و خاص ، والعام يثبت به الحكم العام، ويصلح مخصوصاً للقياس والأثر ، بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنه لا يصلح مخصوصاً“。(۱)

(۲۰) لا ينكر تغير الأحكام بتغيير الأيام

ایام کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ عرف و عادت کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔

امام قرافی جو مالکیہ میں سے ہیں، وہ اپنی کتاب ”الإحکام فی تمییز الفتاوی والاحکام“ میں فرماتے ہیں:

”إن إقرار الأحكام التي مدركتها العادات مع تغيير تلك العادات خلاف الإجماع، وجهالة بالدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العادات يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتتجدة . (۲)

(جن احکام کا بھی عادت پر ہے، ان کو ان عادات کے بدل جانے کے باوجود، اسی طرح باقی رکھنا اجماع کے خلاف اور دین سے جہالت ہے؛ بل کہ جو چیز شریعت میں عادات کے تابع ہو، تو اس میں عادات کے بدل جانے سے حکم بھی نئی عادت کی طرف بدل جاتا ہے۔)

یہ چند قواعد ہیں، جن میں سے اکثر علامہ عییم الاحسان مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی

(۱) رسائل الشامي: ۲۷/۱

(۲) نقلہ عنہ العلامہ ابو زهرة رحمۃ اللہ علیہ فی کتابہ: مالک و حیاته و اثره و فقهہ: ۳۵۶:

قواعد الفقہ سے لیے گئے ہیں اور بعض علماء بن حمیم رحمۃ اللہ علیہ کی "الاشباه" سے اخذ کیے گئے ہیں۔

اقوال فقہا اور عرف میں تعارض

فقہا کرام کے اقوال اگر عرف و عادت سے معارض ہوں، تو کیا کیا جانا چاہیے؟ فقہا کی تصریح پر عمل کیا جائے یا عرف و عادت کی طرف رجوع کیا جائے؟ یہ ایک اہم موضوع ہے، جس کی مختلف صورتیں ہیں، ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

(۱) عرف اور "ظاہر الروایة" میں تعارض

عرف اگر "ظاہر الروایة" کے خلاف ہو اور نہ بہ کا کوئی قول ضعیف عرف کی موافقت میں ہو، تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ ظاہر الروایة کو ترک کر دیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں! اس کی گنجائش ہے کہ اس صورت میں ظاہر الروایة کو ترک کر دیا جائے، خواہ کوئی قول ضعیف عرف کے موافق ہو یا نہ ہو۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "نشر العرف" میں فرمایا:

"مسائل فقہیہ یا تو صریح نص سے ثابت ہوتے ہیں، یا اجتہاد و رائے سے ثابت ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سے مسائل کی بنا مجتہد اپنے زمانے کے عرف پر رکھتا ہے، اس طرح کہ اگر وہ مجتہد نے عرف کے زمانے میں ہوتا، تو پہلے جو کہا تھا اس کے خلاف کہتا؛ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ مجتہد، لوگوں کے عرف و عادت سے واقف ہو، پس بہت سے احکام زمانے کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں؛ کیوں کہ اہل زمانہ کا عرف بدل جاتا ہے،

یا کوئی ضرورت واقع ہوتی ہے یا اہل زمانہ میں کوئی فساد رونما ہوتا ہے۔
اگر اب بھی پہلا حکم ہی برقرار رکھا جائے، تو اس سے مشقت اور لوگوں کو
نقصان لازم آتا ہے، آگے فرمایا اسی لیے آپ
دیکھیں گے کہ مشائخِ مذہب نے بہت سے موقع میں ان مسائل کے
خلاف کیا ہے، جن کی تصریح مجتهد نے کی ہے۔ (۱)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ”عقود رسم المفتی“ میں بھی اس کی
تصریح کی ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ذکر کیے ہیں، جن کی مشائخ
اور مجتهدین فی المذہب نے مخالفت کی ہے، حال آں کہ وہ کتب ظاہر
الرواية میں منصوص ہیں، پھر فرمایا:

”هذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح
من المتأخرین على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب
في كتب ظاهر الرواية بناءً على ما كان في زمانه“۔ (۲)

معلوم ہوا کہ ظاہر الروایة اگر عرف پر مبنی ہو اور نئے عرف کی مخالف ہو، تو نئے
عرف کو لے کر ظاہر الروایة کو ترک کر دیا جائے گا اور چوں کہ علمانے اس کے لیے
مذہب میں عرف حادث کے موافق کسی قول ضعیف کا ہونا شرط نہیں قرار دیا ہے؛ اس
لیے خواہ قول ضعیف عرف کی موافقت میں موجود ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں ظاہر
الروایة کو ترک کیا جا سکتا ہے اور عرف کے موافق کوئی ضعیف قول موجود ہو، تو وہ اتباع
و اعتبار کا زیادہ مستحق ہے۔

(۱) رسائل ابن عابدین: ۲/۱۲۵

(۲) رسائل: ۱/۲۵

(۲) عرف کی ایک مسلک سے مخالفت اور دوسرے سے موافق ہوتو؟

عرف اور اقوال فقہا میں تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ عرف، مذاہب فقهیہ میں سے کسی مذہب کی کسی بات میں مخالف ہوا اور اسی بات میں کسی اور فقہی مسلک کے وہ موافق ہو، اس صورت میں کیا جائز ہو گا کہ عرف کے موافق جو فقہی مسلک ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے، اگرچہ کہ اپنے مسلک کے خلاف ہوا رکیا یہ خروج عن المذہب قرار دیا جائے گا؟

اس مسئلے سے صراحةً تعارض کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ہاں فقہا کے اقوال سے اس مسئلے کی تخریج کی جاسکتی ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”عقود رسم المفتی“ میں فرماتے ہیں:

”وربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة و نحوها كما مرّ في مسئلة الاستيجار على تعليم القرآن و نحوه من الطاعات التي في ترك الاستيجار عليها ضياع الدين، كما قررناه سابقاً يجوز الإفتاء بخلاف قولهم، قال: و الحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبہ إذا رجحه المشائخ المعتبرون، وكذا ما بناه المشائخ على العرف الحادث لتغیر الزمان أو للضرورة و نحو ذلك لا يخرج عن مذهبہ؛ لأن ما رجحوه لترجيح دليله عندهم ماذون فيه من جهة الأئمما“。(۱)

(۱) عقود رسم المفتی، رسائل شامی: ۲۵/۵

اس عبارت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں:

(۱) انہمہ حفیہ کا جس بات پر اتفاق ہے، ضرورت اگر داعی ہو، تو اس سے عدول کرنا جائز ہے۔

(۲) اگر مشائخ نے اس بات کو زمانے کے تغیر کی وجہ سے عرفِ جدید پر مبنی کیا ہے، تو اس کو خروج عن المذہب نہیں کہا جائے گا۔

اور یہ معلوم ہے کہ مشائخ نے تعلیم قرآن، امامت، اذان وغیرہ طاعات پر اجرت لینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے؛ حال آں کہ یہ امام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تینوں کے متفقہ قول کے خلاف ہے، ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، تو ہمارے مشائخ نے انہمہ احتفاف کے مسلک سے عدول کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تغیر احوال و ایام کی بناء پر اختیار فرمایا ہے اور اس عدول کو خروج عن المذہب نہیں قرار دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہمہ مذہب کے متفقہ قول سے ضرورتِ داعیہ کی بناء پر عدول کرنا خروج عن المذہب نہیں، اسی طرح اگر عرف و عادت میں تغیر کی بناء پر ایک فقہی مذہب سے عدول کیا جائے، تو اس کو بھی خروج عن المذہب نہیں قرار دیا جاسکتا؛ کیوں کہ خود امام کی طرف سے اس کی گنجائش دی گئی ہے؛ حتیٰ کہ اگر وہ حیات ہوتے تو عرفِ جدید کے مطابق یہی حکم فرماتے۔ (والله اعلم)

کیا نئے عرف کی اتباع واجب ہے؟

جیسا کہ اوپر معلوم ہوا بعض احکام عرف و عادت پر مبنی ہوتے ہیں، اگر یہ عرف و عادت بدل جائے تو سوال یہ ہے کہ اس نئے عرف و عادت کے مطابق حکم دینا واجب و ضروری ہے یا صرف جائز ہے؟ فقہا کی عبارت سے ظاہر یہی ہے کہ عرفِ جدید کا اتباع واجب ہے اور کتب ظاہر الروایتیہ میں منقول پر جمود جائز نہیں۔

امام قرآنی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کر دی، انہوں نے فرمایا کہ جن احکام کا مبنی عرف و عادت پر ہے، ان کو عادات کے بدل جانے کے باوجود اسی طرح باقی رکھنا اجماع کے خلاف اور دین سے جہالت ہے، بلکہ جو چیز شریعت میں عادات کے تابع ہو، تو اس میں عادات کے بدل جانے سے حکم بھی نئی عادت کی طرف بدل جاتا ہے۔ (علامہ قرآنی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل عبارت قاعدہ نمبر (۲۰) کے تحت ہم نے درج کی ہے، وہاں دیکھی جائے)

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرف کے بدل جانے سے عرف جدید کا اتباع واجب ہے اور پہلے حکم پر جمود جائز نہیں۔
علامہ شامي رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”إِنَّ الْمُفْتَيِ لِيَسْ لِهِ الْجَمْودُ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي كِتَابٍ
ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ مَرَاعَاةِ الرِّزْمَانِ وَأَهْلِهِ وَإِلَّا يُضِيِّعُ
حَقَوْفًا كَثِيرًا وَيَكُونُ ضَرَرًا أَعْظَمُ مِنْ نَفْعِهِ.“ (۱)

یہ عبارت بھی اس پر شاہد ہے کہ مفتی کے لیے جائز نہیں کہ فقہائے متقدمین نے اپنے زمانے کے عرف پر جن احکام کو مبني فرمایا ہے ان پر جمود کرے؛ بل کہ اس پر ضروری واجب ہے کہ نئے عرف و عادات کی مراعات کرے، جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کا مرتكب ہوتا ہے اور اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں جیسے تحلیل حرام اور تحریم حلال، غیر واجب کو واجب کرنا، دین خداوندی میں تغیر اور اللہ و رسول اللہ پر جھوٹ وغیرہ۔ اس لیے مفتی پر ضروری ہے کہ عرف پر مبني مسائل میں اپنے زمانے

(۱) عقود رسم المفتی، رسائل الشامي: ۲۵/۵

میں لوگوں کے عادات و اعراف کے مطابق فتوے دے، نہ یہ کہ فقہائے متفقہ میں نے اپنے زمانے میں جس کا حکم بیان کیا ہے، اس کے مطابق فتوے، یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ دقیق فہم اور عربی پر علم کی محتاج نہیں۔

ہاں مگر مفتی پر ضروری ہے کہ اس کو صحیح نظر حاصل ہو اور احکام شرعیہ اور قابل رعایت شرائع اور عرف و عادات سے کامل واقفیت ہو؛ نیز اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ عرف عام ہے یا خاص اور یہ کہ یہ نص کے خلاف ہے یا نہیں؛ تا کہ ایسے موقع پر عرف کے موافق فتویٰ نہ دے دے، جہاں شارع کی طرف سے نص وارد ہے، یا کہیں عرف خاص پر ایسی جگہ فتوے نہ دے دے جو نص یا قیاس کے معارض ہے۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان مفتاحی عفی عنہ



**مكانة العرف و العادة
في التشريع الإسلامي**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكانة العرف و العادة في التشريع الإسلامي

العرف و العادة مصدر من مصادر التشريع الإسلامي عند أكثر العلماء والأئمة ومما لا شك فيه أن اعتباره في الشرع مصدرًا للتشريع يدل على جدارته وصلاحية الشريعة الإسلامية للمسايرة مع ظروف العصور ويشير إلى فتوتها وخصوصيتها في كل الأماكن والأزمان ولقد صدق الأستاذ زكي الدين شعبان حيث يقول في كتابه **أصول الفقه الإسلامي**:“

”و العرف من المصادر الخصبة في التشريع و القضاء و الفتوى وفي اعتبار الشريعة و الفقهاء له على هذا الوجه دليل على خصوبة الفقه الإسلامي و فتوته و جدارته للحكم بين الخلق في اي مكان كانوا وفي أي زمان وجدوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.“^(١)

و السر في اعتبار العرف أن الشريعة الالهية إنما جازت لتنظيم **مصالح البشر و حقوقهم و لإقامة العوج و إزالة التحريف و اعتدال**

(١) أصول الفقه الإسلامي: ١٩٦

الرسوم السائرة بين الناس فإذا وجدت الشريعة من متعارف الناس

عوائد صالحة و سنتاً راشدةً أقرت بها لكونها ملائمةً لأنها و غايتها،
و هذا ما يقوله الإمام الشاه ولی اللہ الدھلوی رحمۃ اللہ علیہ في "حجۃ اللہ
البالغة" و هذا نصہ:

"فاعلم انه (صلی اللہ علیہ وسلم) بعث بالملة الحنفية
الإسماعيلية لإقامة عوجها و إزالة تحريفها و إشاعة نورها
و ذلك قوله تعالى ﴿مَلَةُ ابْرَاهِيمَ﴾ و لما كان
الأمر على ذلك وجب أن تكون أصول تلك الملة
مسلمة و سنتها مقررة إذا النبي إذا بعث إلى قوم فيهم بقية
سنة راشدة فلا معنى لتغييرها و تبديلها؛ بل الواجب
تقريرها لأنها أطوع لنفسهم و أثبت عند الاحتجاج
عليهم." (١)

فلما ثبت أن الشريعة ما ألقت العraf و العادات بالكلية؛ بل
اثبت واعتبرت منها ما كانت صالحة و ملائمةً، فعلينا إذا أن نبحث
عن معناها وتعريفها و عن نحو شرائطها و حدودها.

(١) حجۃ اللہ البالغة ١٢٣:١

المحور الأول

في بيان حقيقة "العرف" وأقسامه

"العرف" في اللغة والاصطلاح

فأقول: العرف في أصل اللغة: المعرفة، و يستعمل كثيرا في الشيء المعروف المقبول عند ذوي العقول الصحيحة المألوف عند الطبائع السليمة.

قال في "المنجد":

"العرف ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول
و تلقتها الطباع السليمة بالقبول." (١)

وقال في لسان العرب:

"العرف ضد النكر يقال أولاه عرفاً أي معروفاً وقال: و هو
كل ما تعرفه الناس من الخير و تبسأبه و تطمئن إليه." (٢)

و هذا في اللغة و أما في الاصطلاح فهو ما اعتاده الجمهور من
الناس و ألفوه و ساروا عليه من فعل شاع بينهم أو قول تعارفوا إطلاقه
على معنى خاص بحيث يتبادر هو عند سماعه لا غير.

(١) المنجد: مادة عرف

(٢) لسان العرب: مادة عرف: ٩/٢٣٩

قال الأستاذ منصور محمد الشيخ رحمه الله في كتابه "أصول الأحكام":

"العرف ما تعارفه الناس و ألفوه حتى استقر في نفوسهم من فعل شاع بينهم أو قول كثر استعماله في معنى خاص بحيث يتبادر منه هذا المعنى عند الإطلاق دون معناه الاصلي." (١)

وقال الأستاذ مصطفى محمد النزرقاء رحمه الله: "و أما في الاصطلاح الفقهي فإن العرف هو عادة جمهور قوم في قول و عمل." (٢) و تتضح مما سبق أمور:

الأول: إن العرف إنما يتحقق إذا اطرد و شاع بين جمهور الناس عامتهم و خواصتهم أو كان غالباً بحيث يكون أكثرهم يجري على وفقه. الثاني: إن العرف يكون في قول و عمل. الأول عرف قولي. و الثاني عرف عملي. كما سيجيء عند تقسيم العرف. و أقول: إن العرف كما يكون في قول و عمل، كذلك يكون في ترك، كما صرح به الأستاذ عبد الكريم زيدان في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. (٣)

(١) أصول الأحكام: ٢٠٠

(٢) المدخل الفقهي الإسلامي: ١٣٣ / ١

(٣) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ٢٠٥

الثالث: إن العرف الفقهي الاصطلاحي إنما يتحقق إذا استقرر في النفوس و تلقته العقول بالقبول. و أما ما يجري بين الناس من الأمور التي لم تستقر في النفوس و لم تتلقها العقول؛ بل إنما تجري بينهم لأمر ما مثل الرياء السمعة أو لظلم يقع من مجتمعهم إذا تركوا تلك الأمور. فهذه الأمور لا تدخل في العرف الفقهي و إن وقع عليها اسم العرف في اللغة.

فحاصل التعريف إن العرف هو ما تعارفه جمهور الناس و اطرد و شاع بينهم بحيث يستقر في النفوس من قول أو عمل أو ترك.

العادة في اللغة والاصطلاح

و العادة ما خوذه من العود و المعاودة بمعنى التكرار، فالعادة لغة ما يعتاده الإنسان أى يعود إليه مرارا متكررة كما في "المنجد".^(١) و في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطابع السليمة. ذكره في "الأشباه".^(٢) و قال ابن عابدين الشامي رحمه الله في رسالته "نشر العرف". "إن العادة ماخوذة من المعاودة فهي بتكررها و معاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول متلقاء بالقبول من غير علاقة و لا قرينة حتى صارت حقيقة عرفية."^(٣)

(١) المنجد مادة عود

(٢) الأشباه والنظائر: ٢٩٦/١

(٣) رسائل ابن عابدين: ١١٣/٢

فالعادة هي الأمر المتكرر حتى استقر في النفوس و سهل فعله و صعب تركه و لها مفهوم شامل واسع الحدود. كما قال الأستاذ مصطفى الزرقاء؛ لأن قولهم في تعريف العادة - الأمر المتكرر - يشمل كل ما يتكرر.

هل فرق بين العرف و العادة؟

و هنا سوال مهم خالد يواجهنا و هو هل بين العرف و العادة فرق؟ أقول أختلف فيه من الناحية النظرية على أقوال:

١ - ذهب أكثر الفقهاء إلى أن العرف و العادة بمعنى واحد من حيث المصدق المراد و إن اختلفوا من حيث اللغة والمفهوم. قال ابن عابدين الشامي رحمه الله في "نشر العرف": فالعادة و العرف بمعنى واحد من حيث المصدق و إن اختلفوا من حيث المفهوم. (١)

٢ - وقال بعض العلماء المعاصرين:

"إن العرف عام والعادة خاص. فالعرف عندهم هو كل ما تعارفه الناس، قوله لا كان أو عملاً و العادة تختص بما تعارفوا من الأفعال، وإلى هذا يشير بعض العبارات من "الأشباه"."

فقال في موضع منه نقلًا عن فتح القدير:

"الحقيقة تترك بدلالة العادة إذا ليست العادة إلا عرفاً عملياً." (٢)

(١) رسائل ابن عابدين: ١١٣/١

(٢) الأشباه: ١/٣٥٥

فهذه العبارة مشيرة إلى أن العادة مختصة بما تعارفوا من الأفعال والأعمال وإلى أن العادة من العرف حيث أطلق على العادة اسم العرف العملي.

وقال زكي الدين شعبان رحمه الله في كتابه "أصول الفقه الإسلامي":

"هو ما اعتقد جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره. والأول يسمى عرفاً عملياً ويخصه بعض العلماء باسم العادة. قال - و الثاني يسمى عرفاً قوليًّا." (١)

٣- و جعل البعض الآخرين من العلماء العادة هو الأعم على عكس ما قال أهل المقالة الثانية و هو الذي اختاره الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء رحمه الله . فقال في موضع من كتابه "المدخل الفقهي الإسلامي":

"العرف نوع من العبادة. فالعادة جنس أعم تحته أنواع، منها العرف." (٢)
و قال في موضع آخر:

"يتضح من جميع ما تقدم أن العادة أعم من العرف لأنها تشمل العادة الناشئة من عامل طبيعي والعادة

(١) أصول الفقه الإسلامي: ١٩١

(٢) المدخل الفقهي الإسلامي: ٨٣١/٢

الفردية وعادة الجمهور التي هي العرف. ”^(١) فهذه أقوال ثلاثة. ولكن الفقهاء أكثرهم على ما قال ابن عابدين من انهما بمعنى واحد من حيث المصدق والمراد وهو الذي يظهر من استعمالات الفقهاء وتعبيراتهم.

هل بين العرف والإجماع فرق؟

و هل بين العرف والإجماع فرق؟ فجوابه نعم، و يتضح الفرق من وجوبه.

الأول في التتحقق. فالعرف – كما سبق – يتحقق وجوده إذا اطرد بين الناس عامتهم و خاصتهم و لكن الإجماع إنما يتحقق باتفاق المجتهدين من الفقهاء و لا يعبر فيه قول العوام كما صرّح به الإمام سراج الدين الأرموي رحمه الله في ”التحصيل من المحسول“.^(٢) و قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله في ”البرهان“ ما نصه:

”فلا شك ان العوام و من شدا طرفا قريبا من العلم ما يصر بسبب ما تحلى به من المتصرفين في الشريعة و ليسوا من اهل الاجماع.“^(٣)

و كذلك يعتبر العقل و البلوع و الإسلام و العدالة و كونه من أهل السنة في تتحقق الإجماع و لا كذلك العرف.

(١) المدخل الفقهي الإسلامي: ٨٣٣/٢

(٢) التحصل من المحسول: ٨١

(٣) البرهان لإمام الحرمين: ٢٨٢/١

قال الإمام أبو بكر السمرقندى رَحْمَةُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ "مِيزَانُ الْأَصْوَلِ فِي نَتَائِجِ الْعُقُولِ مَانِصَّهُ":

"لِوْجُودِ أَهْلِيَّةِ الإِجْمَاعِ شَرَائِطٌ: بَعْضُهَا مُتَفَقٌ عَلَيْهَا وَبَعْضُهَا مُخْتَلِفٌ فِيهِ."

"أَمَا الْمُتَفَقُ عَلَيْهِ: الْعُقْلُ وَالْبَلُوغُ وَالإِسْلَامُ وَالْعَدْلَةُ وَكُونَهُ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهادِ وَالْفَتْوَى فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَكُونَهُ مِنْ أَهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ." (١)

وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي تَحْقِيقِ الْعُرْفِ.

الثاني في الحكم: و هو أن الإجماع حجة قاطعة عند جمهور العلماء من أهل السنة و لا خلاف فيه بينهم، و لكن العرف ليس كذلك. فالثابت بالإجماع يكفر جاحده و لكن منكر العرف ليس بكافر. قال في نور الأنوار:

"إِنَّ الإِجْمَاعَ فِي الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْأَصْلِ يَفْيِيدُ الْيَقِينَ وَالْقَطْعِيَّةَ فِي كُفْرِ جَاحِدَةِ." (٢)

نعم ههنا بحث و هو أن من الإجماع ما لا يكفر جاحده كالإجماع السكتوى، و لكنه بسبب العارض. فلا يقدح هذا فيما قلنا.

الثالث في الاحتجاج، فالإجماع حجة عند جميع الأئمة من أهل السنة بخلاف العرف فإنه من الحجج التي اختلف فيها، كما سترى.

(١) ميزان الأصول في نتائج العقول: ٣٩١/٣٩٠

(٢) نور الأنوار: ٢٢٥

فمما سبق يتضح أن العرف والإجماع متضادان من حيث المصدق و من حيث الحكم.

أنواع العرف والعادة

ثم ليعلم أن العرف ينقسم إلى أنواع باعتبار موضوعه و باعتبار نطاق حدوده و باعتبار كونه معتبراً أو غير معتبر عند الشرع. و هي على ما يلي:

أما باعتبار الموضوع فالعرف ينقسم إلى نوعين: أحدهما يسمى عرفاً قوليًّا و ثانيهما يسمى عرفاً عمليًّا.

و أما باعتبار نطاق حدوده فهو منقسم إلى قسمين. الأول عام و الثاني خاص.

وأما باعتبار كونه معتبراً عند الشرع أو غير معتبر فيقسم إلى نوعين: صحيح و فاسد.

الآن نتناول هذه الأنواع بالبحث تفصيلاً.

العرف القولي و العملي

العرف القولي:

و هو ما تعارفه الناس من إطلاق لفظ على معنى خاص بحيث لا يتبادر منه عند إطلاقه و سمعاه غير هذا المعنى الخاص.

و مثال هذا تعارف الناس إطلاق لفظ "الدابة" على ذات القوائم الأربع، فإنها في أصل اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض و

العرف نقلها إلى ذات القوائم الأربع. والآن لا يتبادر منه عند إطلاقه إلا هذا المعنى العرفي الخاص. و من أمثلته لفظ الولد، فإنه في العرف يطلق على الذكر دون الأنثى مع أن لفظ "الولد" في أصل اللغة يشملها.

العرف العملي:

و هو ما تعارفوا من الأفعال والأعمال حتى استقرت في النفوس، و مثاله تعارفهم أكل البر و لحم الضأن، و كتعارفهم البيع بالتعاطي والاستصناع وغير ذلك من الأفعال.

العرف العام والخاص

العرف العام:

و هو الذي يتعارفه الناس في البلاد كلها، وفي الأقطار كلها في عصر من العصور من غير تخصيص بطائفة دون أخرى. و من أمثلته، تعارفهم على الاستصناع ودخول الحمامات من غير تقدير الأجراة و مدة المكث فيها. و غير ذلك، و كتعارف لفظ "الدابة" لذوات القوائم الأربع.

العرف الخاص:

و هو ما اعتاده أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس، كتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس. و تعارف النحاة لفظ الاسم لما يدل على معنى في نفسه غير مقترب بأحد الأزمنة الثلاثة. و كتعارف بعض الناس في بعض البلدان، البيع بالوفاء و تعارف بعض

الناس من هل ألقاها النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها. و ليعلم أن العرف العام و العرف الخاص كل واحد منهما، قد يكون قوليًّا و قد يكون عمليًّا. ولذا أو ردنا الأمثلة من النوعين العرف القولي والعرف العملي.

العرف الصحيح و الفاسد

العرف الصحيح:

و هو الذي لا ينافي النصوص الشرعية و القواعد الثابتة عند الشرع، و هو كالمعاملات المروجة في الناس مما لم يرد نص ولم يكن فيه ما يؤدي إلى تحليل حرام.

العرف الفاسد:

و هو ما بخلافه، أي الذي مناقض لنص من النصوص الشرعية أو لقاعدة من القواعد الثابتة بحيث يؤدي إلى تحليل حرام.

قال الأستاذ منصور محمد الشيخ في "أصول الأحكام" له: "إن كان (العرف) لا ينافي القواعد الشرعية و أحكامها الثابتة التي لا تتغير كالمعاملات التي يقودها الناس مما لم يرد فيه نص و لم يكن فيه تحليل شيء حرام، إن كان العرف كذلك فهو صحيح و إن كان مناقضاً لشيء من ذلك فهو عرف فاسد." (١)

(١) أصول الأحكام: ٢٠٢

المحور الثاني

في بيان اعتبار العرف و العادة

الادلة الشرعية على اعتبار العرف

و قد استدل على اعتبار العرف بأمور:

١ - الأول بالكتاب و هو قوله تعالى:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الاعراف: ٢٣)

قال الشامي رحمه الله : إن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف

بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمِرْ بِالْعُرْفِ﴾ . (١)

و قال العالمة جلال الدين السيوطي رحمه الله في الإكليل في

استنباط التنزيل في هذه الآية:

”قال ابن الفرس: المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس

مما لا يرده الشرع و هذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار

العرف.“ (٢)

قال الراقم عفا الله عنه: إن العرف في هذه الآية قد فسره

جمهور العلماء على أقوال و ذكر منها ابن العربي المالكي رحمه الله

(١) رسائل الشامي: ١١٥ / ٢

(٢) الإكليل في استنباط التنزيل : ١١٠

أربعة أقوال وهي ما يلي:

١- المعروف ٢- قول لا إله إلا الله. ٣- ما يعرف أنه من الدين.
٤- ما لا ينكره الناس من المحسن التي اتفقت عليها شرائع. (١)
القرآن، فعلى هذا يشكل الاستدلال بهذه الآية على اعتبار
العرف الفقهي و يمكن أن يجاب عنه بما قاله الأستاذ مصطفى أحمد
الزرقاء رحمه الله ، قال :

”توجيه هذا الاستدلال هو أن العرف في الآية وإن لم يكن مراد به المعنى الاصطلاحي، قد يستانس به في تأييد اعتبار العرف بمعناه الاصطلاحي، لأن عرف الناس في أعمالهم ومعاملاتهم هو مما استحسنوه وألفته عقولهم وغالب أن عرف القوم دليل على حاجتهم إلى الأمر بالمعارف فاعتباره يكون من الأمور المستحسنة.“ (٢)
فحascal ما فهمت من كلامه: أن العرف في الآية أعم من العرف الفقهي الخاص، فيدخل فيه هو دخول الخاص تحت العام. (والله تعالى أعلم)

٢- الدليل الثاني على اعتبار العرف، السنة:

(١) عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيوني و ولدي الا ما أخذت

(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٨٢٣/٢

(٢) المدخل الفقهي الإسلامي /١ ١٣٢/١

منه وهو لا يعلم، فقال: خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف. (١)
 قول النبي ﷺ في هذا الحديث: خذى ما يكفيك و
 ولدك بالمعروف، معناه الذي عرف بالعادة. قال ابن حجر رحمه الله
 في شرح البخاري: قال القرطبي رحمه الله و المراد بالمعروف القدر
 الذي عرف بالعادة انه الكفاية. (٢)

وعلى هذا فالحديث يدل على اعتبار العرف: و قد استدل على
 اعتبار العرف بهذا الحديث الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح
 الإمام مسلم، و العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرح
 صحيح البخاري، القرطبي رحمه الله من أئمة المالكية وغيرهم.
 قال النووي رحمه الله:

”في هذا الحديث فوائد – قال – و منها اعتماد
 العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.“ (٣)
 وقال ابن حجر رحمه الله:

”وفيه اعتماد العرف في الامور التي لا تحديد فيها
 من قبل الشرع وقال : قال القرطبي: فيه اعتبار العرف
 في الشريعتان خلافا لمن أنكر ذلك – لفظا و عمل به
 معنى الخ.“ (٤)

(١) صحيح البخاري: ٨٠٨/٢

(٢) فتح الباري: ٩/٥٥٥ هو هكذا فسره في بذل المجهود: ٥/٢٩٦

(٣) شرح مسلم للنوعي: ٢/٧٥

(٤) فتح الباري: ٩/٥١٠

(٢) و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي ان النبي صلوات الله عليه وسلم خطب بعرفة وقال فيه: "اتقوا الله في النساء و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف". (١)

أقول: فيه دليل على اعتبار العرف، ولذا قال العلماء: إن للمرأة على الزوج نفقتها و كسوتها مما يجري في العرف و العادة. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال ابن بطال رحمه الله: اجمع العلماء على ان للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوباً. و الصحيح في ذلك ان لا يحمل اهل البلدان على نمط واحد و ان على اهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها. (٢)
فدل هذا على أن المراد بالمعروف في الحديث، المتعارف في الناس، و الى هذا يشير ضيغ الامام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث أورد فيه حديثا عن علي رضي الله عنهما قال أتى إلى صلوات الله عليه وسلم حلقة سبراء فليستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. وترجم عليه بقوله "باب كسوة المرأة بالمعروف". (٣)

قال ابن حجر رحمه الله:

"هذه الترجمة لفظ حديث مسلم آخر جه من حديث
جابر المطول في صفة الحج و من جملته في خطبة النبي

(١) رواه مسلم: ١/٣٩٧

(٢) فتح الباري: ٩/٥١٣

(٣) صحيح البخاري: ٢/٨٠٨

صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرفة: ”اتقوا الله في النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف“ و لما لم يكن على شرطه أشار إليه واستتبع الحكم من حديث آخر على شرطه.“^(١)
قال الرافق: هذا يدل على أن البخاري أخذ هذه الترجمة من لفظ حديث، و معلوم أن المعروف في كلام البخاري، معناه المتعارف بين الناس، فكذا في الحديث.

و بالجملة أن الحديث دل على اعتبار العرف، وهو المقصود.
(٣) و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؛ رواه الإمام أحمد رحمه الله و الطيالسي رحمه الله في مسنده و أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله في معجمه. قاله العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة.^(٢)
قال الألباني رحمه الله :

”و هذا إسناد حسن، و نقل عن الحاكم و الذهبي تصححه و عن الحافظ السخاوي تحسينه موقوفاً.“^(٣)
قلت:

”هذا موقوف على ابن مسعود و لكنه في حكم الرفع لأنَّه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع كما حققه

(١) فتح الباري: ٩/٥١٣٥١٢

(٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: ٢/٧١

(٣) الضعيفة للألباني: ٢/٧١

في مقدمة "اعلاء السنن". "(١)"

استدل به على اعتبار العرف جمع من العلماء منهم العلامة ابن نجيم المصري رَحْمَةُ اللَّهِ فِي "الأشباء" و ابن عابدين الشامي رَحْمَةُ اللَّهِ في نشر العرف ولكن يشكل عليه بان المراد بهذا الحديث الإجماع لا العرف كما قال الإمام الغزالى في المستصفى. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم (٢) ثم ليعلم أن هذا الحديث روى مرفوعاً من طريق سليمان بن عمرو النخعي من حديث أنس رضى الله عنه. كما أورده الألبانى في "الضعيفة" (٣)

و هذا النخعي كذاب كان يضع الحديث. كذبه أحمد بن حنبل، و يحيى بن معين، و قتيبة و إسحاق. و اليك أقوال الأئمة في هذا الراوى. قال أحمد بن حنبل رَحْمَةُ اللَّهِ : كان يضع الحديث. قال يحيى رَحْمَةُ اللَّهِ : كان أكذب الناس. قال البخاري رَحْمَةُ اللَّهِ : متزوك. قال يزيد بن هارون: لا يحل لأحد أن يروى عنه. قال الحاكم: لست أشك في وضعه للحديث على تقشفه وكثرة عبادته. (٤) فالحاصل أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعاً، و هو قول الأئمة، نعم هو قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما مر.

(١) راجع مقدمة إعلاء السنن: ٧/١

(٢) راجع المستصفى للغزالى: ١٣٨/١

(٣) الضعيفة للألبانى: ٥٣٢

(٤) من لسان الميزان لابن حجر: ١١٥-١١٧

هل العرف القولي معتبر في الأحكام الشرعية؟

و قد فرغنا مما تقدم أن العرف قد يكون قوليًّا وقد يكون عمليًّا و ههنا يتوجه عليه سوال و هو أن العرف القولي و العرف الفعلي كليهما معتبران في الأحكام؟ و الجواب نعم، كما يظهر من كلام الفقهاء.

أما العرف القولي فقد صرَح الفقهاء باعتباره في الشريعتين في الآشباء و النظائر:

”فصل في تعارض العرف مع الشرع، فإذا تعارضاً قدماً عرف الاستعمال خصوصاً في الأيمان، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط أولاً يستضي بالسراج لم يحث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاء بالشمس وإن سماها الله فراشاً و بساطاً و سمي الشمس سراجاً الخ.“ (١)

و قال في فصل التعارض بين العرف و اللغة:

”صرَح الزيلعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية و عليها - فروع، منها لو حلف لا يأكل خبزاً حث بما يعتاده أهل بلده ففي القاهرة لا يحث إلا بخبز البر و في طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز و في زبيد إلى خبز الزرة و الدخن و لو أكل

(١) الآشباء: ٣٠٢/١

الحالف بخلاف ما عندهم من الخبز لم يحث الخ.“ (١)

و قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في كنز الوصول إلى معرفة

الأصول:

”جملة ما يترك به الحقيقة خمسة أنواع قد ترك

بدلاله الاستعمال و العادة - ثم قال - و إنما صار هذا

دلالة على ترك الحقيقة لأن الكلام موضوع -

لاستعمال الناس و حاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم

كالحقيقة.“ (٢)

و قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني:

”إن أقر بدراهم وأطلق في بلد أو زانهم ناقصة. - ففيه

وجهان أولهما يلزم من دراهم البلد و دنانيره؛ لأن مطلق

كلامهم يحمل على عرف بلدتهم كما في البيع والأثمان.“ (٣)

و قال في ”المغني“: و إن قال له على درهم كبير لزمه درهم من

دراهم الإسلام لأنه كبير في العرف. (٤)

قلت: هذه العبارات من العلماء صريحة في اعتبار العرف

القولي في الأحكام الشرعية.

(١) المصدر السابق: ٣٠٥/١

(٢) كنز الوصول للإمام البزدوي: ٨٦-٨٧

(٣) المغني لابن قدامة: ١٦٩/٥

(٤) المغني: ١٧٠/٥

هل العرف العملي معتبر أم لا؟

و أما العرف العملي فإنه أيضاً يعتبر في الأحكام كالعرف القولي. وإليك نصوص الفقهاء في هذا الخصوص:

(١) قال ابن قدامة رحمه الله :

”فصل في معرفة المكيل و الموزون و المرجع فيه العرف بالحجاز - ثم قال بعد السطور - و ما لا عرف له بالحجاز تحتمل و جهين: أحدهما يرد إلى أقرب الأشياء شبيها له بالحجاز كما أن الحوادث ترد إلى أشبهه المنصوص عليه بها، وهو القياس. و الثاني يعتبر عرفه في موضعه، فإن لم يكن له في الشرع حد، كان المرجع فيه إلى العرف كالقبض و الإحراب و التفرق و هذا قول أبي حنيفة رحمه الله و على هذا إن اختلفت البلاد فالاعتبار بالغالب و إن لم يكن غالب بطل هذا الوجه و تعين الأول.

و مذهب الشافعي على هذين الوجهين.“ (١)

فوضحت من هذا أن اعتبار العرف العملي فيما لم يكن له حد في الشرع، مذهب الإمام أبي حنيفة و الشافعي و الحنابلة.

(٢) و في ”الهداية“ من كتب الحنفية:

”و من اشتري نعلا على أن يحدوه البائع أو يشركه فالبيع فاسد قال ما ذكره جواب القياس و وجهه ما قلنا

(١) المغني لابن قدامة: ٣٢١-٣٢٢

وفي الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الشوب و
للتعامل جوازنا الاستصناع. (١)
(٣) وفي "الدر المختار":

"وَكَمَا يَصِحُّ أَيْضًا وَقْفُ كُلِّ مِنْقُولٍ قَصْدًا فِيهِ تَعْمَلُ
لِلنَّاسِ كَفَّاسٌ وَّ قَدْوَمٌ؛ بَلْ وَ دِرَاهِمٌ وَ دَنَانِيرٌ – إِلَى أَنْ
قَالَ – لِأَنَّ التَّعْمَلَ يُتَرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ، بِخَلَافِ مَا لَا تَعْمَلُ
فِيهِ كِتْبَابٌ وَ مَتَاعُ الْخِ." (٢)

هذا كله يرشد إلى أن الفقهاء اعتبروا العرف العملي في
الشرعيات، وهو دليل على أن العرف العملي معتبر و مؤثر في
الأحكام كالعرف القولي.

اعتبار العرف العام

ثم العرف قولياً كان أو عملياً يعتبر إذا كان عاماً، وقد قدمنا فيما
سبق، أن العرف العام هو الذي تعارفه الناس في البلاد كلها.
و معنى اعتباره أنه يصلح مخصوصاً للعام و يترك به القياس.
وببيانه أن العرف إذا خالف الدليل الشرعي من كل وجه بأن لزم منه
ترك النص فلا يعتبر، كما سيأتي في المحور الثالث إن شاء الله. وإن
لم يخالف الدليل الشرعي من كل وجه بأن ورد الدليل عاماً و العرف
إن خالفه في بعض أفراده، فهو معتبر أي مخصوص للدليل الشرعي

(١) الهدایة: ٢٥/٣

(٢) الدر المختار مع الشامي: ٣٦٢/٣

العام. وكذا إذا خالف العرف العام. القياس يترك به القياس.
مثال الأول الاستصناع و هو بيع المعدوم، وقد ورد النهي عن
بيع ما ليس موجوداً أخرجه الخمسة و صححه الترمذى و ابن
خزيمة و الحاكم. (١)

و قد جوز الفقهاء الاستصناع للتعامل و العرف. و هو تخصيص
النص الناهي عن بيع المعدوم، قال في الذخيرة البرهانية كما نقله
عنه الشامي:

”ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل و الاستصناع
بيع ما ليس عنده، وأنه منهي عنه و تجويز الاستصناع
بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع
ما ليس عند الإنسان. لا ترك النص أصلًا لأننا عملنا
بالنص في غير الاستصناع.“ (٢)

و مثال الثاني: ما في الهدایة (و قد مر منا عبارة ”الهدایة“ فيما
سبق) أنه اشتري رجل صرماً على شرط أن يحدوه البائع أو يشرّكه،
فهذا البيع فاسد في القياس، لأن هذا الشرط خلاف ما يقتضي البيع، و
لكن الفقهاء أجازوه للتعامل، و هذا ترك القياس للتعامل و العرف، و
هذا التعامل و العرف إنما يصلح مخصوصاً للنص العام و يترك به
القياس إذا كان عاماً. كما صرّح به الشامي في نشر العرف. (٣)

(١) قاله ابن حجر في ”بلغ المرام“: ٥٨

(٢) ”نشر العرف“ رسائل الشامي ١١٦:٢

(٣) رسائل الشامي: ١١٦/٢

اعتبار العرف الخاص:

و أما إذا كان العرف خاصاً، فهل يعتبر في بناء الأحكام أم لا؟ فالجواب على أصل المذهب أن العرف الخاص لا يعتبر كما صرحت به في "الأشباه". قال: فالحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص. (١)

و معنى عدم اعتبار العرف الخاص. أنه لا يصلح مخصوصاً للنص و لا يترك به القياس بخلاف العرف العام فإنه يصلح مخصوصاً للأثر و يتراكبه القياس، كما مر آنفاً. قال العلامة الشامي رحمه الله في "نشر العرف":

" و بما قررناه تبين لك أن ما تقدم عن "الأشباه" من أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص إنما هو فيما إذا عارض النص الشرعي فلا يترك به القياس و لا يخص به الأثر. " (٢)

فظهر بهذا أن العرف الخاص معتبر إذا لم يرد بخلافه نص ولم يعارضه القياس الشرعي، و الدليل على اعتبار العرف الخاص في عبارات الفقهاء أنهم صرحو في باب الحقوق:

"العلو لا يدخل بشراء بيت بكل حق و بشراء منزل إلا بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل و كثير هو فيه أو منه. " (٣)

قال في البحر عن الكافي أن هذا التفصيل مبني على

(١) الأشباه: ٣٧٤ / ١

(٢) رسائل الشامي رحمه الله: ١٣٣ / ٢

(٣) كنز الدقائق

عرف الكوفة، و في عرضنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المتنز أو الدار والأحكام تبني على العرف فيعتبر في كل إقليم وفي كل عصر عرف أهله. (١) فهذا صريح في اعتبار العرف الخاص بإقليم أو في عصر وسيأتي البحث عن اعتبار العرف الخاص إذا عارضه النص المنقول عن صاحب المذهب في المحور الخامس إن شاء الله تعالى. فحاصل ما في الباب أن العرف الخاص لا يعتبر إذا عارضه النص الشرعي فلا يخص به النص ولا يترك به القياس وأما إذا عارضه النص المذهب فهو معتبر كما سيأتي.

(١) البحر الرائق: ١٣٦/٦

المحور الثالث

في بيان شرائط اعتبار العرف و منهاج العمل فيما إذا

تعارضه الأدلة الشرعية

شرائط اعتبار العرف:

ولا اعتبار العرف شرائط على ما يلى:

١- أن لا يعارض العرف نصاً شرعاً بحيث يكون العمل به تعطيلاً للنص:

قال في الفتح:

”إن النص أقوى من العرف لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في اخراج الشموع و السرج إلى المقابر ليالي العيد و النص بعد قبوله لا يحتمل أن يكون على باطل.“^(١)

قال الشامي رحمه الله :

”إذا خالف العرف الدليل الشرعي فإن خالقه من كل وجه بأن لزم منه ترك النص فلا شك في رده كتعارف

(١) رد المحتار: ١٧٦/٥

الناس كثيرا من المحرمات من الرباء و شرب الخمر
وليس الحرير و الذهب و غير ذلك مما ورد تحريمه
نصا.“ (١)

و قال في ”الأشباه“:
”كان محمد بن الفضل يقول: السرة إلى موضع نبات
الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء
عن ذلك الموضع عند الاتزاز، وهذا ضعيف و بعيد؛
لأن التعامل بخلاف النص لا تعتبر.“ (٢)

ثبت مما تقدم من نصوص الفقهاء أن العرف إنما يعتبر إذا لم
يعارض النصوص الشرعية و أما إذا خالف و عارض الدلائل
الشرعية فلا يعتبر.

٢- أن يكون العرف مطرداً أو غالباً:
قال ابن نجيم رحمه الله في ”الأشباه“:
”إنما تعتبر العادة إذا اطربت أو غلت و لذا قالوا في
البيع لو باع بدراهم أو دنانير و كانا في بلد اختلف فيه
النقود مع الاختلاف في المالية و الرواج انصرف البيع
إلى الأغلب.“ (٣)

(١) رسائل ابن عابدين: ١١٦/٢

(٢) الأشباه: ٢٩٨/١

(٣) الأشباه: ٢٩٩/١

و في نشر العرف للعلامة الشامي: اعلم أن كلا من العرف العام و الخاص إنما يعتبر إذ كان شائعا بين أهله يعرفه جميعهم.

٣- أن يكون العرف سابقا لا طارئاً.

قال في الأشباء:

”العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر ولذا قالوا لاعبرة بالعرف الطاري.“ (١)

قال الحموي رحمه الله تعالى على قول الأشباء:

”أي السابق لوقت اللفظ واستقر حتى صار في وقت الملفوظ به وأما المقارن الطاري فلا أثر له ولا ينزل عليه اللفظ السابق.“ (٢)

٤- أن لا يكون التصريح بخلاف العرف فلا يعتبر العرف. (راجع لتفصيل المدخل الفقهي الإسلامي ٨٧٣/٢ وبعد و سيأتي شرحه في المحور الرابع في بيان القواعد)

العرف إذا عارضه النص العام

العرف إذا عارضه النص العام بحيث يكون العمل به تخصيصاً للنص العام، فما هو حكم هذا العرف؟

قدمنا في المحور الثاني أن العرف إن لم يخالف النص الشرعي من كل وجه؛ بل إنما خالفه في بعض أفراده، فهو معتبر و معنى اعتباره

(١) الأشباء: ٣١١/١

(٢) حاشية الحموي على الأشباء: ٣١١/١

أنه يصلح للنص، ولكن هذا في العرف العام، و أما في العرف الخاص، فلا؛ لأن العرف الخاص لا يصلح أن يكون مخصصاً.

قال الشامي رحمه الله في نشر العرف:

”و إن لم يخالفه (أي إن لم يخالف العرف الدليل الشرعي) من كل وجه: بأن ورد الدليل عاماً و العرف خالقه في بعض أفراده أو كان الدليل قياساً فإن العرف معتبر إن كان عاما؛ فإن العرف العام يصلح مخصصا.“ (١)

وقال في موضع آخر:

”و بما قررناه تبين لك أن ما تقدم عن الأشباء من أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص إنما هو فيما إذا عارض النص الشرعي فلا يترك به القياس ولا يخص به الأثر.“ (٢)

وقال في ”الذخيرة البرهانية“ في الفصل الثامن من الإجرات فيما لو دفع إلى حائرك غزلاً على أن ينسجه بالثالث، قال و مشائخ بلخ كنصير بن يحيى و محمد بن سلمة و غيرهما كانوا يجيزون هذا الإجارة في الثياب للتعامل أهل بلدتهم و التعامل حجة يترك به القياس و يخص به الأثر و تجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في فقير الطحان لأن النص ورد في

(١) رسائل ابن عابدين : ١٦٢ / ٢

(٢) المصدر السابق : ١٣٣ / ٢

فقيز الطحان لا في الحائط لأن الحائط نظيره فيكون واردا فيه دلالة، فمتنى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائط و عملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصياً لا تركاً أصلاً. (١)

فالحاصل أن العرف العام يصلح مخصصاً للنص العام، و أما العرف الخاص فلا يصلح أن يخص به الأثر و النص. فالعرف العام إذا عارضه النص العام. يعتبر بمعنى يخص به النص.

العرف إذا عارضه النص الخاص

و أما العرف إذا عارضه النص الخاص بحيث يكون العمل به تعطياً للنص فهل يعتبر أو لا يعتبر؟

فالجواب عنه: أنه لا يعتبر أصلاً لأنه لا يجوز ترك النص بالتعامل و العرف سواء كان العرف عاماً أو خاصاً.

قال في الذخيرة البرهانية على ما نقله عنه الشامي رحمه الله: ”و هذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة فقيز الطحان فإنه لا يجوز و لا تكون معاملتهم معتبرة لأنها لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنص أصلاً و بالتعامل لا يجوز ترك التنص أصلاً، وإنما يجوز تخصيصه.“ (٢)

هل الأحكام المبنية على العرف، تتغير بتغيير العرف؟
و ههنا سؤال مهم خالد، و هو هل الأحكام المنصوصة المبنية

(١) رسائل ابن عابدين: ١٦٦/٢

(٢) رسائل ابن عابدين: ١٦٦/٢

على العرف تتغير بتغيير العرف؟ و لا يخفى على أن بعض الأحكام المنصوصة مبنية على العرف، ككون بعض الأشياء كيلياً و بعض الأشياء وزنياً و غير ذلك فهل تتغير بتغيير العادة و العرف؟ أكثر العلماء على أنها لا تتغير لأن النهي أقوى من العرف، قال في الهدایة:

”كل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا و إن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة و الشعير و التمر و الملح و كل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا و إن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب و الفضة؛ لأن النص أقوى من العرف.“ (١)

و قال في ”الدر المختار“:

”و ما نص الشارع على كونه كيلياً كبيراً و شعيراً و تمراً و ملح أو وزنياً كذهب و فضة فهو كذلك لا يتغير أبداً“
– قال – لأن النص أقوى من العرف.“ (٢)

و هكذا قال في ”الجوهرة النيرة“ و ”البحر الرائق“ و غيرهما. (٣)
و هذا قول الجمهور من الأئمة، وقال الإمام أبو يوسف رحمه الله

(١) الهدایة: ٦٢/٣

(٢) الدر المختار مع رد المحتار: ١٧٦/٥

(٣) الجوهرة: ٢٢/٢، البحر الرائق: ١٢٩/٦

إنه يعتبر العرف إذا النص على كيلية بعض الأشياء و وزنية بعض الأشياء مبني على ما كان في زمن الرسول عليه السلام من كون العرف كذلك، فكان العرف هو المنظور إليه، فإذا تبدل، يتبدل الحكم المنصوص المبني على العرف، قال في نشر العرف: وإنما أراد (أي يوسف) تعليل النص بالعادة بمعنى أنه إنما نص على البر و الشعير و التمر و الملح بأنها مكيلة و على الذهب و الفضة بأنها موزونة لكونهما كانا في ذلك الوقت كذلك، فالنص في ذلك الوقت إنما كان للعادة حتى لو كانت العادة في ذلك الوقت وزن البر و كيل الذهب لورد النص على وفقها، فحيث كانت العلة للنص على الكيل في البعض و الوزن في البعض هي العادة تكون العادة هي المنظور إليها. (١)

و رجح الكمال ابن الهمام قول أبي يوسف رحمه الله كما في الدر المختار و "نشر العرف" (و الله أعلم) والى هذا يشير كلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه، فقال:

فالناس في مقادير الدرارهم و الدنانير على عاداتهم فما اصطلحوا عليه و جعلوه درهما فهو درهم و ما جعلوه ديناراً فهو دينار و خطاب الشارع يتناول، ما اعتادوه سواء كان صغيراً أو كبيراً. (٢)

و أظن أن الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله أراد و قصد ذلك بكلامه هذا:

(١) رسائل ابن عابدين: ١١٨/٢

(٢) فتاوى ابن تيمية رحمه الله: ١٩/٢٣٩

”إن النبي ﷺ فرض الصدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقطسط، و هذه كانت غالباً أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محله قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم - قال - و إنما نص على الأنواع المخرجة لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة، و لهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع و المعتر فإذا كان أهل بلد أو محله عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم بل؛ يشرع لهم أن يوسوا المساكين من أطعامتهم.“^(١)

و ذكر هذا في فصل في تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد، فيفهم من هذا أن عنده، تتغير الأحكام المنصوصة المبنية على العرف و العادة إذا تغير العرف و العادة. والله أعلم

العرف إذا خالفه القياس

العرف إذا خالفه القياس الشرعي، فهل يعتبر العرف أو يعمل بالقياس؟ فالجواب يطلب التفصيل و قد أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

(١) العرف إذا كان عاماً، و خالفه القياس، يُعتبر العرف و يترك

(١) إعلام المؤقعين: ١٢-١٣

به القياس، قال الشامي: فإن العرف العام يصلح مخصوصاً كما مر عن التحرير و يترك به القياس كما صرحوا به في مسئلة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقا. (١) و في ”البحر الرائق“:

”و صح بيع نعل على أن يحذوه و يشركه و القياس فساده لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه و ما ذكره جواب الاستحسان للتعامل.“ (٢)
وقال في ”رد المحتار“ في هذه المسئلة:

”يصح البيع و يلزم الشرط استحسانا للتعامل والقياس فساده؛ لأن فيه نفعا لأحدهما و صار كصبع الثوب و مقتضى القياس منعه لأنه إجارة عقدت على استهلاك عين الصبغ مع المنفعة و لكن جوز للتعامل.“ (٣)

قلت: إنه واضح من هذه العبارات الفقهية أن العرف العام يترك به القياس الشرعي.

(٤) وأما العرف الخاص إذا خالفه القياس، فلا يعتبر و لا يترك به القياس، صرحبه الإمام الشامي في نشر العرف و قد قدمنا عبارته. والوجه أن القياس الشرعي من الأدلة الشرعية فلا يعارضه إلا

(١) رسائل ابن عابدين: ١١٦/٢

(٢) البحر الرائق: ٨٨/٦

(٣) رد المحتار: ٨٨/٥

دليل مثله أو فوقه و العرف الخاص و إن كان دليلاً و لكنه ليس في درجته في القوة، فلا يعارضه.(والله أعلم) لأن القياس يثبت به الحكم العام ولكن العرف الخاص لا يثبت به الحكم العام؛ بل إنما يثبت به الحكم الخاص بخلاف القياس، فإنه يثبت به الحكم العام.

قال الشامي رحمه الله :

”إن الحكم العرف يثبت على أهله عاماً أو خاصاً فالعرف العام فيسائر البلاد يثبت حكمه على أهلسائر البلاد و الخاص في بلدة واحدة يثبت حكمه على تلك البلدة فقط.“ (١)

و بالجملة ان العرف العام في قوة يثبت به الحكم العام كالقياس، فيترك به القياس و أما العرف الخاص فليس في قوة يثبت به الحكم العام فلا يعارض القياس و لا يترك به القياس (والله أعلم)

العرف إذا عارضته القواعد العامة الشرعية

و هل العرف معتبر إذا عارضته القواعد العامة الشرعية؟ فالجواب: لا، لأن القواعد الشرعية العامة محكمة و قطعية لا تقبل التغير و التبدل و العرف ليس قطعياً، فلا يعارضها، و العرف المعارض للقواعد الشرعية واجب الرد وغير معتمد به في الأحكام.

قال الاستاذ زكي الدين شعبان:

(١) رسائل ابن عابدين: ١٣٢/٢

”و لا نزاع بين العلماء في أن العرف اذا كان مخالفًا للأدلة الشرع و أحکامه الثابتة التي لا تتغير باختلاف البيئات و العادات لا يلتفت إليه و لا يعتد به؛ بل يجب الغاءه.“ (١)

و قال منصور محمد الشيخ:

”و إن كان (أي العرف) مناقضاً لشيء من ذلك (أي القواعد الشرعية) فهو عرف فاسد لا يلتفت اليه و لا يعول عليه بل يتبعين محاربته و القضاء عليه.“ (٢)

(١) أصول الفقه الإسلامي: ١٩٣
(٢) أصول الأحكام: ٢٠٢

المحور الرابع

في بيان القواعد الفقهية التي تتعلق بالعرف

وليعلم ان الفقهاء رحمهم الله قد مهدوا قواعد عديدة تتعلق بالعرف و العادة، وتعلم من هذه القواعد الأحكام و الشرائط في اعتبار العرف ورده. و نحن نورد، هنا، هذه القواعد مع شرحها بايجاز و اختصار.

(١) العادة محكمة

يعني ان العادة تجعل حكمًا لا ثبات حكم شرعي.

(٢) استعمال الناس حجة يجب العمل بها

و هذا حيث لا نص، كما يأتي، وأما معنى الاستعمال فقيل هو و العادة مترادافان، وقيل الاستعمال نقل اللفظ إلى معناه المجازي شرعاً و العادة نقل اللفظ إلى معناه المجازي عرفاً، كما في الأشباه. (١)

(٣) العادة إنما تعتبر إذا اطردت أو غلت

يعني أن العادة العرف، عاماً كان أو خاصاً، إنما يعتبر إذا كان شائعاً بين أهله يعرفه جميعهم، و أما إذا كان لا يعرفه عامتهم بل

(١) الأشباه: ٢٩٦/١

يتعارفه خواصهم فقط، فلا يثبت التعارف بهذا القدر. (١)

(٢) الثابت بالعرف كالثابت بالنص

قال أبو زهرة رحمه الله :

”لعل معناه أن الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حيث لانص.“ (٢)

قلت: فيرجع معناه إلى أن العرف حجة شرعية كالنص و إن كان دونه في القوة وهذا المعنى صحيح.

(٣) التعين بالعرف كالتعيين بالنص

معناه أن التعين في الأمور التي لم يرد فيه نص شرعي بالعرف و العادة كالتعيين بالنص في الحكم كالأشياء التي لم ينص الشارع على كونها كيلية أو وزنية فالمرجع فيها إلى العرف.

(٤) الحقيقة تترك بالعادة والاستعمال

قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله :

”الحقيقة قد ترك بدلاله الاستعمال و العادة، مثل الصلاة فإنها اسم للدعاء قال الله تعالى وصل عليهم أي ادع ثم سمي عبادة معلومة مجازاً لما أنها شرعت للذكر قال الله تعالى ”و اقم الصلوة لذكرى“ و كل ذكر دعاء

(١) الأشباه ٣١٢:١ و رسائل ابن عابدين ١٣٣:٢

(٢) أصول الفقه لأبي زهرة ٢٧٣

وكالحج فانه قصد في اللغة فصار اسما لعبادة معلومة حجازا لما فيه من قوة العزيمة و القصد بقطع المسافة وكذلك نظائرها من العمرة و الزكاة حتى صارت الحقيقة مهجورة و إنما صار هذا دلالة على ترك الحقيقة لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس و حاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة.“ (١)

(٧) المعروف عرفاً كالمشروع شرعاً

قد تكلم العالمة ابن نجيم المصري رحمه الله في الأشباه على هذه القاعدة مبسوطاً و كذا تكلم عليها العالمة ابن عابدين رحمه الله في نشر العرف . و مما يتفرع عليها أنه لو جهز الاب بنته جهازاً و دفعه لها ثم ادعى أنها عارية و لا بينة ففيه اختلاف و الفتوى أنه إن كان العرف مستمراً ان الاب يدفع ذلك الجهاز ملكاً لا عارية لم يقبل قوله، وان كان العرف مشتركاً فالقول لأب . (٢)

(٨) العادة تجعل حكماً إذا لم يوجد الصريح بخلافه

(٩) العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه و معناهما ظاهر، و هو أن العرف و العادة إنما يعتبر إذا لم يكن التصريح بخلافه، و إذا وجد تصريح و تسمية بخلاف العرف

(١) كنز الوصول للبزدوي رحمه الله ٨٧

(٢) الأشباه: ٣٠٩/١

والعادة، فلا يعتبر و هذه القاعدة شرط من شرائط اعتبار العرف كما مر فيما تقدم.

(١٠) العرف غير معتبر في المنصوص عليه و هذه القاعدة أيضاً شرط من شرائط اعتبار العرف. وقد مر شرحها في المحور الثالث، وقال في الأشباء:

”و فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيلياً أو وزنياً وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله الخ.“ (١)

وقال أبو زهرة:

”و ان العلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول الاستنباط يقررون أنه دليل حيث لا يوجد نص من كتاب او سنة.“ (٢)

(١١) النص أقوى من العرف

و هذه القاعدة في الحقيقة تعليل لما سبق من أن العرف غير معتبر في المنصوص عليه، و حاصله أن العرف إنما لم يعتبر في المنصوص عليه لأن النص أقوى من العرف، و مسلم أن القوى لا يترك بالأدنى. (٣)

(١) الاشباء: ٢٩٧

(٢) أصول الفقه لأبي زهرة: ٢٧٣

(٣) راجع الدر المختار مع رد المحتار: ١٧٦ / ٥

(١٢) العادة معتبرة في تقيد مطلق الكلام

(١٣) المطلق يتقييد بدلالة العرف

(١٤) مطلق التسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف

قلت: هذه القواعد مرجعها إلى معنى واحد. و هو أنه إذا أطلق في الكلام يراد به ما هو المعروف في العرف و العادة. و مثاله ما في الهدایة وغيره أنه من أطلق الشمن في البيع كان على غالب نقد البد؛ لأنّه المتعارف. (١)

قلت: وعلى هذا لو حلف لا يأكل الخبز حتى إذا أكل ما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحث إلا بخبز البر و في طبرستان ينصرف إلى خبر الأرز و في الربيد إلى خبز الزرة و الدخن و لو أكل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لا يحث كما في الأشباء. (٢)

و من فروع هذه القواعد، حلف لا يدخل بيته، فدخل كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم يحث؛ لأن مطلق الكلام يتقييد بما هو المتعارف بالعرف و العادة.

(١٥) للعرف عبرة في معرفة المراد بالاسم

قال العلامة عميم الإحسان المجددي رحمه الله في القواعد الفقهية تعليقاً على هذه القاعدة:

(١) الهدایة: ٢/٣

(٢) الأشباء: ٣٠٥/١

”قاله محمد رَحْمَةُ اللَّهِ فِي السِّيرِ الْكَبِيرِ فِي مَسْأَلَةِ لَوْ
قَالَ: آمِنُونِي عَلَى مَوْالِيٍ وَلَا يُنَزَّلُ إِلَّا مَوْالِيَاتٌ أَنَّا ثُلَّا
ذَكْرُ فِيهِنَّ آمِنَاتٍ اسْتَحْسَانًا لِأَنَّ أَهْلَ الْلُّغَةَ بِقَوْلِهِنَّ
لِلْمُعْتَقَدِ هُنَّ مَوْالِيُّ بْنِي فَلَانَ كَمَا يَقُولُونَ لِلْمُعْتَقِينَ وَ
لِلْعَرْفِ عَبْرَةً.“^(١)

وَقَالَ الشَّامِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي ”عَقُودِ رِسْمِ الْمُفْتِيِّ“:
”وَفِي فِتاوَى العَالَمَةِ قَاسِمِ التَّحْقِيقِ أَنَّ لِفْظَ الْوَاقِفِ
وَالْمُوَصِّيِّ وَالْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ وَكُلِّ عَاقِدٍ يُحْمَلُ عَلَى عَادِتِهِ
فِي خُطَابِهِ وَلِغْتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافْقَتْ لِغَةُ الْعَرَبِ وَلِغَةُ
الشَّرْعِ أَوْلَى.“^(٢)

(١٦) بِخَصِّ الْقِيَاسِ وَالْأَثْرِ بِالْعَرْفِ الْعَامِ دُونَ الْخَاصِ
وَقَدْ تَكَلَّمَنَا فِيمَا سَبَقَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَرْفَ
إِنَّمَا يَخْصُّ بِهِ الْقِيَاسُ وَالْأَثْرُ إِذْ كَانَ عَامًا، بَلْ يُتَرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ
أَصَلًا، كَمَا تَقْدِمُ. وَإِمَّا الْعَرْفُ الْخَاصُ فَلَا يَخْصُّ بِهِ الْأَثْرُ وَلَا يُتَرَكُ
بِهِ الْقِيَاسُ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مَا يُقَالُ إِنَّ الْعَرْفَ الْعَامَ مُعْتَبِرٌ وَالْعَرْفُ
الْخَاصُ غَيْرُ مُعْتَبِرٍ.

(١٧) إِنَّ الْمَذْهَبُ عَدْمُ اعْتِبَارِ الْعَرْفِ الْخَاصِ
مَعْنَاهُ: أَنَّ الْعَرْفَ الْخَاصَ لَا يُعْتَبَرُ إِذَا عَارَضَ النَّصَّ الشَّرْعِيِّ فَلَا

(١) قواعد الفقه: ١٠٣

(٢) رسائل الشامي: ١/٣٨

يترك به القياس ولا يخص به الاثر، واما اذا عارض النص الفقهي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر، كما حرقه العلامة الشامي رحمه الله في نشر العرف. (١)

(١٨) لا عبرة بالعرف الطارئ

قال في الأشباء: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ فلذا اعتبر في المعاملات ولم يعتبر في التعليق.

قال الحموي رحمه الله تعليقا عليه:

”اعلم أن العادة الغالبة إنما تقيد لفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء امر في الحال دون ما يقع إخبارا عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر.“ (٢)

(١٩) العرف العام يثبت به الحكم العام و العرف الخاص يثبت به الحكم الخاص

قال الشامي رحمه الله في ”عقود رسم المفتى“ اعلم أن العرف قسمان: عام و خاص، فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصوصا للقياس والأثر بخلاف الخاص فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنه لا يصلح مخصوصاً. (٣)

(١) رسائل: ١٣٢/٢

(٢) الاشباء مع شرح الحموي: ١/٣١٢-٣١٢

(٣) رسائل: ١/٢٧

(٢٠) لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأيام

أي تغيير الأحكام المبنية على الأعراف و العادات، اذا تغيرت الأعراف و العادات، قال القرافي من المالكية في ”الاحكام في تمييز الفتاوى و الأحكام“ على ما نقله عنه العالمة أبو زهرة في كتابه ”مالك و حياته“:

”إن إقرار الأحكام التي مدركتها العادات مع تغيير تلك العادات خلاف الإجماع و جهالة الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العادات بتغيير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتتجدة.“ (١)

قال الراقيم: هذه قواعد عديدة، تتعلق بالعرف و العادة“ انتقى أكثرها من قواعد الفقه للعلامة عميم الإحسان المجددى البركتى، و بعضها من الأشباء و الناظر ل الإمام ابن نجيم المصري رحمه الله .

(١) مالك رحمه الله و حياته و عصره و فقهه: ٣٥٦

المحور الخامس

في تعارض العرف مع أقوال الفقهاء

حكم العرف إذا خالف ظاهر الرواية

العرف، قد يمكن أن يخالفه ظاهر الرواية و يوافقه قول ضعيف في المذهب فهل إذاً يسوغ للعلماء ان يتركوا ظاهر الرواية؟
نعم يسوغ للعلماء أن يتركوا ظاهر الرواية مطلقاً سواء كان في المذهب قول ضعيف، يوافق العرف أولاً.

قال العالمة الشامي رحمه الله في ”نشر العرف“:

”اعلم أن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بتصريح النص و هي الفصل الأول و إما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد و راي و كثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أو لاً لو لهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيير عرف أهله او لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أو لاً لللزم منه المشقة و الضرر بالناس – قال –

ولهذا ترى مسائخ المذهب خالفو ما نص عليه المجتهد
في مواضع كثيرة الخ.“^(١)

و كذا صرّح به في كتابه عقود ”رسم المفتى“، و أورد فيه
مسائل كثيرة، خالف فيها المجتهدون في المذهب و المسائخ.
و هي منصوصة في كتب ظاهر الرواية. وقال:

”هذا الذي جرأ المجتهدون في المذهب أهل النظر
الصحيح من المتأخرین على مخالفـة المنصوص عليه من
صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناءً على ما كان
في زمانه.“^(٢)

قلت: إنَّه لم يشترط وجود قول ضعيف يوافق العرف، لترك
ظاهر الرواية، فعلم منه أنَّه يترك ظاهر الرواية إذا خلافه العرف و
إن لم يكن في المذهب قول يوافق العرف. فإنْ كان في المذهب
قول ضعيف يوافق العرف، فهو أحق أن يتبع و يُعتبر.

العرف إذا خالف مذهبها فقهياً و وافق آخر

والعرف إن خالف مذهبها فقهياً من المذاهب الفقهية في قول من
الأقوال، و وافق مذهبها فقهياً آخر في ذلك القول، فهل يجوز لأحد
أن يختار القول الموافق للعرف و العادة، و إن كان خالفاً مذهبـه، و
هل ذلك خروج عن المذهب؟

(١) رسائل ابن عابدين: ١٢٥/٢

(٢) رسائل: ١/٨٥

قلت: لم أر من تعرض لهذا السوال صريحاً و لكن يمكن تحرير المسئلة بما قال الفقهاء في هذا الصدد.

قال الشامي رحمه الله في "عقود رسم المفتى":

"ربما عدنا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة و نحوها كما مر في مسئلة الاستئجار على تعليم القرآن و نحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررناه سابقاً فـ يجوز الإفتاء بخلاف قولهم - قال - والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبـه إذا رجحـه المشائخ المعـتبرـون و كذلك ما بنـاه المشائخ على العـرفـ الحـادـثـ لتـغـيـرـ الزـمـانـ أوـ لـالـضـرـورـةـ وـ نحوـ ذـلـكـ، لاـ يـخـرـجـ عـنـ مـذـهـبـهـ لأنـ ماـ رـجـحـوـهـ لـتـرجـيـحـ دـلـيـلـهـ عـنـهـمـ مـاـذـوـنـ بـهـ مـنـ جـهـةـ الإـمـامـ." (١)

وبهذا يتضح أمران:

١- أنه يجوز العدول عما اتفق عليه أئمتنا الحنفية إذا دعت إليه الضرورة.

٢- أنه لا يعد الخروج عن المذهب إذا بنـاهـ المشـائـخـ علىـ العـرفـ الحـادـثـ لتـغـيـرـ الزـمـانـ.

و معلوم أن المشائخ أفتوا بـجـواـزـ الاستـئـجارـ عـلـىـ تـعـلـيمـ القرـآنـ وـ الإـقـامـةـ وـ الـأـذـانـ وـ غـيـرـ ذـلـكـ مـنـ الطـاعـاتـ، معـ أنـ ذـلـكـ مـخـالـفـ

(١) عـقودـ رـسـمـ المـفـتـىـ، رسـائلـ: ٢٥/ـ

لما اتفق عليه الإمام أبو حنيفة و الإمام أبو يوسف و الإمام محمد رحمه الله، نعم هو جائز عند الإمام الشافعي رحمه الله، فعدلوا إلى مذهب الشافعي لتغيير الأحوال والأيام. ولم يعد ذلك الخروج عن المذهب. قلت: فكما أنه لا يعد العدول عما اتفق عليه أئمة المذهب للضرورة التي دعت إليه خروجاً عن المذهب، فكذا لا يعد ذلك خروجاً عن المذهب إذا عدل عنه للعرف؛ لأنَّه ماذون فيه من جهة الإمام، حتى لو كان حياً لفال بالعرف الحادث. والله أعلم

هل اتباع العرف الحادث واجب؟

و لا يخفى أن بعض الأحكام إنما بناها الفقهاء على عرف أهل زمانهم كما سبق في كلام الشامي رحمه الله فإن تغيير العرف و العادة فهل يجب اتباع العرف الحاضر هو جائز فقط؟ أو يفتى، بما أفتى به الفقهاء المتقدمون في زمانهم؟

فالذي يظهر من عبارات العلماء، أنه يجب اتباع العرف الحاضر، و لا يجوز الجمود على المنشول في كتب ظاهر الرواية؛ بل افطر الإمام القرافي وقال:

إن إقرار الأحكام التي مدرَّكتها العادات مع تغيير تلك العادات خلاف الإجماع و جهالة الدين؛ بل كل ما هو في الشريعة يتبع العادات يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتتجدة. (١)

(١) حكاية أبو زهرة في "مالك و حياته": ٣٥٦

يظهر من هذا العبارة، أن إقرار الأحكام العرفية على ما هي عليه ساباً، خلاف الإجماع، فيجب اتباع العرف الحادث.

وقال الشامي رحمة الله عليه :

”إن المفتى ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان و أهله، و إلا يضيع حقوقاً كثيرة و يكون ضرره أعظم من نفعه.“ (١)

و تشهد هذا العبارة على المفتى لا يجوز له الجمود على الأحكام التي بناها الفقهاء المتقدمون على العرف الماضي في زمانهم؛ بل يجب عليه أن يراعي العرف الحاضر و العادة الحادثة، فمن لم يفعل ذلك ضل و أضل، و حرم ما حلّ و أحلّ ما حرم، وتلزم منه مفاسد كثيرة من تحليل حرام و تحريم حلال، و إيجاب ما لم يوجبه الله و تغيير دين الله و الكذب على الله و على رسول الله. فلذا يجب على المفتى أن يفتى في المسائل المبنية على الأعراف و العادات. كما اعتاده الناس في زمانه لا بما اعتاده الفقهاء المتقدمون في زمانهم الماضي، و هذا من البدهي الذي لا يحتاج إلى دقيق من الفهم و عريض العلم.

نعم، على المفتى الذي يفتى بالعرف و العادة أن يكون له نظر سديد و معرفة كامة بالأحكام الشرعية و الشروط المرعية و العادات

(١) نشر العرف، رسائل: ١٣١/٢

العروفة و معرفة أن هذا العرف خاص أو عام و إنَّه مخالف للنص
أولاً، كي لا يفتى بالعرف فيما ورد فيه نص من الشارع أو يفتني
بالعرف الخاص فيما عارضه النص أو القياس فيُضل و يُضل.
و هذا آخر ما أردت إيراده في هذه العجالة راجيا من الله تعالى
ان يُعدها لى في الآخرة

فقط

حرره العبد محمد شعيب اللَّه عَفِيْ عَنْهُ
المدير بالجامعة الإسلامية مسيح العلوم،
بنغلور



تذليل

مسالك الأئمة في اعتبار العرف

لا يخفى علينا أن جمهور الأئمة و الأكثـر من العلماء ، يعدون العـرف أصـلـاً من أصول الفـقه و يأخذونـه مـصدـراً من المصـادر الشرعـية، فـقهـاء المـذاـهـب الـأـرـبـعـة، فـقد اخـتـلـفـوا فـيـهـ، ذـهـبـ الـحـنـفـيـةـ وـ الـمـالـكـيـةـ إـلـىـ اعتـبارـ الـعـرـفـ وـ الـعـادـةـ فـيـ الشـرـعـيـاتـ، بـيـنـماـ الشـافـعـيـةـ وـ الـحـنـابـلـةـ لـمـ يـحـتـرـمـوـهـ كـالـحـنـفـيـةـ وـ الـمـالـكـيـةـ، نـعـمـ يـظـهـرـمـنـ كـتـبـ الشـافـعـيـةـ وـ الـحـنـابـلـةـ فـيـ الفـرـوعـ، أـنـهـمـ اـعـتـبـرـوـهـ أـيـضـاـ فـيـ الجـمـلـةـ، وـ الـحـاـصـلـ انـ فـقـهـاءـ الـمـذاـهـبـ الـأـرـبـعـةـ كـلـهـمـ اـعـتـبـرـوـهـ الـعـرـفـ فـيـ الجـمـلـةـ أـمـاـ الـحـنـفـيـةـ وـ الـمـالـكـيـةـ فـإـنـهـمـ جـلـعـوـهـ مـصـدـراـ مـسـتـقـلاـ لـلـتـشـرـيعـ وـ لـذـاـ قـالـوـاـ:ـ ”ـالـثـابـتـ“ـ بـالـعـرـفـ كـالـثـابـتـ بـالـصـ، وـ أـمـاـ الشـافـعـيـةـ وـ الـحـنـابـلـةـ فـإـنـهـمـ وـ اـنـ لـمـ يـجـعـلـوـهـ مـصـدـراـ مـسـتـقـلاـ، يـعـتـرـوـنـهـ فـيـ الجـمـلـهـ وـ لـذـاـ اـدـعـيـ بعضـ الـعـلـمـاءـ إـلـىـ اـعـتـبـارـ الـعـرـفـ. قـالـ الإـمامـ القرـافـيـ منـ أـئـمـةـ الـمـالـكـيـةـ فـيـ الـفـرـوقـ عـلـىـ مـاـ نـقـلـهـ الـأـسـتـاذـ عبدـ الـكـرـيمـ زـيـدانـ فـيـ كـتـابـهـ ”ـالـمـدـخـلـ درـاسـةـ الشـرـيعـةـ الـإـسـلامـيـةـ“ـ فـقـالـ القرـافـيـ:

”ـالـأـحـكـامـ الـمـتـرـتبـةـ عـلـىـ الـعـادـاتـ قـدـورـ مـعـهـ أـيـنـماـ“ـ

دارت و تبطل معها اذا بطلت — و بهذا القانون تعتبر جميع الأحكام الشرعية المرتبة على العوائد و هو تحقيق مجمع عليه بين العلماء.“ (١)

فالحاصل أن اعتبار العرف قدر مشترك بين المذاهب، يلعم ذلك من تتبعها، و هذا نصوص في هذا الصد.

الحنفية

مذهب الحنفية في اعتبار العرف ظاهر، قال ابن نجيم رحمه الله في الأشباء:

”اعلم أن اعتبار العرف و العادة يرجع اليه في الفقه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلاً.“ (٢)

المالكية

والمالكية كالحنفية يأخذون بالعرف. قال أبو زهرة رحمه الله في كتابه: ”مالك و حياته“: و الفقه المالكي كالفقه الحنفي يأخذ العرف و يعتبره أصلاً من الأصول الفقهية فيما لا يكون فيه نص، قطعي بل إنه أو غل في احترام العرف أكثر من المذهب الحنفي لأن المصالح دعامة الفقه المالكي في الاستدلال. (٣)

(١) المدخل للدراسة الشريعة الإسلامية: ٢٠٧

(٢) الأشباء: ٢٩٥ / ١

(٣) مالك و حياته: ٣٥٣

الشافعية

قال ابن حجر العسقلاني رحمة الله في فتح الباري:

”الشافعية إنما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص

الشرعي أو لم يرشد النص الشرعي إلى العرف.“ (١)

فهذا ابن حجر الشافعى، يقرر أن العرف يعمل به عند الشافعية

إذا لم يعارضه النص الشرعي و أرشد إليه النص الشرعي. قال

الراقم: إن الإمام الشافعى رحمة الله و جدناه يأخذ بالعرف في كتابه

”الأم“ و إليك نصّه قال في مسائل الإجارة

ليس لك أن تسكنها (أى الدار المستاجرة) رحى

دابة و لا عمل حداد و لا قصار و لا سكنى تضر بالبناء و

لا بين و لك المعروف من سكنى الناس. (٢)

فهذا رجوع إلى العرف و العادة في المسائل التي لا نص فيها

من الشارع، و كذا وجدنا الإمام الشافعى رحمة الله يعتبر العرف

اللفظي، قال:

”إذا خلف الرجل أن لا يدخل دار فلان، فرقى فوقها

فلم يدخلها و إنما دخوله أن يدخل بيتها منها أو

عرصتها.“ (٣)

(١) فتح الباري ٥١٠/٩

(٢) كتاب الأم للإمام الشافعى ١٩٢/٣

(٣) الأم ٧٣/٧

قلت: هذا المسئلة مبنية على العرف اللفظي في لفظ الدخول، كما لا يخفى، و الله أعلم. وسيأتي كلام ابن قدامة الحنفي رحمه الله يصرح فيه بأن الشافعي يعتبر العرف حيث لا نص.

الحنابلة

قال ابن قدامة الحنفي رحمه الله في المغني:

”فصل في معرفة المكيل و الموزون المرجع في ذلك إلى العرف بالحجاز- إلى أن قال - و ما لا عرف له بالحجاز يحتمل و جهين: أحدهما يرد إلى أقرب الأشياء شبيها له بالحجاز كما أن الحوادات ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها، و هو القياس. و الثاني: يعتبر عرفه في موضعه، فإن لم يكن له حد في الشرع كان المرجع فيه إلى العرف كالقبض و الاحتراز و التفرق. و هذا قول أبي حنيفة رحمه الله و على هذا إن اختلف البلاد فالاعتبار بالغالب فإن لم يكن غالب بطل هذا الوجه و تعين الأول، و مذهب الشافعي على هذين الوجهين.“ (١)

هذا العبارة واضحة الدلالة على أن للعرف اعتباراً عند الحنابلة و كذا عبد الشافعية، و قال العالمة ابن تيمية الحنفي رحمه الله في الفتاوى:

”الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب

(١) المغني لابن قدامة ٢١/٢٢

والسنة، منها ما يعرف حده و سماه بالشرع، و منه ما يعرف حده باللغة - و منه ما يرجع إلى عادة الناس و عرفهم فيتنوع بحسب عادتهم.“ (١)

و قال ابن القيم الجوزي الحنبلي في إعلام الموقعين: ”لا يجوز له (للمفتى) أن يفتى في الإقرار والإيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها و المتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه و عرفوه و ان كان مخالفًا لحقائقها الأصلية.“ (٢)

و كل ما تقدم يدلنا على أن الأئمة من الفقهاء قد اعتبروا العرف و عملوا به، و ليس فيه خلاف.

فقط

محمد شعيب الله خان

(١) مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ٢٣٥/١٩

(٢) إعلام الموقعين لابن القيم: ٢٢٨/٣

عرف الزهرة

في مسح الرقبة

الْبَقْرِيْطَا

حضرت مولانا مفتی مہربان علی بڑو توی رحمۃ اللہ علیہ

خلیفہ حضرت اقدس فقیہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ

عزیز م محترم جناب مولوی محمد شعیب اللہ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ
السلام علیکم و رحمة اللہ و برکاتہم

آپ کا رسالہ الموسوم ”عرف الزهرة فی تحقیق مسح الرقبة“ کے مسودہ کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا، حضرات اہل علم کے لیے آپ نے بڑا مفید اور کارامہ علمی خزانہ جمع فرمادیا ہے اور مسح رقبہ کے متعلق جو بعض حدیثوں پر ضعف کا غبار پڑا ہوا بعض کم بیناؤں کو نظر آتا تھا، آپ نے محدث شانہ کلام سے کیا خوب اس کو صاف کر دیا ہے، اس طرح آنحضرت نے مسح رقبہ کے باب میں احناف کی حمایت کا بھرپور حق ادا کیا ہے۔

فجزاکم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء فی الدنيا والآخرة، حق تعالیٰ قبولیت سے نوازیں اور کچھ فہموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور آپ کے لیے نجات کا سیلہ بنائیں۔

درخواست: اگر رسالہ عربی میں ہو جائے، تو میرے خیال سے آپ کا یہ عظیم کارنامہ بن جائے۔ والسلام۔

احقر مہربان علی بڑو توی

(خادم تعلیمات مدرسہ عربیہ امداد الاسلام ہرسوی، ضلع مظفرنگر (یوپی))

۱۴۰۲/۳/۸

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُمِقْدَشُ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ الطاهرين،

اما بعد:

معروض یہ کہ جس طرح بہت سارے مسائل میں بعض لوگ احناف پر مخالفت حدیث اور ان کے بعض مسائل پر بے دلیل ہونے کا الزام رکھتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ مسح رقبہ (یعنی وضوء میں گردان کے مسح) کے بارے میں احناف کو بدعتی اور مسح رقبہ کو بدعت قرار دیتے ہیں اور اتنا یہ ہے کہ جس حدیث سے مسح رقبہ پر استدلال کیا جاتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں اور اپنے قول کی تائید میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مسح رقبہ کی حدیث موضوع ہے جس سے استدلال جائز نہیں۔

مگر ان مخالفین کو یہ نظر نہیں آتا کہ اگر ایک علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسح رقبہ کی حدیث کو موضوع کہا ہے تو ہزاروں علماء کے خلاف مسح رقبہ کی حدیث سے احتجاج اور اس سے استدلال کو درست قرار دیتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر حضرات علماء نے تعقب کیا ہے، اور ان کی اس بات کو صحیح تسلیم نہیں کیا ہے۔

پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی کون سی حدیث کو

موضوع کہا ہے؟ کیا اس سلسلے کی تمام احادیث کو موضوع کہہ دیا ہے؟ دنیا سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نابود اور مفقود نہیں ہو گئی ہیں، اٹھا کر دیکھئے شرح مہذب میں انہوں نے صرف ایک حدیث پر جس کے الفاظ یہ ہیں: ”مسح الرقبة أمان من الغل“ وضع کا حکم لگایا ہے، البتہ یہ بھی کہا ہے کہ اس باب میں نبی کریم ﷺ سے کچھ ثابت نہیں اور مسح رقبہ سنت نہیں بدعت ہے؛ مگر اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دیگر روایات پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نہیں ہے، اس سے یہ سمجھ جانا کہ تمام روایات کو انہوں نے موضوع کہا ہے، انتہاء پسندی کے سوا کچھ نہیں۔

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض لوگ حفیہ کو الزام دینے کے شوق میں کتب حفیہ کے بعض اردو تراجم سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حذف کر کے محض ان کا قول نقل کر دیتے ہیں اور عوام کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ کتب احناف میں بھی مسح رقبہ کو بدعت اور اس کی حدیث کو موضوع لکھا ہے؛ مگر حفی علماء اس کو چھپاتے ہیں اور عوام کو جہل میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب نے اپنی کتاب ”حدیث خیروشر“ میں ”عین الہدایہ“ کے حوالہ سے لکھا ہے: ”گردن کا مسح بدعت ہے اور اس کی حدیث موضوع ہے۔“ ہم یہ اور اس جیسی دوسری بعض تلیسات کو بڑھ کر فرط حیرت سے دم بخود رہ گئے؛ کیوں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ان کتابوں میں یہ بعض لوگوں کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، چنانچہ اس جگہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا نام مذکور ہے، یہ قول احناف کا نہیں ہے۔

اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کسی عیسائی نے قرآن پاک سے عیسیٰ ﷺ کا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت کیا تھا کہ قرآن میں صاف موجود ہے ”مسح بن

اللہ، حال آں کے یہ قرآن کا قول اور فیصلہ نہیں ہے؛ بل کہ قرآن نے نصاریٰ کا قول نقل کیا ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طریقہ سے استدلال فرماتے ہیں۔

الغرض جب اس قسم کی باتیں درپیش آئیں، تو خیال ہوا کہ چند سطور اس سلسلے میں حوالہ قرطاس کی جائیں، اس سے یہ امید تونہیں کہ مخالفین مان جائیں گے؛ کیوں کہ ان کا رویہ بارہاد یکھا جا چکا کہ بعد وضوح حق بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے؛ البته متعدد دین اور موافقین کو ضرور فائدہ ہو گا اور اسی طرح متلاشی حق ضرور منتفع ہو گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

اب بنام خدا شروع کرتا ہوں اور اس رسال کا نام ”عرف الزهرة في تحقیق مسح الرقبة“ رکھتا ہوں اور آخر میں علاماً کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سہو و خطاو بکھیں، تو اصلاح فرمایہ کر دیں عفو میں احقر کو جگہ عطا فرمائیں، پھر سبھی حضرات سے استدعاً دعاء خیر کرتا ہوں۔

فقط

محمد شعیب اللہ خان عفی عنہ

۲/شعبان/۱۴۰۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل

سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گردن کے مسئلہ میں حضرات علماء کرام و ائمہ عظام کے کیا خیالات و نظریات ہیں اور انہوں نے کیا مسلک اختیار کیا ہے۔

مذاہب ائمہ

وضوء میں مسح رقبہ (گردن کے مسح) کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں علماء ائمہ کے تین قول ملتے ہیں:

(۱) ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ و بدعت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، چنانچہ مالکی مسلک کی کتابوں میں سے التاج الاقلیل اور مختصر خلیل اور الشرح الکبیر میں مسح رقبہ کو مکروہ و غیر مستحب لکھا ہے۔ (۱)

اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول یہی ہے (۲)

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ مسح رقبہ مستحب ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ چنانچہ مسلک خنبی کی کتاب ”المحرر فی الفقہ“ میں ہے کہ مسح عنق کے مسنون ہونے کے بارے میں دو قول ہیں۔ (۳)

(۱) التاج الاقلیل : ۱/۲۶۶، مختصر خلیل : ۱/۱۲، الشرح الکبیر : ۱/۱۰۳

(۲) شرح زیدین رسلان : ۱/۳۶، الانصاف : ۱/۱۳۷، المحرر : ۱/۱۲

(۳) المحرر فی الفقہ : ۱/۱۲

اورالمبدع میں بھی دقولوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ مسنون ہونے کو غنیمتہ میں اور ابن الجوزی اورابن رزین رحمہمَا اللہُ نے اختیار کیا ہے۔^(۱)

اورابن تیمیہ رحمہمَا اللہُ نے بھی شرح العمدۃ میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں گردن کا مسح مستحب ہے۔^(۲)

اورمرداوی رحمہمَا اللہُ نے الانصاف میں جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں حنابلہ کے دوقول ہیں: ایک یہ کہ مسنون نہیں ہے اور اس کو متعدد اصحاب نے اختیار کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مسنون ہے اور اس کو بھی متعدد حضرات نے اختیار کیا ہے، غنیمتہ میں اورابن الجوزی، ابوالبقاء، ابن الصیر فی اورابن رزین رحمہمَا اللہُ نے اسی کو اختیار کیا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ اصح قول یہی ہے۔^(۳)

اورشافعی فقہ کی ایک اور معروف کتاب ”روضۃ الطالبین“ میں ہے کہ اٹھارویں سنت گردن کا مسح ہے، کیا یہ سنت ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دو وجہ یعنی دو قول ہیں۔^(۴)

علمائے حفییہ کے نزدیک بھی مسح رقبہ مستحب ہے اور ان کی کتب فقہ معتبرہ مشہورہ میں سے وقاریہ، شرح الوقایہ، نقایہ، کنز الدقائق، الدر المختار، رد المحتار، نور الایضاح اور مرافقی الفلاح، طحطاوی علی المرافقی وغیرہ صدہا کتب

(۱) المبدع: ۱/۱۱۲

(۲) شرح العمدۃ: ۱/۱۹۳

(۳) الانصاف: ۱/۱۳۷

(۴) روضۃ الطالبین: ۱/۲۱

میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور مستحب قرار دیا ہے۔ (۱)

(۳) تیرا قول بعض شافع وغیرہ سے منقول ہے کہ مسح رقبہ سنت ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ”تلخیص الحبیر“ میں اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے ”نیل الاوطار“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد علامہ رویانی رحمۃ اللہ کی کتاب ”بحر“ سے نقل کیا ہے کہ ہمارے اصحاب نے (مسح رقبہ) کو سنت کہا ہے۔ (۲)
اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے فقه شافعی پر اپنی کتاب ”الوسیط“ میں اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے۔ (۳)

اور علامہ تقی الدین شافعی رحمۃ اللہ نے بھی ”کفایة الاخیار“ میں مسح رقبہ کو سنتوں میں شمار کرایا ہے اور علامہ راغبی رحمۃ اللہ سے اس قول کی تصحیح بھی نقل کی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ علامہ راغبی رحمۃ اللہ نے ”شرح کبیر“ میں ”مسح الرقبة امان من الغل“ حدیث سے احتجاج کیا ہے، پھر امام نووی رحمۃ اللہ کا قول بدعت ہونے کا نقل کر کے آخر میں فرمایا کہ اس کا مقتضاء یہ ہے کہ اس باب میں دو قول ہیں۔ (۴)

حاصل یہ کہ مسئلہ اگرچہ مختلف فیہ ہے؛ مگر بدعت کے قول سے زیادہ سنتیت واستحباب کے قول کو علماء ائمہ نے اختیار کیا ہے، جیسا کہ کتب مذاہب اربعہ کے مطالعہ سے اور ان کے عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔

(۱) دیکھو: المبسوط: ۱/۸، البحر الرائق: ۱/۲۹، فتح القدیر: ۱/۳۱، بدائع: ۱/۱۷،

مراقب الفلاح: ۲۸

(۲) تلخیص ۱/۳۲، نیل الاوطار: ۱/۱۵۹

(۳) الوسیط: ۱/۲۸۸

(۴) کفایة الاخیار: ۱/۵۳

بدعت ہونے کا قول ضعیف ہے

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک مسح رقبہ کے بدعت ہونے کا قول ضعیف و کمزور ہے؛ اسی لیے اکثر علمانے بدعت ہونے کے قول کو بصیرۃ تمریض بیان کیا ہے اور اس قول کو ضعیف ہونا بھی چاہیے؛ کیوں کہ اس کو بدعت قرار دینے والوں کے نزدیک اس کے بدعت ہونے کی وجہ عدم ثبوت ہے کہ ان حضرات مانعین کے نزدیک کوئی روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچی۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسح رقبہ کو بدعت قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ سے کوئی شیٰ ثابت نہیں، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نیان سے تلخیص الحبیر میں نقل فرمایا ہے اور جو ثابت تھی اس کو انہوں نے موضوع قرار دے دیا۔

مگر کون نہیں جانتا کہ جس بات پر استدلال کی عمارت رکھی گئی تھی وہ اگر متزلزل ہو جائے، تو استدلال بھی ملیا میٹ ہو کر رہ جاتا ہے، تو اگر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر بزرگوں کے نزدیک اس سلسلے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، تو ضروری نہیں کہ دوسرے حضرات بھی تھی دامن ہوں اور جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دیگر علماء کے پاس اس سلسلے میں متعدد روایات ثابت ہیں، تو پھر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بے جان ہو کر رہ گیا؛ لہذا یہ قول ضعیف ہوا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ پر علماء کا انکار

اسی لیے متعدد حضرات علمانے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان کے باوجود اس مسئلے میں ان پر انکار کیا ہے اور ان کے اس کو بدعت کہنے پر اور اس کی حدیث کو موضوع قرار دینے پر ان کا رد کیا ہے۔

چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں ابن الرفعہ کا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر تعاقب نقل کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ مسح رقبہ بدعت ہے یہ صحیح نہیں؛ کیوں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ جوائمه حدیث میں سے ہیں انہوں نے اس کو مستحب کہا ہے اور اس کامًا خذ حدیث و اثر ہی ہو سکتا ہے؛ کیوں کہ یہ بات مغض قیاس سے نہیں کہی جاسکتی۔^(۱)

علامہ پیغمب شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المقدمة الحضر میہ“ کی شرح ”المنهج

القویم“ میں فرمایا:

”قال النووي: إنه بدعة و خبر “مسح الرقبة أمان من الغل“ موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع“.
 (امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گردن کا مسح بدعت ہے اور یہ حدیث کہ گردن کا مسح طوق سے امن ہے، موضوع ومن گھڑت ہے؛ لیکن اس بات پر تعاقب کیا گیا ہے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔)^(۲)

اور دوسرے شافعی فقیہ علامہ شروانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا:

”وقال النووي إنه بدعة و خبر مسح الرقبة أمان من الغل“ موضوع لكنه متعقب بأن الخبر ليس بموضوع.
 وقال الكردي عليه: والحاصل أن المتأخرین من أئمتنا قد قلدوا الإمام النووي في كون الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير إلى أن الحديث له طرق

(۱) التلخیص الحبیر: ۹۲/۱

(۲) المنهج القویم: ۸۷/۱

وشاہد یرتقی بھا إلى درجة الحسن۔“

(امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گردن ایک مسح بدعت ہے اور یہ حدیث کہ گردن کا مسح طوق سے امن ہے موضوع و من گھڑت ہے؛ لیکن اس بات پر تعاقب کیا گیا ہے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے اور علامہ کردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ حاصل یہ ہے کہ ہمارے متاخرین انہم نے اس حدیث کے بے اصل ہونے کی بات میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی ہے؛ لیکن محدثین کا کلام اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس حدیث کے متعدد طرق اور شواہد ہیں جن کی وجہ سے یہ حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔) (۱)

اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد روایات مسح علی الرقبہ کے ثبوت میں نقل کرنے کے بعد فرمایا:

”وبِجَمِيعِ ذَلِكَ تُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ النَّوْوَيِّ: 'مَسْحُ الرَّقْبَةِ بَدْعَةٌ وَأَنَّ حَدِيثَهُ مَوْضِعٌ'، مَجَازَفَةٌ، وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا قَوْلِهِ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ وَلَا جَمِهُورُ الْأَصْحَابِ، وَإِنَّمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ فَإِنَّهُ قَالَ الرَّوِيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ بِـ 'الْبَحْرِ' مَا لَفْظَهُ: قَالَ أَصْحَابِنَا هُوَ سَنَةٌ. وَتَعَقَّبُ النَّوْوَيِّ أَيْضًا ابْنَ الرَّفِعَةِ بِأَنَّ الْبَغْوَيِّ وَهُوَ مِنْ أئمَّةِ الْحَدِيثِ قَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ، قَالَ: وَلَا مَأْخُذٌ لِاستِحْبَابِهِ إِلَّا خَبْرٌ أَوْ أَثْرٌ؛ لَأَنَّ

(۱) حاشیة الشروانی: ۲۲۱/۱

هذا لا مجال للقياس فيه.

(ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ”مسح رقبہ بدعت ہے اور اس کی حدیث موضوع ہے“، ”مجازفة“ (یعنی اٹکل اور بے تکنی بات ہے) پھر فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اس کو نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، نہ جمہور اصحاب نے، اس کو توبس ابن القاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چھوٹی جماعت نے ذکر کیا ہے (تعجب) اس لیے کہ اصحاب شافعی میں سے علامہ رویانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو کہ بحر سے مشہور ہے، فرمایا کہ ہمارے اصحاب نے (مسح رقبہ) کو سنت کہا ہے۔ پھر لکھا: ابن الرفع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تعقب کیا ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، مسح رقبہ کے استحباب کے قائل ہیں۔ (ابن الرفع) نے کہا کہ اس (مسح رقبہ) کا مأخذ خبر یا اثر ہی ہے؛ اس لیے کہ اس میں قیاس کو مجاز نہیں۔^(۱))

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب ”السیل الجرار“ میں بھی ان پر نقد کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

”أقول: لم يثبت في ذلك شيء يوصف بالصحة أو الحسن، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث وهي وإن لم تبلغ درجة الاحتجاج بها فقد أفادت أن لذلك أصلاً لا كما قال النووي: إن مسح الرقبة بدعة وأن

(۱) نیل الاوطار: ۲۰۲/۱

حدیثہ موضوع، و قال ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فی الہدی: لم
یصح عنہ فی مسح العنق حدیث البتة، وهذا مسلم ولكن
لا تشرط الصحة في كل ما يصلح للحجۃ فإن الحسن
مما يصلح للحجۃ۔“

(میں کہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جو صحیح
یا حسن کہی جاسکے اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص میں متعدد احادیث
نقل کی ہیں اور وہ اگرچہ کہ درجہ احتجاج کو نہیں پہنچتیں، تاہم یہ بتاتی
ہیں کہ اس کی کوئی اصل موجود ہے، ایسا نہیں جیسے نووی نے کہا کہ گردن
کا مسح بدعت ہے اور اس کی حدیث موضوع ہے اور جیسے ابن القیم
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گردن کے مسح کے بارے میں کوئی حدیث رسول
اللہ حلی لفۃ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں، یہ مسلم ہے؛ مگر ہر
قابل احتجاج حدیث کے لیے صحیح ہونا شرط نہیں ہے؛ کیوں کہ حدیث
حسن بھی احتجاج کے قابل ہوتی ہے۔) (۱)

الحاصل علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ مسح رقبہ بدعت اور اس کی حدیث موضوع
ہے ناقابل قبول ہے؛ کیوں کہ حدیث بھی متعدد طرقاً و شواہد کی روشنی میں کم از کم حسن
قرار پاتی ہے اور اس کی بناء پر مسح رقبہ کا سنت یا مستحب ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔

گردن کا مسح سنت ہے یا مستحب؟

اب رہی یہ بات کہ مسح رقبہ کے بارے میں بدعت ہونے کے علاوہ جو اور
دو قول ہیں، ان میں سے کون راجح ہے؟ تو اس کے جواب سے قبل ضروری ہے کہ ہم

(۱) السیل الجرار: ۹۰/۱

سنّت و مستحب کی تعریف اور ان میں فرق بیان کریں، پھر اس کا فصلہ کریں کہ کون راجح ہے۔

علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”البحر الرائق“ میں سنّت کی اصطلاحی تعریف پر بحث کرتے ہوئے جو فصلہ فرمایا ہے وہ یہ ہے:

”إِنَّ السَّنَةَ مَا وَاضَّبَ النَّبِيُّ حَلَّى لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَكِنْ إِنْ

كانت لا مع الترك فھی دليل السنۃ المؤکدة ، وإن كانت
مع الترك أحياناً فھی دليل غير المؤکدة ، وإن اقترنت
بالإنكار على من لم يفعله فھی دليل الوجوب ، فافهم“ .

(سنّت وہ ہے جس پر نبی کریم حلّی لہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو؛ لیکن یہ مواظبت بلا ترک ہوتی ہے، تو یہ سنّت موکدہ ہونے کی دلیل ہے اور اگر کبھی ترک کے ساتھ ہے، تو یہ سنّت غیر موکدہ ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس کے نہ کرنے والے پر انکار کبھی ہوا ہے، تو یہ وجوہ کی دلیل ہے، خوب سمجھ لو۔) (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ سنّت وہ ہے جس پر نبی کریم حلّی لہ علیہ وسلم نے مواظبت (ہیئتگی) فرمائی ہو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”رد المحتار“ میں سنّت کی تعریف میں مواظبت کو مخوذ رکھا ہے۔ (۲)

اور مستحب کی تعریف ”البحر الرائق“ میں یہ کی گئی ہے کہ جس فعل پر آپ نے مواظبت نہیں فرمائی اور کسی چیز کو پسند فرمایا کہ بھی آپ نے اس کو نہیں کیا، تو یہ بھی اس

(۱) البحر الرائق: ۱/۱۷

(۲) رد المحتار: ۱/۱۰۲

میں داخل ہے۔ اس کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں راجح قرار دیا ہے۔^(۱) حاصل یہ نکلا کہ جس پر نبی کریم ﷺ نے مواظبت فرمائی ہے وہ سنت ہے اور جس پر مداومت نہیں فرمائی یا رغبت فرمائی کبھی اس کو نہیں کیا، تو یہ مستحب ہے۔ اس تمهید کے بعد ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم ﷺ سے بلاشبہ مسح رقبہ ثابت؛ بل کہ اس کی طرف رغبت دلانا بھی ثابت ہے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا؛ مگر آپ کا مواظبت و مداومت کرنا ثابت نہیں؛ اس لیے سنت کا قول مرجوح ہے اور استحباب کا قول راجح ہے، رہایہ سوال کہ پھر بعض حضرات نے اس کو سنت کس بنیاد پر کہا تو عرض ہے کہ جن حضرات نے مسح رقبہ کو سنت فرمایا ہے، وہ اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے نہیں؛ بل کہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے؛ کیوں کہ سنت کے معنی طریقہ کے ہیں کہ دین اسلام میں یہ بھی مشروع طریقہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سنت کا لفظ مستحب کے معنے میں ہو؛ کیوں کہ لفظ سنت بھی مستحب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ”رد المحتار“ میں لکھا ہے۔^(۲)

ان چند معروضات کے بعد ہم اس کے استحباب پر دلائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

(۱) البحر الرائق: ۱/۲۸، رد المحتار: ۱/۱۲۳

(۲) رد المحتار: ۱۲۳

فصل

اب ہم مسح رقبہ (گردن پر مسح) کے مستحب ہونے کے دلائل بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان دلائل پر کلام کر کے ان کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔

پہلی دلیل

﴿ عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق ﴾ (۱)

(لیث، طلحہ بن مصرف سے، وہ ان کے باپ سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو اپنے سر کا مسح کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ گدی اور اس سے ملے ہوئے گردن کے اگلے حصے تک پہنچ گئے۔)

اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا

اس حدیث سے بے غبار طریقہ پر مسح رقبہ کا ثبوت ہوتا ہے اور بے شمار علماء ائمہ نے اس سے مسح رقبہ پر استدلال فرمایا ہے۔ علامہ مجدد الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکوری الاخبار میں اس حدیث پر ”باب مسح العنق“ کا ترجمہ باندھا ہے اور علامہ

(۱) رواہ أحمد: ۳/۲۸۱، ابو داؤد: حدیث: ۱۳۲، والطحاوی: ۱/۳۰، والبیهقی فی السنن الکبری: ۱/۲۰، والطبرانی فی المعجم الکبیر: ۱۹/۱۸۰

ابن تيمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الحمدۃ میں اس سے مسح رقبہ کا استحباب ثابت کیا ہے اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نیل الاوطار میں اس سے احتجاج کیا ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نقایہ میں اور علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدر میں مسح رقبہ پر اسی حدیث سے استدلال فرمایا ہے۔

یہ حدیث موضوع نہیں

بعض ائمہ حدیث نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تلخیص الحبیر“ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ایسے ہی ”بلغ المرام“ میں بھی اس کی تضعیف کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب صفة وضوء البنی حلائی علیہ وسلم“ میں اس پر کلام کیا ہے۔ مگر کسی نے بھی اس حدیث کو موضوع قرآنیں دیا اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو موضوع کہا ہے وہ دوسری حدیث ہے جس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

جن لوگوں نے اس روایت پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے منطبق کرنا چاہا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھولا پن ہے یا تلپیس و دھوکہ دہی؟ کیا ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کسی روایت کا موضوع ہونا اس سلسلے کی تمام روایات کے موضوع ہونے کو مستلزم نہیں؟ اگر ایسا ہوا کرے کہ کسی مضمون کی کسی روایت کو موضوع کہنے اور قرار دینے سے تمام روایات اس سلسلے کی موضوع قرار پائیں، تو پھر شریعت کا کوئی باب ایسا ملنا مشکل ہے، جس میں کوئی حدیث صحیح ہو؛ کیوں کہ ہر باب میں زنا دقه اور فتنہ پرداز لوگوں نے کوئی نہ کوئی بات اختراع کی ہے۔ چنانچہ محدثین نے ابواب قائم فرمایا کہ ہر باب کی موضوع احادیث کو جمع فرمادیا ہے، تو پھر کوئی باب بھی احادیث موضوع سے خالی ملنا مشکل ہے، تو پھر ساری شریعت ہی کو بدعت کہنا پڑے گا۔ غرض

یہ کہ مذکورہ بالاروایت کو موضوع نہیں گھاگیا ہے، البتہ اس پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔

ضعیف کہنے والوں کی دلیل

اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جن حضرات نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہات بیان کی گئی ہیں: ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے راوی لیث بن ابی سلیم کی بیوی بن سعید، عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد نے تضعیف کی ہے اور ان کو متروک قرار دیا ہے اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اسانید کو الٹ پھیر کرتے تھے اور مراسیل کو معروف کر دیتے اور ثقات سے وہ حدیثیں بیان کرتے جو ان کی حدیثیں نہیں ہیں اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء میں کہا کہ علمانے ان کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ (۱)

ضعف کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی طلحہ بن مصرف کے دادا جن کا نام کعب بن عمرہ ہے صحابی نہیں ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باپ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت کا انکار کیا۔ نیز ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے جب دریافت کیا گیا کہ کیا کعب کو صحبت حاصل ہے؟ تو فرمایا محدثین کہتے ہیں کہ کعب نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہے اور ان کے اہل بیت صحبت کا انکار کرتے ہیں۔

تیسرا وجہ ضعف کی یہ ہے کہ طلحہ کے والد مصرف کو ابن القطان نے مجھوں الحال کہا ہے۔ ان وجوہ کی بنابر اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے؛ مگر محققین نے ان وجوہ و جروح کا جواب دے کر روایت کو قابلِ احتجاج قرار دیا ہے۔ ہم یہاں پر علی

(۱) التلخیص الحبیر: ۲۸/۱

الترتيب والتفصيل ان تمام علتوں کے جوابات لکھتے ہیں۔ والله الموفق

لیث بن ابی سلیم کی تضعیف کا جواب

لیث بن ابی سلیم کی تضعیف کے سلسلہ میں گذاش ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ مطلق جرح اور ہر جرح قابل اعتناء ولا نق اعتبر نہیں ہوا کرتی؛ اگر ہر جرح قابل قبول ولا نق اعتبر ہو، تو پھر امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام بخاری، امام شعبہ، اور امام ابن معین رحمہم اللہ جیسے حضرات بھی ضعیف ٹھہریں گے۔ چنانچہ امام دارقطنی رحمہم اللہ نے جو ایک بلند پایہ محدث ہیں، امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کو سی احفظ اور ضعیف فرمادیا؛ مگر سبھی جانتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے بارے میں دارقطنی کی یہ جرح نامقبول ہوئی اور اس جرح کا رائی برابرا شرمنہ ہوا اور آپ کی ثقاہت وعدالت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا؛ نیز اہل علم سے یہ بھی مخفی نہیں کہ امام بخاری رحمہم اللہ کے معظم ومحترم استاذ حضرت امام علی ابن المدینی رحمہم اللہ کو امام عقیلی رحمہم اللہ نے ضعفاء کی فہرست میں داخل کر دیا تھا؛ مگر اس جرح کا اثر تو کیا ہوتا خود امام عقیلی رحمہم اللہ اس کی وجہ سے علام کی نظر سے گر گئے، حتیٰ کہ صاحب تذکرہ حافظ ذہبی رحمہم اللہ کو اولاد افسوس ہوا، تو کہا ”بئس ماصنع“ کہ (عقیلی نے بڑی بڑی حرکت کی) اور جب اس کو برداشت نہ کر سکے تو پکارا ٹھے کہ اگر علی ابن المدینی رحمہم اللہ جیسے حضرات ہی ضعیف ہو جائیں تو پھر ثقہ اور قوی دنیا میں کون ہوگا؟ نیز حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس پر کیا کم جرح ہوئی ہے؟ ان کو تو بعض محمد شین نے کذاب تک کہہ دیا، بدعتی اور لاچی اور دنیا دار کہا؛ مگر اس سب کے باوجود امام بخاری رحمہم اللہ جیسے کڑی شرائط پر پرکھنے والے شخص نے ان کی روایات کو اپنی صحیح میں درج فرمایا اور ان جروح کا کوئی اعتبار نہیں کیا؛ اسی لیے حافظ عسقلانی رحمہم اللہ نے فتح الباری کے مقدمہ میں ان تمام

جروحات کا مفصل و مدلل جواب دے کر ثابت فرمایا کہ عکرمهؐ کیہ ہیں اور ان کے حق میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ ایسے ہی بخاری و مسلم کے کتنے راوی اور رجال ہیں، جن پر علماء ائمہ نے جرح کی؛ مگر یہ جرح ان روایوں کو اپنے درجہ ثقاہت وعدالت سے گرانے میں کارگرنہ ہوئی۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ لیٹ کو مذکورہ ائمہ کے درجہ میں کھڑا کر دیں؛ بل کہ محض یہ بتانا ہے کہ ثقہ ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ ہر طرح کی جروحات سے وہ خالی ہو اور اس پر کوئی جرح نہ کی گئی ہو؛ بل کہ جرح کے ہوتے ہوئے بھی ثقہ ہو سکتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ تضعیف و توثیق ایک امر اجتہادی ہے اور اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک راوی کسی امام و محدث کے نزدیک ثقہ ہوا وہی راوی دوسرے محدث کے نزدیک ضعیف و متروک ہو۔
ابراهیم بن محمد بن ابی یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جمہور کے نزدیک ضعیف ہیں؛ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جدت قرار دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تلخیص الحبیر“ میں کہا:

”ابراهیم بن محمد بن ابی یحییٰ و هو ضعیف لکنه حجۃ عند الشافعی۔“ (۱)

عطاء خراسانی کی جمہور نے توثیق کی ہے؛ مگر امام بخاری و عقیلی اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ضعیف ہیں، عبدالرحمٰن بن اسحاق کو فی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے محدثین نے سوء حافظہ کی وجہ سے تضعیف کی ہے؛ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”باب ماجاء فی سوق الجنة“ میں ان کی ایک روایت کی تحسین فرمائی اور حافظ

(۱) تلخیص الحبیر: ۱/۵۶

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے القول المسدود میں اس طرف اشارہ کیا ہے؛ نیز فرمایا کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی حدیث کی تصحیح کی ہے۔^(۱)

ابومعشر بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں؛ مگر امام نسائی، امام احمد اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک قابل احتیاج ہیں۔ غرض یہ کہ راوی کی توثیق و تضعیف ایک امر اجتہادی ہے جس میں مختلف آراء پائی جاسکتی ہیں۔

لیث بن ابی سلیم

اب اس پر غور کرنا ہے کہ لیث بن ابی سلیم کے بارے میں اگر ابن مہدی، یحییٰ بن سعید، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ متروک اور ضعیف ہیں، تو ایک خلق کثیر نے ان کو ثقہ جان کر ان سے جھت پکڑی اور ان سے روایت کی ہے۔

چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”البنياۃ شرح هدایہ“ میں لیث کی تضعیف کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لیث سے ایک خلق کثیر نے روایت کیا ہے، جن میں سفیان ثوری، شریک، شعبہ، ابو عوانہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں اور ابو داؤد سے نقل کیا کہ ”لیس به باس“ (ان میں کوئی خرابی نہیں)، یحییٰ سے بھی ایسا ہی قول نقل کیا اور دارقطنی سے نقل کیا کہ لیث صاحب سنت بزرگ تھے۔^(۲)

اسی طرح حافظ نور الدین حشمتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں لیث کو ثقہ ملک س کہا ہے۔^(۳)

یاد رہے کہ لیث کی روایات کے بارے میں علامہ حشمتی رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال

(۱) القول المسدود: ۳۵

(۲) البنياۃ: ۲۱۲/۱

(۳) مجمع الزوائد: ۱/۱۳۹

متعارض ہیں، بعض جگہ ضعیف کہا ہے، بعض جگہ لیث کی توثیق کی ہے، جیسا کہ اوپر نقل ہوا، غالباً جہاں تحدیث کی تصریح نہیں تھی وہاں تدليس کی وجہ سے تضعیف کی ہے، جہاں تحدیث کی تصریح ہے وہاں پر صحیح کی ہے؛ لیکن ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ تدليس بھی خود کوئی علت نہیں ہے۔ فاہم

الحاصل لیث بن ابی سلیم کے بارے میں علماء مختلف الایمال ہیں، بعض تضعیف کرتے ہیں، تو بعض توثیق و تحسین کرتے ہیں، ہم نے اوپر علامہ عین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ابو داؤد اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیث کے بارے میں جو نقل کیا ہے کہ انہوں نے ”لاباس بہ“ کہا، یہ متقدیں میں کی اصطلاح میں اور خصوصاً ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں توثیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

چنانچہ علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کی ”الرفع والتكميل“ میں یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے:

”جب میں ”لاباس بہ“ کہوں تو سمجھو کہ وہ ثقہ ہے“ اور فتح المغیرت سے ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ — میں نے عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم سے کہا کہ آپ علی بن حوشب الفرازی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا: ”لاباس بہ“، ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ انہیں ثقہ کیوں نہیں کہتے، تو کہا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن معین اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیث ثقہ ہیں۔ رہایہ کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تضعیف بھی منقول ہے، جیسا کہ اوپر منقول ہوا، تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو جرح و تعدیل مبہم جمع ہو گئے، لہذا تعدیل ہی

مقدم ہوگی، جیسا کہ یہ مسئلہ ابھی تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، پس ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثقہ ہیں، ایسے ہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ ثقہ ہوں گے؛ کیوں کہ امام صاحب کے شیوخ محدثین کے یہاں ثقہ ہیں، انهاء السکن مقدمہ اعلاء السنن پر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راویوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کی کتاب میزان سے نقل کیا گیا ہے:

”وناهیك يا أخي بعدالة من ارتضاهم الامام أبو حنيفة“

لأن يأخذ عنهم أحكام دينه مع شدة تورعه وتحزره“

(اے بھائی! تجھے ان لوگوں کی عدالت کافی ہے جس سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احکام دین حاصل کرنے پر باوجود آپ کے شدتِ تورع اور تقویٰ کے راضی ہو گئے۔) (۱)

الغرض لیث بہت سارے ائمہ کے نزدیک ثقہ اور لائق احتجاج ہیں، اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ علامہ ہمیشہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیث کو مدرس کہا ہے جو کہ جرح اور تضعیف ہے، تو اس سلسلے میں اولاً ہم تدليس کی محدثین کی اصطلاح کے مطابق تعریف کرتے ہیں، پھر اصل بات کی طرف عود کریں گے۔

تدليس کی تعریف

محدثین کی اصطلاح میں تدليس کا مطلب یہ ہے کہ راوی سند بیان کرتے ہوئے بجائے اپنے شیخ کے شیخ کے شیخ کا نام ذکر کرے اور اپنے شیخ کا نام ذکر نہ کرے، اسی طرح تدليس یہ بھی ہے کہ شیخ کے نام کے بجائے اس کی غیر معروف کنیت کا ذکر کرے یا اگر شیخ کنیت سے مشہور ہے تو اس کا غیر معروف نام سند میں لے۔

(۱) انهاء السکن مقدمہ اعلاء السنن: ۵۵

راوی کی غرض تدليس سے کبھی تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے شیخ کا نام چھپالے؛ کیوں کہ شیخ مشہور نہیں یا کم عمر ہے وغیرہ تو اپنی روایت کی وقت بڑھانے کے لیے شیخ کے شیخ کا نام لیتا ہے اور کبھی اس وجہ سے تدليس کرتا ہے کہ روایت کی صحت مسلم ہو اور سند مشہور ہو تو تفصیل کرنا سند میں ضروری نہیں سمجھتا۔ اس میں صورت اولیٰ کو تدليس اور ثانیہ کو تدليس کہا جاتا ہے۔ (۱)

جمهور اور حناف کے نزدیک تدليس من حیث ہو تدليس کوئی جرح نہیں ہے، کیوں کہ راوی اگر ثقہ ہے، تو غرض فاسد سے تدليس نہیں کر سکتا، ورنہ وہ ثقہ ہی نہیں رہے گا اور اگر راوی ضعیف ہے، تو بلا تدليس و تدليس ہی اس کی روایت ضعیف و مجروح ہے، تو اصل علت ضعف ہوانہ کہ تدليس۔

فخر الاسلام بزدوى رحمه اللہ نے فرمایا:

”وَمِنْ ذَلِكَ طَعْنَهُ بِالْتَّدَلِيسِ، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولُ حَدِّثْنِي
فَلَانَ عَنْ فَلَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّصِلَ الْحَدِيثُ بِقَوْلِهِ حَدِّثْنَا
أَوْ أَخْبَرْنَا، وَسَمِّوْهُ عَنْعَنَةً؛ لَأَنَّ هَذَا يَوْهَمُ شَبَهَةَ الْإِرْسَالِ
وَحَقِيقَتُهُ لَيْسَ بِجَرْحٍ فَالشَّبَهَةُ الْأُولَى.“ (۲)

(یعنی طعن مردوں میں سے محدثین کا تدليس سے طعن کرنا بھی ہے، اور تدليس یہ ہے کہ یوں کہے ”حدّثني فلان عن فلان“ بغیر اس کے حدیث کو ”أَخْبَرْنَا“ یا ”حَدِّثْنَا“ کہہ کر متصل کرے اور محدثین اس کو ععنہ کہتے ہیں۔ یہ طعن مردوں اس لیے ہے کہ اس سے روایت

(۱) دیکھو: مقدمہ ابن الصلاح: ۲۲، ارشاد طلاب الحقائق: ۱/۲۰۵، الکفاۃ: ۳۶۳-۳۶۲

(۲) اصول بزدوى: ۱۸

کے منقطع ہونے کا شبهہ پیدا ہوتا ہے اور جب حقیقت انقطاع بھی جرح
نہیں تو شبهہ انقطاع تو بدرجہ اولیٰ جرح نہیں ہوگا۔)

اور ”نور الانوار“ میں ہے:

”لَا يُقْبِلُ الطَّعْنُ بِالْتَّدْلِيسِ لَأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَوْمٌ شَبَهَهُ
الإِرْسَالُ، وَحَقِيقَةُ الْإِرْسَالِ لَيْسَ بِجَرْحٍ فَشَبَهَتْهُ أَوْلَى.“ (۱)

غرض یہ کہ فقہائے احناف کے نزدیک تدليس جرح نہیں ہے؛ لیکن اس کے
قبول کرنے کے لیے فقہائے یہ شرط لگائی ہے کہ قرون ثلاٹھ کے ثقات کی تدليس
تو مقبول ہے۔ قفو الاثر میں احناف کا مسلک اس طرح نقل فرمایا:

”وَأَمَّا عَنْدَنَا (مِعْشَرُ الْحَنْفِيَّةِ) فَقَلِيلٌ لَمْ رُوَيْهُ (أَيِّ الْمَدْلُسُ)
حَكْمُ الْمُرْسَلِ وَقَدْ عَلِمْتَ حَكْمَهُ.“ (۲)

پھر جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ راوی روایت میں تحدیث و سماع کی تصریح
کردے، تو اس کی روایت مقبول ہوتی ہے جیسا کہ کتب اصول میں مصروف ہے۔ (۳)

علت تدليس کا جواب

ان معروضات کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب تدليس کا جرح ہونا ہی مسلم نہیں،
تو اس روایت میں اس وجہ سے طعن کرنا، قادر نہیں؛ لہذا جواب کی ضرورت نہیں، پھر
اگر تدليس کو جرح تسلیم کر لیں، تو جواب یہ ہے کہ لیث بن ابی سلیم نے طبرانی کے طریق
میں تحدیث کی تصریح کر دی ہے، جیسا کہ ہم آگے اس کا ذکر کریں گے؛ لہذا یہ علت بھی
مندفع ہو گئی؛ کیوں کہ ثقہ کے تحدیث کی تصریح کرنے کے بعد اس کی روایت

(۱) نور الانوار: ۶/۱۹

(۲) قفو الآخر: ۱/۲۷

(۳) دیکھو: مقدمہ ابن الصلاح: ۲۲، ارشاد طلاب الحقائق: ۱/۲۰۵، الکفایۃ: ۳۶۳-۳۶۴

جمهور کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔

علامہ نووی پر نقد

یہاں سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا ضعف و فساد ظاہر ہو گیا کہ تمام علمائے لیث کے ضعف پر اتفاق کر لیا ہے، اگر واقعی لیث متفق علیہ ضعیف راوی ہوتے تو کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی روایت کو اپنی صحیح میں درج فرماتے؟ یہ لیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے طبقہ ثانیہ کے راویوں میں سے ہیں اور سنن اربعہ کے مؤلفین نے ان سے روایت کی ہے، خصوصاً امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی روایت کی تخریج کرنا کم از کم ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہونے کی دلیل ہے؛ کیوں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبتوں میں التزام کیا ہے کہ صحیح روایات ہی کی اس میں تخریج کی جائے اور ان کی شرائط تمام اصحاب سنن سے اشد ہیں، جیسا کہ زہر الربی میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے؛ بل کہ علامہ سیوطی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نسائی نے بعض ان راویوں سے حدیث روایت نہیں کی جن سے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

الغرض جب لیث سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لی ہے، تو کم از کم ان کے نزدیک بھی یہ حسن ہوں گے، رہایہ کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کی تضعیف کی ہے تو غایت مافی الباب یہ ہے کہ ان کی رائے مختلف منقول ہے اور اقوال متعارض ہیں، لہذا ترجیح تعدل ہی کو ہوگی؛ کیوں کہ جرح بہم مقبول نہیں ہوتی جیسا کہ یہ بحث آئے گی۔ الغرض امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعویٰ کہ تمام علماء کا لیث کے ضعف پر اتفاق ہے ناقابل التفات ہے۔

جرح مقدم ہے یا تعدل

اگر کوئی کہنے لگے کہ قاعدہ ہے ”الجرح مقدم علی التعديل“ کہ تعدل پر

جرح مقدم ہے، لہذا بیث کو بھی اگرچہ بعض ائمہ نے ثقہ کہا ہے؛ مگر جرح کے مقدم ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار دینا چاہئے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے؛ بل کہ اولاً تعلمًا کا اس میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض نے تعدیل کو علی الاطلاق مقدم قرار دیا ہے، جیسا کہ کتب اصول میں مذکور و منقول ہے؛ مگر مشہور اور صحیح قول جس کو جہور نے اختیار فرمایا ہے یہ ہے کہ اگر جرح اور تعدیل دونوں مبہم ہوں تو تعدیل مقدم ہے اور اگر جرح مفسر ہے، تو پھر جرح مقدم ہے، خواہ تعدیل مبہم ہو یا مفسر۔

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”الرفع والتكميل في الجرح والتعديل“ میں اس مسئلہ پر طویل بحث فرمائی ہے اور اسی مذکورہ قول کو صحیح اور مشہور قرار دیا ہے۔

آپ نے متعدد اقوال و آراء کا ذکر کرنے کے بعد جو فیصلہ فرمایا ہے، ہم اس کو یہاں انہیں کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

”والحاصل أن الذى دلت عليه كلامات الثقات
وشهدت به جمل الالباب هوأنه إن وجد فى شان راوٍ
تعديل وجرح مبهمان ، قدم التعديل . وكذا إن وجد
الجرح مبهمًا و التعديل مفسراً قدم التعديل . وتقديم
الجرح إنما هوإذا كان مفسراً سواء كان التعديل مبهمًا
أومفسراً“.

(الحاصل جس پر ثقات کے کلمات دلالت کرتے اور اثبات کے بیانات گواہی دیتے ہیں یہ ہے کہ اگر کسی راوی کی شان میں تعدیل اور جرح دونوں مبہم پائے جائیں تو تعدیل مقدم ہے اور اسی طرح اگر

جرح مبہم اور تعدیل مفسر پائی جائے تو تعدیل مقدم ہوگی، اور جرح کا مقدم ہونا صرف اسی صورت میں ہے، جب کہ جرح مفسر ہو تعدیل خواہ مفسر ہو یا مبہم۔ (۱)

اب لیث کے بارے میں دیکھا جائے، تو اکثر جروحتات تو مبہم ہی ہیں اور جو مفسر ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ انسانید میں قلب کرتے تھے، مرا سیل کو مرفوع کر دیتے تھے اور ایک یہ کہ آخری عمر میں اختلاط و تغیر حافظہ کی شکایت ہو گئی تھی، جس سے ان کی روایات میں اضطراب پایا جاتا ہے؛ لیکن ان تمام کا مرجع اور مآل ایک ہی ہے کہ حافظہ خراب ہو گیا تھا، جس سے یہ ساری باتیں ان سے ہوتی تھیں۔

چنانچہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے:

”کانَ أَحَدُ الْعِبَادِ إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَهُ اخْتِلاَطٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ وَإِنَّمَا تَكَلَّمُ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهَذَا وَإِلَّا فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَهُ“.

(یعنی یہ لیث عابدوگوں میں سے تھے؛ مگر انہیں اختلاط کی شکایت ہو گئی تھی، لپس ان کی حدیث مضطرب ہو گئی اور علمانے ان کے بارے میں اسی وجہ سے کلام کیا ہے، ورنہ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے ان کی حدیث کو ترک کر دیا ہو۔) (۲)

اس سے معلوم ہوا کہ لیث بن ابی سلیم پر اختلاط کی وجہ سے ہی کلام ہوا ہے، اس کے علاوہ ان میں کوئی بات قابل جرح نہیں ہے اور یہی ایک جرح ان پر مفسر بھی ہے۔

(۱) الرفع والتكميل: ۹۹

(۲) تهذیب التهذیب: ۳۱۸/۸

علم اخلاق و تغیر کا جواب

مُرجِّن لُوگوں نے لیث میں کلام کیا ہے، ان میں سب لوگ اخلاق کی وجہ سے ان کی حدیث کو متروک نہیں ٹھہراتے؛ بل کہ بہت سے ایسے ہیں، جنہوں نے ان کی احادیث کو قبول کیا ہے۔

چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا شرح مسلم میں کلام اس پر صریح ہے۔ فرماتے ہیں:

”أَمَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ فَضَعْفُهُ الْجَمَاهِيرُ، قَالُوا اخْتَلَطَ وَاضْطَرَبَتْ أَحَادِيثُهُ، قَالُوا: وَهُوَ مَنْ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ الدَّارُ قَطْنِي: يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ كَثِيرُونَ: لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ.“ (کذا فی البذل: ۱/۸۷)

(بہ ہر حال لیث بن ابی سلیم پس جماہیر علماء نے ان کی تضعیف کی ہے، انہوں نے کہا کہ اخلاق لیث کو ہو گیا تھا اور ان کی احادیث مضطرب ہو گئی تھیں، کہتے ہیں کہ لیث ان لوگوں میں سے ہیں جن کی احادیث لکھی جاتی ہیں اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی حدیث لکھ لی جاتی ہیں اور اکثر نے کہا کہ نہیں لکھی جاتی۔)

اس سے ایک بات تو یہ مستفاد ہوئی کہ تضعیف اخلاق کی وجہ سے کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے باوجود بہت سے لوگ ان کی احادیث کو لیتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ یہ اخلاق اس قدر اڑانداز نہیں کہ ان کی روایات کو لینے سے مانع بن جائے، کچھ اخلاق ہوا جس سے محتاط لوگوں نے ان کی احادیث سے اجتناب کیا؛ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی احادیث صالح نہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے محتاط شخص نے جب ان سے روایت لی ہے، تو یہ صالح ضرور ہیں، کیوں کہ مطلقاً تغیر و اخلاق

موجب ضعف نہیں ہوا کرتا؛ بل کہ اس وقت موجب ضعف ہوتا ہے، جب کہ زیادہ ہونے لگے، جیسا کہ تذکرہ وغیرہ کتب رجال دیکھنے سے اس کا علم ہوگا۔

حاصل یہ ہے کہ اختلاط و تغیر مطلقاً موجب ضعف نہیں، تاہم ان کی روایات کو صحیح بھی نہیں کیا جاسکتا؛ مگر حسن المحدث اور صالح للاحتجاج ہونے میں کلام نہیں۔ پس لیث پر کی گئی جرح کا مفصل جواب ہو چکا۔ (وللہ الحمد)

کعب بن عمر و صحابی ہیں

اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دوسری علت جو بیان کی گئی کہ طلحہ کے دادا کعب بن عمرو کو صحبت حاصل نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح نہیں؛ کیوں کہ عبد الرحمن بن مهدی نے کہا کہ طلحہ کے دادا عمرو بن کعب ہیں اور انھیں صحبت حاصل ہے جیسا کہ امام زیہقی اور امام رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ ان کو صحبت حاصل ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابة میں تصریح کی ہے کہ کعب طلحہ بن مصرف کے دادا کو صحبت حاصل ہے۔^(۱)

علامہ عینی رحمہ اللہ نے البناء میں فرمایا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تحرید الصحابة میں تصریح کی ہے کہ انہیں صحبت حاصل ہے اور عثمان دارمی رحمہ اللہ نے علی ابن المدینی رحمہ اللہ سے حکایت کی کہ میں نے عبد الرحمن بن مهدی رحمہ اللہ سے طلحہ کے دادا کا نام پوچھا، تو کہا ”عمرو بن کعب“ انہیں صحبت حاصل ہے۔^(۲)

(۱) دیکھو: سنن البیهقی: ۱/۵۱، نصب الرایہ: ۱/۷، التلخیص الخبیر: ۱/۹۷، اسد الغابة: ۱/۹۲۸

(۲) البناء: ۱/۲۱۲

بہ ہر حال نام کچھ بھی ہو، انہیں صحبت حاصل ہے، رہا گھر والوں کا ان کے صحابی ہونے سے انکار تو اولاً کوئی ضروری نہیں کہ ہربات اہل خانہ کو معلوم ہی ہو، ثانیاً تلخیص میں حافظ نے لکھا ہے کہ خلال نے ابو داؤد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے طلحہ کی اولاد میں سے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ طلحہ کے دادا کو صحبت حاصل ہے۔^(۱) اور یہ مسلم ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہوا سی کی بات لائق ترجیح ہے، لہذا منکرین کے مقابلہ میں مثبتین کا قول راجح ہو گا؛ اسی لیے علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا مذکورہ بالاقول نقل کر کے فرمایا ”جب اہل علم نے صحبت کا اعتراف کر لیا تو بات پوری ہو گئی۔“^(۲)

پس یہ علت بھی مندرج ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جن حضرات نے ان کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے وہ دراصل ان کے عدم علم کی بنا پر ہے اور دوسرے حضرات نے اپنے علم کی بنا پر اس کو ثابت مانا ہے۔

مصرف کی توثیق

تیسرا اعتراض طلحہ کے والد مصرف کے مجہول ہونے کا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر تہذیب الکمال میں کہا کہ ابو زرعہ نے ان مصرف کی توثیق کی ہے۔^(۳)

پس جن لوگوں کے پاس یہ معروف نہیں، ان کا قول جھٹ نہ ہو گا؛ بل کہ مسترد کر دیا جائے گا؛ کیوں کہ دوسرے امام نے ان کی توثیق کی ہے اور توثیق مجہول کی

(۱) التلخیص الحبیر: ۱/۷۹

(۲) فتح القدیر: ۱/۲۲

(۳) البناية: ۱/۲۱۲

ناممکن ہے، جب توثیق کی گئی، تو بس جہالت ختم ہو گئی۔

اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے قطع نظر جہالت مصرف کا ایک اور طریقہ سے جواب دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مصرف میں نہ جرح ہے نہ تعدیل اور مصرف نے ایک ثقہ سے روایت کی ہے اور مصرف سے بھی ثقہ نے روایت کی ہے کہ مصرف نے کعب سے اور مصرف سے ان کے لڑکے طلحہ نے روایت کی ہے اور یہ دونوں ثقہ ہیں اور مصرف نے کوئی منکر روایت نہیں کی، پس ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثقہ ہیں۔^(۱)

راقم کہتا ہے کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس راوی کے بارے میں علمانے نہ جرح کی ہونے تعدیل اور یہ راوی ثقہ سے روایت کرے اور اس سے بھی ثقہ روایت کرے اور یہ کوئی منکر روایت بیان نہ کرے تو ایسا شخص ثقہ ہے۔^(۲)

”طلحہ“ کی توثیق

رہے طلحہ بن مصرف توبیہ ثقہ ہیں، ان کی بیکی بن معین اور ابو حاتم اور عجلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے توثیق کی ہے اور حریش بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ابو سحاق، سلمہ بن کہمیل، حبیب بن ابی ثابت اور ابو معشر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ یہ سب کہتے تھے کہ ہم نے طلحہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، حال آں کہ ان سب نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو دیکھا ہے۔ اور عبد اللہ بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی تعریف کرتے ہوں جس کو انہوں نے

(۱) إعلاء السنن : ۳۸ / ۱

(۲) فتح المغیث : ۳۶ / ۱

پایا ہے سوائے طلحہ بن مصرف کے۔ (۱)

یہاں تک لیث تک کی سند کا قابلِ ولائق احتجاج ہونا ثابت ہو گیا اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے السیل الجرار امام میں ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ سے اس سند کی تحسین نقل کی ہے۔ (۲)

طبرانی کی سند

اب اس کے بعد کے راویوں کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے لیے طبرانی کی سند پر مختصر طور پر یہاں بحث کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے مجھم کبیر میں اس سند کے ساتھ پیش کیا ہے:

”حدثنا الحسين بن اسحاق التستري ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو سلمة الكندي ثنا ليث بن أبي سليم حدثني طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده كعب بن عمرو واليامي الخ.“ (۳)

اس سند میں سب سے پہلے راوی حسین بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تستری ہیں، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور ثقہ ہیں؛ کیوں کہ میزان میں ان کی تضعیف نہیں کی گئی ہے اور علامہ پیغمبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”مجمع الزوائد“ میں تصریح کر دی ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ جن کی میزان میں تضعیف نہیں کی گئی وہ ثقات ہیں۔ (۴) لہذا اس اصول پر یہ حسین بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تستری ثقہ ہیں۔ دوسرے راوی

(۱) تہذیب الکمال: ۱۳/۲۳۶، تہذیب التہذیب: ۵/۲۳

(۲) السیل الجرار: ۱/۸۹

(۳) معجم کبیر طبرانی: ۱۹/۱۸۰

(۴) مجمع الزوائد: ۱/۸

شیبان بن فروخ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ہے، رجال مسلم میں سے ہیں اور یہ ثقہ ہیں، امام احمد رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے ان کو ثقہ کہا ہے اور امام ابو زرعة رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے صدقہ کہا ہے۔ (۱)

تیسرا راوی ابو سلمہ کندی ہیں، حافظ ابن حجر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے تقریب میں ان کو مجھوں کہا ہے؛ مگر مولانا عثمانی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے اعلاء السنن کے حاشیہ میں اس کو نقل کر کے اس کا تعقب کیا ہے کہ یہ مجھوں کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان سے دو ثقہ عادل نے روایت کی ہے، ایک تو زید بن حباب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے، دوسرے شیبان ابن فروخ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى نے۔ پس جہالت عین مرتفع ہو گئی اور جہالت وصف وہ ابن حبان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى کے قاعدے سے مرتفع ہو گئی؛ کیونکہ ان میں نہ جرح ہے نہ تعدل، اور ان کے شیخ و شاگرد دونوں ثقہ ہیں اور انہوں نے منکر بھی روایت نہیں کیا۔ (۲)

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مجھوں بھی ہوں، تو کوئی حرج نہیں؛ کیوں کہ ابو سلمہ کی متابعت ابو داؤد و طحاوی کے پاس عبدالوارث نے اور حفص بن غیاث نے طحاوی کے پاس کی ہے۔ لہذا متابعت کے پائے جانے کی وجہ سے ان کا ضعف ختم ہو گیا۔ اور لیث کا حسن الحدیث ہونا اور پر معلوم ہو چکا اور اس کے بعد کی سند کا لائق احتجاج ہونا بھی ثابت ہو گیا، پس یہ طبرانی کی سند حسن ہے، جس سے احتجاج صحیح اور درست ہے، خصوصاً باب فضائل میں اس کو جدت بنا نا بلا کسی تردد کے درست ہے، جیسا کہ اس پر مفصل کلام آگے آئے گا۔

دوسری دلیل:

﴿عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

(۱) تهذیب الکمال : ۲۶۰/۱۲

(۲) حاشیۃ اعلاء السنن : ۱/۳۸

مسح على راسه ثلاثاً وظاهر أذنيه ثلاثاً وظاهر رقبته
وباطن لحيتيه ثلاثاً ﴿١﴾

(حضرت وائل بن حجر رضي الله عنه سے (ایک لمبی حدیث میں) مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (وضوفرماتے ہوئے) مسح کیا اور اپنے سر کا تین مرتبہ اور اپنے کانوں کے ظاہر پر تین مرتبہ اور گردان کے ظاہر پر اور اپنی دارڈی کے اندر وون حصہ میں تین دفعہ مسح کیا۔)

اس حدیث پر دو اعتراضات

اس روایت سے بھی مسح رقبہ کا ثبوت صاف طریقہ پر ہو رہا ہے، مخالفین کی جانب سے اس روایت سے احتجاج پر ایک اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (میزان: ۳۱/۳) نے ”له مناکیو“ کہہ کر جرح کرڈالی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”فیه نظر“ کاریمارک قائم فرمادیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ”فیه نظر“ کہنا بڑی سخت جرح شمار کی جاتی ہے۔ لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ احتلاف تو مسح رأس (سر کے مسح) میں تثییث (تین دفعہ مسح کرنے) کے قائل نہیں اور اس روایت سے تثییث مسح کا ثبوت بھی ہو رہا ہے؛ لہذا اس روایت سے اگر احتجاج کریں گے، تو تثییث کے بھی قائل ہونا چاہئے، حال آں کہ ایسا نہیں کرتے۔

حاصل یہ کہ اولاً روایت قابل احتجاج نہیں، ثانیاً مذهب احناف کے خلاف ہے۔ احناف پر مخالفین کی جانب سے یہ دو اعتراضات کئے گئے ہیں؛ مگر یہ دونوں

(۱) رواه البزار كذا في نصب الراية: ۱/۸

اعتراضات بے جان اور ناقابل الثقات ہیں۔

ہم ان اعتراضات کے مفصل جوابات حوالہ قلم کرتے ہیں، جس سے اس روایت کا لائق احتجاج ہونا اور پھر استدلال کا صحیح ہونا ظاہر ہو جائے گا۔

پہلے اعتراض کا جواب

پہلے اعتراض کے سلسلے میں گزارش ہے کہ محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ راوی دراصل مختلف فیہ ہیں کہ بعض نے ان کی تضعیف اور بعض نے توثیق کی ہے۔ چنان چہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ”لسان المیزان“ میں نقل کیا کہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوئی شیخ فرمایا۔^(۱)

اور لفظ شیخ مجملہ الفاظ تعدل کے ہے، اگرچہ کہ ادنیٰ درجہ کی تعدل ہے، جیسا کہ حافظ نے نخبۃ الفکر میں ذکر کیا ہے؛ لہذا یہ محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ راوی مختلف فیہ ہوئے اور مختلف فیہ روایی حسن الحدیث ہوتا ہے، جب کہ جرح و تعدل بعہم ہو جیسا کہ یہاں ہے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اعلاء السنن میں فرمایا:

”وَكُذا إِذَا كَانَ الرَّاوِي مُخْتَلِفًا فِيهِ، وَثُقَّهُ بَعْضُهُمْ وَ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْمَنْذُرِي فِي مِقْدَمَةِ تَرْغِيبِهِ فَأَقُولُ: إِذَا كَانَ رَوَاهُ إِلَيْهِ ثَقَاتٌ وَفِيهِمْ مِنْ اخْتِلَفَ فِيهِ فِي إِسْنَادِهِ حَسَنٌ أَوْ مُسْتَقِيمٌ أَوْ لَا يَبْأَسُ بِهِ.“^(۲)
 (اسی طرح جب راوی مختلف فیہ ہو کہ بعض نے اس کی توثیق کی اور بعض نے تضعیف تو وہ حسن الحدیث ہے اور منذری نے الترغیب

(۱) لسان المیزان: ۵/۱۹

(۲) مقدمہ اعلاء السنن

کے مقدمہ میں کہا کہ جب اسناد کے رواۃ ثقہ ہوں اور ان میں کوئی مختلف فیہ ہو تو اس کی اسناد حسن ہے یا مستقیم یا لا باس بہے۔)

اور جرح و تعدل کے مبہم ہونے کی صورت میں تعدل کا مقدمہ ہونا اوپر ہونا معلوم ہو چکا، پس روایت حسن درجہ سے کم نہیں ہوگی۔ پھر ”لہ منا کیر“ کہنے سے اس رواوی کی روایت کا ترک کرنا بھی لازم نہیں آتا۔ چنانچہ انهاء السکن (۱۵۹:) میں فتح المغیث سے نقل کیا ہے کہ ابن دقیق العید نے کہا کہ علماء اصول کا یہ قول ”یہ رواوی منا کیر روایت کرتا ہے“ اس کی روایت کے ترک کو مقتضی نہیں جب تک کہ منا کیر حد کثرت کونہ پہنچ جائیں اور اس کو منکر الحدیث کہا جائے اور پھر اس کے مقابلہ میں ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ جیسا تشدد فی الرجال تعدل و توثیق کر رہا ہے، تو اس کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے گا، ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تمام رواۃ میں کلام کیا اور رجال کے بارے میں تشددا ختیار کیا تھا اور محمد شین نے تصریح کی ہے کہ اگر ایسے لوگ کسی کی توثیق کریں، تو مضبوط پکڑلو، البتہ ایسے لوگوں کی جرح زیادہ قابل اعتناء نہیں ہوا کرتی تا وقتیکہ کوئی معتدل فی الرجال ان کا ساتھ نہ دے۔ الغرض محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق بھی کوئی گئی ہے، الہذا یہ حسن الحدیث ہیں۔

دوسرے یہی روایت امام طبرانی نے بطريق سعید بن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ روایت کی ہے اور یہ سعید اگرچہ ضعیف ہیں؛ مگر تائید و تقویت میں کھپ جاتے ہیں۔ سعید بن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ”لیس بالقوى“ (یہ قوی نہیں) اور کہا کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (۱)

(۱) میزان الاعتدال : ۳۸۵/۲

لیس بالقوى کہنا ایک معمولی قسم کی جرح ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں حسن بن الصباح البر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نسائی ہی کے اس کہنے پر کہ یہ قوی نہیں ہیں فرمایا کہ: قلتُ: وَهُوَ تَلِيهِنْ هِينَ۔“ (۱)

الغرض سید بن عبد الجبار، بہت زیادہ ضعف کے شکار نہیں ہیں؛ بل کہ معمولی درجہ کے ضعیف ہیں؛ اسی لیے غالباً ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقات میں بھی داخل کر دیا ہے۔ بہر حال اس روایت سے محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو تقویت ملتی ہے؛ لہذا یہ طبرانی کا طریق بزار کی روایت کی تقویت کا موجب ہوگا؛ کیوں کہ دو طریق حسن ہوں تو یہ دونوں مل کر روایت کو درجہ صحت تک پہنچادیتے ہیں۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الروای میں فرماتے ہیں:

”الحادیث الحسن لذاته إذا رُویَ من غير وجه ولو وجهاً واحداً آخر قوی وارتفع من درجة الحسن الى درجة الصحيح.“

(حدیث حسن لذاته جب متعدد طرق سے مروی ہو، اگرچہ دوسرا ایک ہی طریق ہو، تو یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے اور درجہ حسن سے درجہ صحیح کو پہنچ جاتی ہے۔) (۲)

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ”نخبة الفكر“ میں فرماتے ہیں:

”فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لذَّاتِهِ وَبَكْثَرَةُ طَرَقِهِ يُصَحَّحُ.“

(اگر ضبط راوی تام نہ ہو، تو وہ حسن لذاته ہے اور کثرت طرق کی بنا پر

(۱) هدی الساری: مقدمہ فتح الباری: ۳۹۵

(۲) تدریب الروای: ۱ / ۵۷

اس پر صحت کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔)

یہاں اگرچہ دونوں طریق حسن نہ ہوں، ایک ضعیف ایک حسن ہوتا ہم اس سے اتنا اندازہ ہوا کہ جب دو حسن طریق مل کر درجہ صحیح کو پہنچ جاتی ہیں، تو حسن کے ساتھ ایک ضعیف طریق مل گیا تو قوت ضرور ہو گی جس سے احتجاج کرنے میں کوئی خرابی نہیں۔

چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”تدریب الراوی“ میں فرماتے ہیں:

”ولابدُعُ فِي الْاحْتِاجَاجِ بِحَدِيثٍ لِهِ طَرِيقَانِ، لَوْ اَنْفَرَدَ

كُلُّ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ حَجَةً كَمَا فِي الْمَرْسَلِ۔“

(اور کوئی بدعت نہیں ہے ایسی حدیث سے احتجاج کرنے میں جس کے دو طریق ایسے ہوں کہ اگر یہ الگ الگ ہو جائیں تو جھٹ نہ بن سکیں، جیسا کہ مرسل۔) (۱)

جب ایسی حدیث سے بھی احتجاج کیا جاسکتا ہے کہ جن کا ہر طریق منفرد الائق احتجاج نہیں تو جہاں ایک طریق خود ہی احتجاج کے قابل ہو اور پھر دوسرا طریق بھی اس میں قوت دے رہا ہو، تو کیوں کراس سے احتجاج درست نہ ہوگا؟ اور حسن روایت کا قابل احتجاج ہونا مخفی تو نہیں، تاہم ”إِتَّمَاماً لِلْفَائِدَةِ“ ہم محدثین میں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرتے ہیں، آپ نے نزہۃ النظر میں فرمایا کہ:

”وَهَذَا الْقَسْمُ مِنَ الْحَسْنِ لِذَاتِهِ مُشارِكٌ لِلصَّحِيفِ فِي

الْاحْتِاجَاجِ بِهِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ۔“

(اور یہ قسم حسن لذاتہ اس سے احتجاج کرنے کے بارے میں صحیح

(۱) تدریب الراوی : ۵۲/۱

کے مشارک ہے، اگرچہ صحیح سے (رتبہ میں) کم ہے۔^(۱)
الغرض روایت بزار قبل احتجاج ہے، لہذا اعتراض اول ساقط ہوا۔

دوسرے اعتراض کا جواب اول

دوسرے اعتراض کے متعلق اولاً یہ معروض ہے کہ یہ روایت احناف کے خلاف نہیں ہے؛ کیوں کہ احناف کے بھی تثبیث مسح مشروع ہے؛ البتہ دوسروں کے مسلک میں اور احناف کے مسلک میں فرق یہ ہے کہ احناف ایک ہی پانی سے تثبیث کو مشروع کہتے ہیں اور دوسرے حضرات ہر مرتبہ کے لیے جدید پانی لینے کو مشروع قرار دیتے ہیں اور روایت الباب اس تفصیل سے ساکت ہے، جس میں دونوں ہی احتمال ہیں اور جب اکثر روایات صحیح ایک ہی مرتبہ مسح پر دلالت کرتی ہیں، تو تثبیث کی روایات کو تثبیث بماء واحد پر محمول کرنے میں کوئی جدت اور بدعت نہیں اور اس مسئلہ کے مفصل دلائل کتب فقہ اور شروحات حدیث میں مذکور و محفوظ ہیں۔

صاحب ہدایہ نے ”ماء واحد“ سے تثبیث ہی پران روایات کو محمول کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا:

”والذی یُرَوِی مِن التَّشْبِیثِ مَحْمُولٌ عَلَیْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ“

وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة۔

(جو احادیث میں تثبیث مروری ہے یہ ایک ہی پانی سے تین دفعہ مسح پر محمول ہے اور یہ بات مشروع ہے اس قول کی بنا پر جو حسن بن زیادہ رحمي اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمي اللہ سے نقل کیا ہے۔)^(۲)

(۱) نزهة النظر : ۳۵

(۲) الهدایۃ : ۱/۶

اسی پر محقق ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدر میں، علامہ خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ نے کفایہ میں اور محقق بابری رحمۃ اللہ علیہ نے عنایہ میں لکھا کہ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین مرتبہ ایک ہی پانی سے مسح کرنا مسنون ہے اور درمختار میں بھی اس کو مندوب یا مسنون کہا ہے۔

ایک استدلال پر نظر

رقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں مسح میں ایک پانی سے تسلیث پر طبرانی کے طریق سے استدلال کرتے ہوئے اس مطلوب پر روایت کو صریح کہا ہے اور وہ طریق وہ ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا تھا، جس کے راوی سعید بن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس طریق کے الفاظ یہ ہیں:

”ثم مسح على رأسه ثلاثة، ومسح ظاهر أذنيه ومسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الرأس.“

(پھر آپ ﷺ نے اپنے سر پر تین مرتبہ مسح فرمایا اور سر کے بچے ہوئے پانی سے اپنے کانوں کے ظاہر پر مسح کیا اور اپنی گرد़وں کا اور اپنی داڑھی کے اندر وون کا مسح کیا۔)

مگر اس روایت کو تسلیث بماء واحد پر صریح قرار دینا خالی از نظر نہیں، کیوں کہ اس سے تو صرف اتنا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ سر کا مسح کیا اور پھر بچے ہوئے پانی سے کانوں اور گردُوں اور داڑھی کا مسح کیا۔ اس میں ایک ہی پانی سے سر کا مسح کرنے کی کوئی تصریح نہیں ہے؛ بل کہ اگر ”من فضل ماء الراس“ کو مسح راس سے متعلق کیا جائے، تو پھر مسح راس کا چار مرتبہ ہونا لازم آئے گا کہ آپ نے پہلے ایک مرتبہ مسح کیا، پھر بچے ہوئے پانی سے تین دفعہ سر کا مسح کیا؛ کیوں تقدیر

عبارت یوں ہو گی: ”ثُمَّ مسح على رأسه ثلثاً من فضل ماء الرأس“ توجب بچے ہوئے پانی سے تین مرتبہ مسح ہوا تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ پانی لے کر مسح فرمایا ہو گا، ورنہ ”فضل“ کا تحقق کیسے ہو گا؟

الغرض یہ طبرانی کے الفاظ بھی بزار کے الفاظ کی طرح مجہم ہیں اور ”من فضل“ کا تعلق مسح رأس سے نہیں ہے، ورنہ مقصود کے خلاف لازم آئے گا، لہذا اس کو صریح علی المطلوب کہنا غایتِ بعد میں ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

دوسرے اعتراض کا جواب ثانی

اس کے بعد ہم اصل بحث کی جانب آتے ہیں، دوسرے اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ احناف تین دفعہ مسح کے سنت ہونے کا توانکار کرتے ہیں، کیوں کہ اس پر اللہ کے نبی ﷺ سے مداومت ثابت نہیں ہے؛ لیکن جواز کے وہ قائل ہیں، چنانچہ صاحب بحر الرائق علامہ ابن حجیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواز ہی کے قول کوران ح قرار دیا ہے اور سعیت کی نفی دوسرے دلائل کی وجہ سے کرتے ہیں، لہذا جب احناف کے نزدیک اس کا محمل ثابت ہو گیا تو یہ حدیث احناف کے خلاف نہ رہی، جیسے نبی کریم ﷺ سے اکثری عمل پیشاب فرمانے کے بارے میں یہی ثابت ہے کہ بیٹھ کر کرتے تھے؛ اسی لیے بیٹھ کر پیشاب کرنا بالاتفاق سنت ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خلاف سنت ہے، حال آں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے بخاری کی ایک روایت سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہاں پر اکثری عمل کو لے کر پیشاب بیٹھ کر کرنے کو سنت قرار دینے کے باوجود علماء کو یہ طعنہ نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے بخاری کی حدیث کے خلاف کیا؛ کیوں کہ علمانے بخاری کی روایت کو مختلف محامل پر محمل کیا ہے۔

مثلاً بعض نے کہا کہ آپ کو کمر میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ بیٹھنہیں سکتے تھے؛ اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بعض نے یہ تاویل کی کہ یہ علاج آپ نے فرمایا تھا کہ کمر کے درد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مفید ہے۔ بعض نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو بیان جواز پر حمل کیا۔

دوسری نظیر اس کی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھونا ثابت ہے اور بعض روایات سے دو مرتبہ دھونا ثابت ہے؛ مگر بالاتفاق تین مرتبہ دھونا سنت ہے، تو یہ قول دوسری روایات کے خلاف اس لیے نہیں کہ وہ روایات جن سے ایک مرتبہ یاد و مرتبہ دھونے کا ثبوت ہوتا ہے، بیان جواز پر محمول ہیں۔

الغرض اس حمل و تاویل و توجیہ کے بعد مخالفت کا الزام نہیں دیا جاسکتا، اسی طرح یہاں تشییث کو جواز پر حمل کرنے کے بعد یہ روایت احناف کے خلاف نہیں رہی؛ بل کہ موافق ہو گئی۔ (۱)

(۱) قوله: جواز، قلت: وفي هذا خلاف بين مشائخنا،
 قال ابن نجيم المصري في شرح الكنز: (۲۳/۱) وإذا كان
 غير مسنون فهل يكره؟ فالمدكور في المحيط والبدائع
 أنه يكره، وفي الخلاصة: أنه بدعة، وقيل لا أساس به. وفي
 فتاوى قاضى خان: وعندنا لومسح ثلاث مرات بثلاث مياه
 لا يكره. ولكن لا يكون سنة ولا أدباً، وهو الأولى كما
 لا يخفى؛ إذ لا دليل على الكراهة انتهى ما فى شرح الكنز.
 وتعقبه العلامة ابن عابدين فى منحة الخالق ، فقال:

أقول قد يستدل عليها (إى الكراهة) بالحديث المارّ من قوله ﷺ : ”فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم“ لأن أئمتنا استدلوا على أنه مرّة واحدةً بالحديث المصرح فيه بها، وحملوا ما صرّح فيه بالثلاث على التشليث بماءٍ واحدٍ، كما يأتي، فوضوءه عليه السلام ليس فيه تشليث المسح بمياه عندنا ، فترجع إلى الإشارة في قوله: ”فمن زاد على هذا الخ“ إذ لا شك أن هذا زيادة بنائاً على ما ثبت عندنا من وضوءه حَلَّى لِنَفْعِي وَسَلَمَ ، تأمل. وفي شرح المنية الكبير بعد حكاية الأقوال مانصه: والأوجه أنه يكره، قال في الكافي: التشليث يعني بمياه يقربه من الغسل، ولو بدلته به كره، وكذا إذا قربه منه انتهى.“

قلت: وفيما قاله العلامة نظر ، لأن قوله عليه السلام: ”فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم“ محمول على الاعتقاد عندنا كما صرّح به في الهدایة وغيرها وليس المراد به نفس العمل ، ولذا صرّح في البحر بأن الزيادة على الثلاث إن كان لطمانية القلب لا بأس به ، فمعنى قوله ﷺ : ”فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث بأن لم ير الثلاث سنة“ فقد تعدى وظلم ، لأن من لم ير سنة رسول الله حَلَّى لِنَفْعِي وَسَلَمَ سنة فقد جفا وابتدع ، فيتحققه الوعيد. وأما نفس العمل بأن زاد على

الثلاث أى في غسل الأعضاء أو نقص عن الثلاث ورأى أن السنة هو الثالث لا يلحقه الوعيد؛ لأن الزيادة على الثالث من باب الموضوع على الموضوع؛ إذا نوى به وأنه نور على نور على لسان رسول الله ﷺ ، وكذا جعل رسول الله ﷺ الموضوع مرتين سبباً لتضييف الثواب في حديث أنس رواه ابن السكن في صحيحه كما في التلخيص : (٣٠/١) حيث قال رسول الله ﷺ بعد غسل وجهه ويديه مرتين : هذا وضوء من يضاعف الله له الأجرا .

فالحاصل أن الحديث محمول على الاعتقاد لا على نفس العمل، وقد حرق هذا المعنى في البدائع (٢٢:١) وصححه . ولقد أقرّ بهذا هو في رد المحتار، فالتشليث في المسح بمياه لا يلحقه الوعيد، كما إن زاد على الثالث في غسل الأعضاء، وأما إن كان على اعتقاد أن تشليث المسح هو السنة ، والتوحيد خلافه ، فلاشك في كراحته عندنا ، لما ثبت عندنا من وضوء هـ ﷺ . وكذا إن جعل تشليث المسح عادةً يكره لما فيه من ترك السنة ، وأما الترك أحياناً لاسيما لغرض صحيح كحصول الطمأنينة وغيره ليس بمكررٍ كما لا يخفى على من له أدنى شغل من كتب الفقه . وهذا هو الحق الذي قاله

العلامة ابن نجيم المصري ، فافهم . والله أعلم بالصواب .

دوسراً اعتراض کا جواب ثالث

ثالثاً اس اعتراض کا جواب وہ ہے جو مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں دیا ہے؛ مگر چوں کہ یہ جواب مخفی علمی اور فنی ہے؛ نیز مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی مختصر و مجمل طریقہ پر یہ جواب دیا ہے، اور اس کا بعینہ نقل کردیا تھا مخل فہم ہے؛ اس لیے ہم اس کو پوری وضاحت کے ساتھ اور ہر اجمال کی تفصیل کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کے اضافے سے پیش کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو۔

والله الموفق

اب لیحیہ پہلے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھیے، پھر ہماری تشریع دیکھیے، علامہ فرماتے ہیں:

”أَنَّ الْحَدِيثَ فِي سُنْدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَبْرٍ عَنْ الْبَزَارِ،
وَهُوَ مُخْتَلِفٌ فِي تَوْثِيقِهِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَارِ عَنْ
الطَّبَرَانِيِّ، وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَالرَّاوِيُّونَ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ إِذَا
تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ يَنَافِي رِوَايَةَ الثَّقَافَاتِ يَتَرَجَّحُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
عَلَى رِوَايَتِهِ، وَإِذَا تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُذْكُرْهُ غَيْرُهُ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ،
لِكُونِهِ مِنْ رِجَالِ الْحَسْنِ وَرَاوِيِ الْحَسْنِ وَالصَّحِيفَ يُقْبَلُ
تَفْرُدُهُ إِذَا لَمْ يَنَافِ رِوَايَةُ غَيْرِهِ، فَذِكْرُ مَسْحِ ظَاهِرِ الرَّقْبَةِ
لَا يَنَافِي رِوَايَةَ الثَّقَافَاتِ، بَلْ هُوَ زِيَادَهُ سَقْطٌ عَنْهَا غَيْرُهُ
فُقْبَلُ، وَذِكْرُ الشَّلِيلِ وَنَحْوِهِ يَنَافِي رِوَايَةَ الثَّقَافَاتِ الَّذِينَ

صرحوا بكون مسح الرأس مرةً واحدةً، فِيْرَجُّ روايْتُهُم
علی هذه فافهم. ” (۱)

تفصیل و تصریح اس کی یہ ہے کہ اس وائل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے دو طریق ہیں، جیسا کہ اوپر بھی معلوم ہو چکا، ایک بزار کا اور دوسرے طبرانی کا۔ بزار کے طریق میں محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں اور یہ مختلف فیہ ہیں، اور طبرانی کے طریق میں سعید بن عبدالجبار ہیں جو کہ مختلف فیہ یا ضعیف ہیں، ان دونوں راویوں نے تثبیث مسح کا ذکر کیا ہے، جب کہ دوسرے ثقات نے تصریح کی ہے کہ مسح رأس ایک ہی مرتبہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محمد بن حجر اور سعید رحمۃ اللہ علیہ نے مسح رأس کے عدد بیان کرنے میں دوسرے ثقة حضرات کی مخالفت کی ہے اور مسح رقبہ کے سلسلے میں ان دونوں نے دوسرے ثقة حضرات کی مخالفت نہیں کی ہے؛ بل کہ ثقات نے جس چیز کو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو ان دونوں نے بیان کیا ہے جو کہ مخالفت نہیں؛ بل کہ زیادت ہے۔

جب یہ بات مہد ہوئی کہ محمد بن حجر اور سعید رحمۃ اللہ علیہ نے تثبیث کے ذکر کرنے میں تو ثقات کی مخالفت کی ہے؛ مگر مسح رقبہ کا ذکر انہوں نے علی سبیل الزیادت کیا ہے، نہ کہ بطور مخالفت، تواب ذرا فتنی بحث بھی ملاحظہ فرمائیے جس سے اعتراض نہ کو رک جواب نکل آئے گا۔

زیادتِ ثقة کی فتنی بحث

تفریق ثقة یا زیادتی ثقة کے بارے میں محدثین کے یہاں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ وہ زیادتی اگر دوسرے اوثق یا ثقات کی روایت کے منافی و مخالف ہو کہ اس کو قبول کرنے سے ثقات کی روایت کا ترک لازم آتا ہو تو پھر اس زیادتی کو رد کر دیا جائے گا

(۱) إعلاء السنن : ۱ / ۷۰

اور اس زیادتی کا نام اصول و فن حدیث میں شاذ ہے اور اگر یہ زیادتی اوثق یا ثقہ کی روایت کے منافی نہیں ہے؛ بل کہ دونوں روایات کو جمع کیا جاسکتا ہے، تو پھر اس زیادتی کو قبول کر لیا جائے گا اور ثقہ میں صحیح و حسن دونوں قسم کی حدیث کا راوی داخل ہیں۔ اس قاعدہ اور اصل کے لیے ہم حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے اس سلسلے میں بحث کرتے ہوئے ”شرح النخبة“ میں تحریر فرمایا ہے:

”وزیادة روایهما ای الصَّحِّحُ وَالْحَسْنُ مَقْبُولَةٌ مَالِمٌ
تکن منافی لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك
الزيادة ، فإن الزيادة إما أن تكون لاتفاق بينهما وبين
رواية من لم يذكرها ، فهذه تُقبل مطلقاً ؛ لأنها في حكم
الحديث المستقل الذي تفرد به الشقة ، ولا يرويه عن
شيخه غيره . وإنما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها
رد الرواية الأخرى ، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها
وبين معارضتها ، فيُقبلُ الراجحُ وَيُرَدُّ المرجوح .“

(راوی صحیح حسن کی زیادتی مقبول ہے جب کہ وہ زیادتی ان اوثق لوگوں کی روایت کے منافی نہ ہو جنہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا؛ کیوں کہ زیادتی یا تو منافی نہیں ہو گی اس کی روایت کے جس نے اس کو ذکر نہیں کیا، پس یہ مطلقاً مقبول ہو گی؛ کیوں کہ یہ مستقل حدیث کے حکم میں ہے جس میں ثقہ نے تفرد کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے شیخ سے کوئی اس کو بیان نہیں کرتا ہے اور یا وہ زیادتی منافی ہو گی اس طرح کہ

اس کے قبول کرنے سے دوسری روایت کا رد کرنا لازم آئے، پس یہ وہ زیادتی ہے جس میں اس کے معارض کے ساتھ ترجیح کا مسئلہ واقع ہوتا ہے، پس راجح کو مقبول اور مرجوح کو مردود قرار دیا جاتا ہے۔) (۱)

اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب شرح تقریب میں نے بیان کیا ہے۔

اب اصل مسئلہ مجوٹ عنہا کو ملاحظہ فرمایا جائے کہ محمد بن حجر اور سعید بن عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہما کو کہ مختلف فیہ راوی ہیں اور حسن الحدیث ہیں یا سعید جو ضعیف ہیں؛ مگر محمد بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت انہیں حاصل ہے، یہ دونوں تثییث مسح میں چوں کہ دوسرے ثقافت کی مخالفت کر رہے ہیں؛ اس لیے تثییث کا ذکر اور یہ تکڑا شاذ غیر مقبول ہے اور مسح رقبہ ایک ایسی زیادتی ہے، جو مخالف ومنافی نہیں؛ بل کہ یہ مغض ایک زیادتی ہے؛ اس لیے یہ مقبول ہے۔ لہذا احناف نے تثییث مسح راس کو رد کر دیا اور قبول نہیں کیا اور مسح رقبہ کو قبول کر لیا۔

انتباہ

علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدری: (۱/۲۳) میں اس واکل بن حجر رضی اللہ علیہ کی روایت کو ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے اور متون حفظیہ کے بعض متربیین نے بھی ان کے حوالے سے ایسا ہی نقل کر دیا ہے؛ حال آں کہ یہ بزار کی روایت ہے، ترمذی کی نہیں؛ مگر اغلب یہ ہے کہ یہ ناسخین و کتابیین کی غلطی ہے کیوں کہ خود محقق بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد تصریح کی ہے کہ اس طریق میں محمد بن حجر بن عبدالجبار ہیں حالاں کہ محمد بن حجر ترمذی کے رجال میں سے نہیں ہیں اور اس کو محقق موصوف جانتے

(۱) شرح النخبة: ۳۷

ہیں، پھر وہ اس کو ترمذی کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ ناسخین کی غلطی ہے نہ کہ علامہ موصوف کی، جیسا کہ بعض نے علامہ کی غلطی سمجھ کر ان کی طرف وہم کی نسبت کر دی ہے۔ اسی لیے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں پر تعجب کیا ہے جنہوں نے وہم کی نسبت علامہ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے۔

علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے سعایہ میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے رسالہ ”تحفة الطلبه فی مسح الرقبة“ لکھا اور اس میں اس روایت کو فتح القدیر کے حوالہ سے ترمذی کی جانب منسوب کر دیا تو بعض لوگوں نے اس پر نکیر و اعتراض کیا کہ ترمذی میں تؤیید روایت نہیں ہے، تو علامہ نے جواب میں فرمایا کہ ناقل پر صحیح حوالہ کہ ذمہ داری ہے، اور ہم نے فتح القدیر کا حوالہ دیدیا ہے اور اس میں یہ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس پر تنبہ نہ ہوا۔

تیسری دلیل

﴿ عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه
وُقِيَ الْغُلَّ يوم القيمة ﴾ (۱)

(حضرت موسی بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص سر کے ساتھ اپنی گدی کا مسح کرے وہ قیامت کے دن (گردن میں) طوق پڑنے سے محفوظ رہے گا۔)

قفہ کے معنی

اس حدیث میں لفظ ”قفہ“ آیا ہے جس کے معنی گدی کے ہیں جو گردن کا ایک حصہ ہے اور رقبہ اور قفا کے معنی ایک ہی ہیں۔ چنانچہ منجد میں ہے: ”الرقبة العنق أو

(۱) رواہ أبو عبید فی کتاب الطہور، کذا فی التلخیص : ۹۲/۱

موخرہ“ اور دوسرے مقام پر اسی میں ہے کہ: ”القفاو القفاء موخر العنق“ اور ”المعجم الوسيط“ میں ہے ”القفا موخر العنق“ اور قاموس میں ہے ”الرقبة العنق أو اصل موخره“. (۱)

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ قفا اور رقبہ کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی گردان کا پچھلا حصہ۔ پس اس روایت سے مسح رقبہ کا پسندیدہ و مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے۔

یہ مرسل حکمی ہے

یہ مذکورہ قول حضرت موسی بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو کہ تابعین میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات کہ گردان کا مسح کرنا قیامت میں غل (بیڑی) سے حفاظت کا سبب ہے قیاس اور رائے سے نہیں کہی جاسکتی؛ بل کہ اس کا مستند کوئی روایت ہی ہوگی، جو انہوں نے کسی صحابی سے سنی ہوگی اور پھر صحابی بھی یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے؛ بل کہ انہوں نے بھی اس کو رسول اللہ حلی لۃ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔

علامہ ابن حجر اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الرفعہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے:

”قال (ای ابن الرفعہ) ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه.“

(ابن الرفعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ)مسح رقبہ(کے استحباب کا مأخذ خبر یا اثر ہی ہے؛ کیوں کہ اس میں قیاس کو مجال نہیں۔) (۲)

الغرض یہ مقولہ چوں کہ از قبل احکام غیر قیاسیہ ہے، اس لیے قواعد کے اعتبار

(۱) منجد: ۲۷۳، ومنجد: ۲۷۲، المعجم الوسيط: ۵۲، قاموس: ۱/۵۷

(۲) التلخیص الحبیر: ۱/۹۲، نیل الأوطار: ۱/۱۵۹

سے مرسل حکمی قرار پاتا ہے جو ان جیسے معاملات اور احکام میں مرفوع کا درجہ اور حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا:

” قلتُ: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا وَإِنْ كَانَ مُوقَفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لَأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قَبْلِ الرَّأْيِ فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ ”.

(میں کہتا ہوں کہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ (یہ روایت) اگرچہ موقوف ہے؛ لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے؛ کیوں کہ یہ رائے اور قیاس سے نہیں کہا جاسکتا، پس اس بنا پر یہ مرسل ہے۔) (۱)

پس یہ حکماً مرسل ہے اور مرسل جمہور علماء و آئمہ کے نزدیک جحت ہے، سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرسل کو جب کہ وہ دوسرے مرفوعات و مسنفات سے موید ہو، مقبول اور جحت مانتے ہیں؛ بل کہ مرسل اگر دوسرے مرسل یا ضعیف روایت سے بھی موید ہو تب بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جحت مانتے ہیں، جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ شرح مسلم میں لکھا ہے۔ (۲)

تحقیق رجال

اب رہایہ کہ اس روایت کی سند کس درجہ اور مرتبہ کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا تلخیص میں اس پر سکوت کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رجال ان کے نزدیک بھی ثقہ اور لائق احتجاج ہیں؛ کیوں کہ حافظ کی عادت یہ ہے کہ وہ سکوت وہاں کرتے ہیں جہاں

(۱) التلخیص الحبیر : ۹۲/۱

(۲) مقدمہ شرح مسلم : ۱۶

رواية صحیح یا حسن ہو، ورنہ اس پر سکوت نہیں کرتے، کما لا یخفی علی اولی النھی۔ اس روایت کی سند جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے یہ ہے:

”روی أبو عبید القاسم بن سلام عن عبد الرحمن بن مهدی عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة الخ.“

(۱) موئی بن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت سے انہوں نے سماعت حدیث کی ہے، ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیس بہ بآس، واقدی نے کہا کہ ثقہ کثیر الحدیث تھے، عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ثقہ تابعی تھے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں فرمایا:

ثقة جليل من الثالثة ويقال إنه ولد في عهد النبي حملی لفته عليه وسلم“.

(یعنی جلیل القدر ثقہ ہیں، محدثین کے تیسرے طبقہ میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم حملی لفۃ علیہ وسلم کے عہدو زمانہ میں پیدا ہوئے۔) (۱)

(۲) قاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کو فی مشہور ثقہ ہیں، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اہل کوفہ کے تیسرے طبقے میں داخل کیا ہے اور ثقہ کہا ہے؛ نیز یحییٰ بن معین اور عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ثقہ ہیں اور سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مسیر سے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کو پایا ہے ان میں سب سے زیادہ حدیث کے بارے میں محتاط یا اشتبہ کون تھے؟ تو کہا کہ قاسم بن

(۱) تهذیب التهذیب: ۳۱۲/۱۰، تقریب: ۲۵۷

عبد الرحمن اور عمر و بن دینار رحمہمَا اللہُ

(۳) المسعودی: یہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عتبہ بن عبد اللہ بن مسعود رحمہمَا اللہُ کو فی ہیں، ان سے بخاری اور اصحاب سنن نے روایت کی ہے، ان کو نسائی نے لاباس بے کہا ہے اور ابن معین رحمہمَا اللہُ نے ثقہ کہا ہے، امام ابو داؤد رحمہمَا اللہُ نے شعبہ سے نقل کیا کہ صدقہ ہیں اور مسعود رحمہمَا اللہُ نے کہا کہ میں مسعودی سے زیادہ حضرت ابن مسعود رحمہمَا اللہُ کے علم سے واقفیت رکھنے والے کو نہیں جانتا، علی بن المدینی شیخ امام بخاری رحمہمَا اللہُ فرماتے ہیں کہ مسعودی ثقہ ہیں؛ مگر عاصم اور سلمہ بن کہمیل سے جو روایت کرتے ہیں، اس میں غلطی کرتے ہیں۔ (۲)

البہت آخر عمر میں انہیں اختلاط و تغیر کی شکایت ہو گئی تھی، چنان چہ حافظ نے فرمایا کہ: صدقہ ہیں، مرنے سے قبل انہیں اختلاط ہو گیا تھا۔ (۳)

مگر یہ ثقاہت میں قادر نہیں، کیوں کہ ایسا تو بڑے بڑے ائمہ کو بھی ہوا ہے اور اس سے بہت کم بچتے ہیں، ہاں البہت یہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ روایت الباب مسعودی سے ان کے شاگرد عبد الرحمن بن مہدی رحمہمَا اللہُ نقل کرتے ہیں اور تہذیب التہذیب میں عجلی و ابن سعد رحمہمَا اللہُ وغیرہ سے تغیر و اختلاط کی شکایت نقل کرنے کے بعد ابن نعیر سے نقل کیا ہے کہ ابن مہدی اور یزید بن ہارون رحمہمَا اللہُ نے ان سے مختلط احادیث سنی ہیں۔ (۴)

اس لیے روایت الbab ضعف کی ضرب سے بچ نہیں سکتی؛ مگر تہذیب الکمال

(۱) تہذیب الکمال: ۳۸۱/۲

(۲) میزان: ۲/۱۰۰، تہذیب الکمال: ۷/۲۲۶

(۳) تقریب: ۵۳۱

(۴) تہذیب التہذیب: ۶/۱۹۱

وغيره میں ہے کہ قاسم سے انہوں نے جور و ایت کی ہے، اس کی صحیحگی کی گئی ہے۔ (۱) اور مسعودی کی یہ روایت قاسم ہی سے ہے؛ الہذا یہ روایت بھی کم از کم حسن تو ہو جائے گی، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص میں اس روایت پر سکوت کیا ہے جو روایت کے صحبت یا حسن پر دال ہے۔ (واللہ اعلم)

(۲) عبد الرحمن بن مهدی رحمۃ اللہ علیہ: یہ مشہور و مسلم امام حدیث ہیں، جیسا کہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا اور اصحاب صحاب کے رجال میں سے ہیں، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ علم الناس تھے اور کہا کہ اگر مجھ سے رکن و مقام برائیم کے درمیان حلف لیا جائے تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں نے عبد الرحمن بن مهدی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عالم بالحدیث نہیں دیکھا۔ اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام ثقہ ہیں۔ ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اثبت ہیں اور وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اتقن ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حفاظ متقنین میں سے ہیں اور سوائے ثقات کے دوسرے لوگوں سے روایت کا انکار کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ان کی نظر نہیں دیکھی۔ (۲)

(۳) ابو عبید: یہ قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مشہور و معروف محدث تھے، ادیب و مصنف اور مختلف علوم کے ماہر تھے، اسحاق بن راہو یہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ علم و سمجھو والے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استاذ کے لفظ سے یاد کیا ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ ثقہ ہیں، انہی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ابو عبید سے حدیث لکھی جاسکتی

(۱) تهذیب الکمال: ۷/۲۲۲، تهذیب التهذیب: ۱۹۱/۶

(۲) تهذیب الکمال: ۷/۳۳۸، تهذیب التهذیب: ۲۵۲/۶

ہے؟ تو مسکرا کر فرمایا کہ کیا ابو عبید کے بارے میں مجھ جیسے سے پوچھا جائے گا، جب کہ ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں معلوم کیا گیا، تو کہا کہ ثقہ مامون ہیں۔^(۱)

الغرض اس کے تمام روایۃ قابل احتجاج ہیں، ضعف ہے، تو وہ صرف مسعودی کے اختلاط و سئی حفظ کا ہے جس کا انجبار شواہد سے ہو سکتا ہے، پھر یہ باب فضائل کا ہے جس میں یہ مضر نہیں جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

حاصل بحث

یہ ہے کہ مسح رقبہ کے سلسلے میں متعدد روایات ہیں، جو قابل احتجاج ہیں، ان کو موضوع کہنا تجاوز عن الحد اور مجاز فہ ہے؛ کیوں کہ بعد التحقیق ان پیش کردہ تین روایات کا حسن ہونا ثابت ہوا جن سے استدلال کرنا بلا نکیر جائز ہے اور اگر ان روایات کو حسن نہ بھی مانیں؛ بل کہ ضعیف ہی کہیں، تب بھی تین روایات مل کر درجہ حسن لغیرہ کو پہنچ جاتی ہیں، پھر اس سے بھی قطع نظر ضعیف باب فضائل میں مقبول ہے، پھر اس سے استدلال کیوں کر درست نہ ہوگا؟

صاحب عون المعبود کا رد

چنانچہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس باب کی روایات ضعیف ہیں؛ بل کہ بعض توسب کو موضوع بھی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ صاحب عون المعبود نے لکھا کہ:

” ما روی في مسح الرقبة كلها ضعاف ، كما صرخ
غير واحد من العلماء ، فلا يجوز الاحتجاج بها ”.

(۱) دیکھو: التذكرة للذهبي : ۲/۳۱، تهذیب الکمال: ۲۳/۳۵

(مسح الرقبة کے سلسلے میں جتنی روایات ہیں وہ سب ضعیف ہیں، جیسا کہ بہت سے علماء نے تصریح کی ہے؛ لہذا ان سے احتیاج جائز نہیں۔) (۱)

میں کہتا ہوں کہ اس میں چند وجہ سے کلام ہے:

اولاً: تو اس لیے کہ تمام روایات پر ضعف کا حکم لگانا صحیح نہیں، کیوں کہ بعض روایات کا حسن ہونا اور معلوم ہو گیا۔

ثانیاً: اس لیے کہ اگر یہ سب روایات ضعیف بھی ہوں تو پھر بھی متعدد روایات مل کر درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں۔ لہذا یہ سب مل کر ضعیف نہ رہیں گی؛ بل کہ حسن لغیرہ ہو جائیں گی۔ پس صاحب عون المعبد کا یہ کہنا کہ ان سے استدلال درست نہیں، غلط ہے۔

ثالثاً: اس لیے کہ ضعیف اکثر علماء کے نزد یہ فضائل کے باب میں مقبول ہے تو پھر اس ضعیف روایت سے مسح رقبہ کے استحباب پر استدلال کے درست نہ ہونے کا قول کیوں کر صحیح ہو گا۔

فضائل میں ضعیف مقبول ہے

علماء نے لکھا ہے کہ فضائل اعمال اور مواعظ و قصص اور ترغیب و ترهیب میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے اور اس کے ضعف کے بیان کرنے میں تساؤل سے بھی کام لیا جاسکتا ہے؛ لیکن عقائد اور حلال و حرام کے احکام میں ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں اور نہ ضعیف حدیث کے بیان میں تساؤل جائز ہے۔

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الکفاية“ میں ایک فصل بعنوان: ”باب

التشديد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال“ قائم کی ہے اور اس میں متعدد حضرات محدثین سے احادیث فضائل و ترغیب میں تسابیل کا جواز نقل کیا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا:

”لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، فلا بأس بما سوا ذلك من المشائخ.“ (۱)
اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”إذا روينا في الحلال والحرام والسنن والأحكام شدّدنا وإذا روينا في فضائل الأعمال وما لا يضع حکماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.“ (۲)

اور ابو زکریا العسبری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا:

”الخبر إذا وَرَدَ لَمْ يُحَرِّمْ حَلَالًا وَلَمْ يُجْعَلْ حَرَامًا وَلَمْ يُوْجِبْ حَكْمًا وَكَانَ فِي تَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ أَوْ تَشْدِيدٍ وَتَرْخِيصٍ وَجَبَ الْإِغْمَاضُ عَنْهُ وَالتَّسَاهُلُ فِي رِوَايَتِهِ.“ (۳)

علامہ ابن الصلاح اور انہی کی اقتداء میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التسهيل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الحديث الضعيف من غير اهتمام ببيان ضعفه فيما سوى صفات

(۱) الكفاية: ۱۳۳

(۲) الكفاية: ۱۳۳

(۳) الكفاية: ۱۳۳

الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما
وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر
فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام
والعقائد، ومِمَّن روينا عنه التنصيص على التساهل في
نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل“.^(١)

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے القول المسدود میں فرمایا:

” وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم
قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا وإذا روينا في
الفضائل ونحوها تساهلنا.“^(٢)

فقہاء حفیہ کے نزدیک بھی یہی قول غالباً راجح ہے؛ کیوں کہ انھوں نے اسی کا
ذکر کیا ہے۔ علامہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں فرمایا:

” شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه
وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنیة ذلك
ال الحديث“.^(٣)

اس عبارت میں اگرچہ عمل بالضعف کے شرائط کا بیان مقصود ہے، تاہم اس
عمل بالضعف کا جواز مفہوم ہوتا ہے۔

ضعف پر عمل کے شرائط

بہر حال جمہور کے نزدیک حدیث ضعیف فضائل و ترغیب و ترهیب میں معتبر

(١) مقدمة ابن الصلاح: ٢٠٠ واللفظ له، إرشاد الطالب: ١/٢٠٠

(٢) القول المسدود : ١١-١٢

(٣) الدر المختار مع الشامي: ١/١٢٨

ہے، یعنی اس پر عمل جائز ہے، لیکن اس کے لیے علما نے چند شرائط بیان کیے ہیں:

(۱) وہ حدیث شدیداً الضعف نہ ہو۔

(۲) کسی اصل عام کے تحت مندرج ہو۔

(۳) اسکی سنیت کا اعتقاد نہ رکھا جائے۔

ان شرائط کا ذکر متعدد حضرات محدثین و فقہاء نے کیا ہے۔ (۱)

ان کی تفصیل یہ ہے:

(۱) حدیث شدیداً الضعف نہ ہو، یعنی اس کے روایہ میں کذاب و متهم بالکذب یا فاسق روای نہ ہو، پس اگر روایوں میں کوئی روای کذاب ہے یا متهم بالکذب ہے یا فاسق ہے تو اس کی حدیث فضائل میں بھی معتبر اور قابل قبول نہ ہوگی، یعنی اس پر عمل جائز نہ ہوگا۔

(۲) اصل عام کے تحت داخل ہو، یعنی اس میں کوئی نئی بات بیان نہ کی گئی ہو جیسے کوئی نوع قسم کی نماز یا کوئی مقدار وغیرہ رکعات کی یا کسی اور چیز کی بیان نہ کی گئی ہو، بلکہ جو بات پہلے سے کسی نص یا جماعت سے ثابت ہو اس کی کوئی فرع اس حدیث میں ہوتب وہ قابل عمل ہوگی۔ (۲)

(۳) اس کی سنیت کا اعتقاد نہ رکھا جائے؛ کیوں کہ جب حدیث صحیح نہیں ہے، تو حضور ﷺ کی طرف اس کو منسوب کرنا درست نہ ہوگا؛ لہذا سنت ہونے کا اعتقاد درست نہ ہوگا؛ بلکہ صرف احتیاط کی نیت سے عمل کرنا چاہیے۔

(۱) فتح المغیث: ۱/۲۸۹، توجیہ النظر: ۲۵۳، تدریب: ۱/۲۹۸، در مختار مع رد

المختار: ۱/۲۸، مقدمہ إعلاء السنن: ۱/۵۸، هامش الاعتصام: ۱/۲۲۸

(۲) فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۸/۶۵-۶۶

اب اس مسئلہ مجوہ عنہا کے سلسلہ کی روایات پر نظر ڈالیے کہ مذکورہ روایات میں سے کوئی ایسی نہیں، جو ضعف شدید کاشکار ہو؛ کیوں کہ ضعف شدید یہ ہے کہ اس روایت کا کوئی راوی متهم بالکذب والوضع ہوا اور لیث جن کو ضعیف گردانا جاتا ہے، ایسی ہی طریق بزار میں محمد بن حمیر اور طبرانی رحمہما اللہ عزیز میں سعید بن عبدالجبار جن پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے کسی کے نزدیک بھی کذاب و وضع نہیں؛ لہذا ان کی روایات کو ضعیف مان لیں تب بھی یہ ضعف شدید کاشکار نہیں؛ لہذا شرط اول پائی گئی۔

اسی طرح مسح رقبہ جوان روایات سے ثابت ہے حکم عام واصل عام میں داخل ہے۔ وہ اس طرح کہ احادیث صحیحہ سے اسباغ و ابلاغ فی الوضوء کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ لہذا مسح رقبہ بھی مسح رأس میں اسباغ و ابلاغ کے تحت آجائے گا۔

اسباغ فی الوضوء

بخاری، مسلم وغیرہ کتب احادیث میں اسباغ فی الوضوء کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں، اسباغ کا مطلب یہ ہے کہ وضوء کو پورے پورے طریقہ پر کرے، علماء نے اسباغ کی مختلف صورتیں ذکر کی ہیں۔

(۱) تمام واجبات و سنن و مستحبات و مکملات کے ساتھ وضو کرنا۔ (۱)

(۲) اعضاء کے وہ حدود جن کا وضو کیا جاتا ہے، ان سے تجاوز کرنا۔ (۲)

(۳) اطالہ غرہ و تحجیل کرنا، یعنی منه اور ہاتھ پیر کا مخصوص حدود سے زیادہ دھونا، جیسا کہ بخاری و مسلم سے ثابت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عزیز علیہ السلام کا عمل بھی مسلم میں ہے۔

(۱) المرقاۃ: ۲/۱۰۵

(۲) المرقات عن الطیبی: ۲/۱۹

(۴) بعد الوضوء ایک چلوپانی لے کر پیشانی پر سے بہانا جیسا کہ ابو داؤد میں ابن عباس رض کی حدیث حضرت علی صلی اللہ علیہ وسَّلَمَ سے ثابت ہے۔

(۵) چلو میں پانی لے کر سر کے اوپر سے بہانا جیسا کہ طبرانی، بزار وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔^(۱)

الغرض اسباغ فی الوضوکی مختلف صورتیں ہیں۔ ان تمام اقوال و توجیہات کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود اس سے وضوء کے پانی کو حتی الامکان جسد و بدن کو پہنچانا ہے تاکہ اس کی برکت سے وہ اعضاء و حفص بدن بھی قیامت کے دن روشن ہو جائیں۔

چنانچہ مسلم میں رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سے حضرت ابو ہریرہ رض روایت کرتے ہیں:

”تبلغ الحليمة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.“

(جہاں تک وضوء کا پانی مومن (کے جسم کو) پہنچ گا، وہاں تک چمک یا زینت بھی اس کو پہنچ گی۔)^(۲)

پس مسح رقبہ بھی اس اصل عظیم کے تحت داخل ہو کر مستحب قرار پائے گا، جیسا کہ ظاہر ہے۔

رهی تیسری شرط کہ اس سے ثابت شدہ امر کو باعتقاد سنت نہ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو حدیث سے ثابت نہ مانا جائے؛ بل کہ احتیاط کی نیت سے کیا جائے، سوہمیں اس التزام میں کوئی چیز مانع نہ تھی؛ مگر کیا کریں کہ اولاً یہ روایت ضعیف نہیں، ثانیاً کئی روایات مل کر درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں؛ اس لیے اس شرط کو نظر انداز کرنا

(۱) معارف السنن : ۱/۲۰۰

(۲) کذا في المشكاة

پڑتا ہے؛ کیوں کہ علماء کے بیہاں جو یہ فصلہ ہے کہ فضائل میں ضعیف مقبول ہے، تو اس سے مراد وہ ضعیف روایت ہے، جو صرف تنہا ہوا اور اگر چند ضعیف احادیث مل جائیں تو یہ پھر ضعیف ہی نہیں رہتیں؛ بل کہ حسن ہو جاتی ہے۔

چنانچہ حضرت شیخ محمد عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں:

”وما اشتهر أن الحديث الضعيف معتبر في فضائل الأعمال لا في غيرها المراد مفرداته لا مجموعها؛ لأنه داخل في الحسن لا في الضعف.“ (۱)

(یعنی جو مشہور ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں معتبر ہے، اس کے علاوہ میں نہیں، تو اس سے مراد تنہا ضعیف روایات ہیں، نہ کہ ان سب کا مجموعہ، کیوں کہ یہ مجموعہ حسن میں داخل ہے نہ کہ ضعیف میں۔)

الغرض مسح رقبہ کا ثبوت حسن روایات سے ہے، خواہ (علی الترقی) حسن لذاتہ کہو، خواہ (علی التزل) حسن لغیرہ کہو، ہر حال میں مدعی ثابت ہے، اسی لیے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ کی ہر حدیث کو تنہانا قابل احتجاج قرار دینے کے باوجود سب کے مجموعہ سے احتجاج کو صحیح اور ان روایات کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔

مسح رقبہ پر ایک اور استدلال

مسح رقبہ کے استحباب پر ایک اور استدلال بھی کیا جاسکتا ہے، وہ یہ کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت پیش کی ہے کہ وضوء کرتے وقت کلی کرتے ہوئے یہ

(۱) مقدمہ المشکوٰۃ

دعا پڑھے، ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعاء پڑھے وغیرہ، اسی میں ہے کہ جب گردن کا مسح کرے تو یہ پڑھے:

”اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقْبَتِي مِنَ النَّارِ۔“

اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مختلف طرق سے روایت کیا ہے اور اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان طرق مختلفہ کی بنابر اس کی تحسین کی ہے؛ کیوں کہ حدیث ضعیف تعدد طرق سے حسن کے مرتبہ کوپنج جاتی ہے؛ جب کہ یہ ضعف سوء حافظ یا ارسال یا تدلیس یا جہالت حال کی وجہ سے ہو اور اگر ضعف فشق راوی یا کذب راوی کی وجہ سے ہے، تو یہ تعدد موثر نہیں اور نہ ہی یہ ضعیف روایت درجہ حسن کی طرف ارتقاء کرے گی۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے اس روایت پر عمل سے یہی ظاہر ہے کہ یہ روایت اس قسم اخیر سے نہیں ہے، یعنی اس کا ضعف فشق یا کذب راوی کی وجہ سے نہیں ہے۔

راقم کہتا ہے کہ اس بنا پر ان احادیث سے بھی مسح رقبہ کے استحباب کا ثبوت ہوتا ہے؛ مگر خود مجھے اس میں نظر و تأمل ہے۔ وجہ تأمل یہ ہے کہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے تمام طرق مبتهم بالوضع سے خالی نہیں۔^(۱)

لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ یہ ضعف تعدد طرق سے مخبر نہیں ہو سکتا (واللہ اعلم) جیسا کہ ابھی مذکور ہوا کہ وہ ضعف جو کذب راوی کی وجہ سے آیا ہو تعدد طرق سے زائل نہیں ہوتا۔

(۱) الطھطاوی علی المراقي: ۲۰

روايات موضوعة في الباب

اب ہم یہاں پر اس بات کی موضوع روایات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس میں کس راوی کی وجہ سے یہ حکم وضع لگا ہے، اس کو بھی مختصر آبیان کرتے ہیں۔

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من

تواضأ و مسح على عنقه و قى الغل يوم القيمة. (۱)

(حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے مردی ہے کہ نبی کریم حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اپنی گردن پر مسح کرے وہ قیامت کے دن طوق پڑنے سے محفوظ رہے گا۔)

یہ حدیث موضوع ہے؛ کیوں کہ اس کی سند میں واضح و کذاب راوی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک جزء پڑھا ہے جس کو ابو الحسین بن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے فتح بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے نافع رضي الله عنهما سے ابن عمر رضي الله عنهما سے اخراج روایت کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ ابن فارس اور فتح کے درمیان مفازہ ہے، یعنی یہ روایت منقطع ہے کہ درمیان سے راوی ساقط ہیں۔ (۲)

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں فرمایا کہ یہ روایت احمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے امامی اور شرح الجرید میں بسند متصل ہے؛ لیکن اس کی سند میں حسین بن علوان اور ابو خالد وسطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (۳)

راقم کہتا ہے کہ حسین بن علوان و ضاعین میں سے ہے۔ چنانچہ میزان الاعتدال

(۱) رواه أبوالحسين بن فارس بأسناده وقال هذا إنشاء الله صحيح. تلخيص: ۱/۳۲

(۲) التلخيص الحبير: ۱/۹۲

(۳) نیل الأولاد: ۱/۱۵۹

میں ہے کہ یحییٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے اور علی نے کہا کہ بے حد ضعیف ہے اور ابو حاتم، نسائی اور دارقطنی رحمۃ اللہ نے کہا کہ متروک الحدیث ہے اور ابن حبان رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہشام رحمۃ اللہ وغیرہ پر حدیثیں گھڑتا تھا کہ اس کی حدیث لینا حلال نہیں؛ مگر تعجب کے طریقہ (انہی)۔^(۱)

اور ابو خالد واسطی جس کا نام عمرو بن خالد ہے، یہ بھی کذاب و ضعیف ہے، امام احمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ کذاب ہے، زید بن علی رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کے آباء سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا، نیز فرمایا کہ یہ متروک الحدیث، لیس بشیء ہے، امام ابن معین رحمۃ اللہ نے کہا کہ کذاب غیر ثقہ اور غیر مامون ہے، ابو زرع رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث گھڑتا تھا۔^(۲)

الغرض ان راویوں کی وجہ سے اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے۔

(۲) عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيمة.^(۳)

(ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ وہ جب وضوء کرتے تو گردن کا مسح کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضوء کرے اور اپنی گردن کا مسح کرے وہ قیامت میں یہڑی نہیں ڈالا جائے گا۔)

اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ابو نعیم رحمۃ اللہ کی تاریخ اصحابہ ان سے نقل کیا ہے اور یہ سند نقل کی ہے:

(۱) میزان الاعتدال : ۱/۲۵۲

(۲) تهذیب التهذیب : ۸/۲۲

(۳) التلخیص : ۱/۹۲

”ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داؤد ثنا عثمان

بن خرزاذ ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن

عمرو والانصارى عن أنس بن سيرين عن ابن عمرالخ.“

رقم کہتا ہے کہ اس سند میں عبد الرحمن بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہے جس کو میزان میں
کذاب گردانا ہے، ابو عبد اللہ بن الآباد اور ابن مسdi اور بہت سے لوگوں نے اس کو
کذاب قرار دیا ہے۔ (۱)

اور محمد بن عمر والانصاری رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”واہ“ کہا ہے (۲)

(۳) و عن ابن عمر رضی اللہ علیہ و سلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم

قال: مسح الرقبة أمان من الغل. (۳)

(ابن عمر رضی اللہ علیہ و سلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے
فرمایا کہ گردن کا مسح کرنا بیڑی سے امان و حفاظت ہے۔)

اس حدیث کو جیسا کہ حافظ نے تلخیص میں فرمایا کہ ابو محمد الجوینی نے وارد کیا ہے
اور کہا ہے کہ ائمہ حدیث نے اس کی اسناد و قبول نہیں کیا اور اس سے راضی نہیں
ہوئے۔ اور ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
سے معروف نہیں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ (۴)

رقم کہتا ہے کہ یہ احادیث اگرچہ صحیت یا حسن سے متصف نہیں ہو سکتی، تاہم ان
چند روایتوں سے بھی اتنا ضرور مفہوم و معلوم ہوتا ہے کہ مسح رقبہ کی اصل ہے جیسا کہ

(۱) میزان الاعتدال: ۹۳/۲، لسان المیزان: ۳۲۱/۳

(۲) نیل الاوطار: ۱/۲۰۳

(۳) رواه الدیلمی فی مسند الفردوس کذا شرح احیاء العلوم: ۲/۳۶۵، کذا فی
احیاء السنن: ۱/۳۸

(۴) التلخیص الحبیر: ۱/۹۲

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔

بہ ہر حال اس تمام تر بحث سے یہ بات واضح ہو گئی، مسح رقبہ بے اصل نہیں؛ بل کہ اس کی مشروعیت واستحباب پر ان موخر الذکر روایات کے علاوہ حسن روایات بھی ہیں اور پھر یہ روایات بھی اس کے اصل ہونے پر دال ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمْ

كيفیت مسح رقبہ

اب آخر میں مسح رقبہ کی کیفیت کے متعلق بھی کچھ عرض کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض فقہاء نے مسح رأس اور اسی طرح مسح رقبہ کی یہ کیفیت بیان کی ہے کہ ہر دونوں ہاتھوں کی تین انگلیوں کو سر کے اگلے حصہ پر رکھے؛ مگر انگوٹھا اور کلمہ کی انگلی نہ رکھے اور ہتھیلی بھی الگ رکھے اور ان تین انگلیوں کو گدی کی طرف لے جائے، پھر ہتھیلیوں کو سر کے پچھلے حصہ پر رکھے اور سر کے اگلے حصہ کی طرف ہاتھوں کو لے آئے، پھر انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کرے اور سباحتین (کلمہ کی انگلیوں) سے کانوں کے اندر وہی حصہ کا مسح کرے، اور ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔^(۱)

اور کفایہ ہی میں نہایہ سے اور عنایہ میں اس کیفیت کی وجہ بھی ذکر کی ہے، وہ یہ کہ اس طریقہ سے اس لئے کرنا ہے تاکہ پورے سر کا مسح ایسی تری سے ہو جو مستعمل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ایک ہی وقت ہتھیلیوں، انگوٹھے اور انگلیوں سے مسح کر دیں تو پھر دوبارہ مسح کرنا گویا ایسا ہوا کہ مستعمل پانی سے مسح کیا۔

مگر علامہ بن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کیفیت پر کلام کیا ہے۔ چنان چہ فرمایا:

”بہر حال سباحتین (کلمہ کی انگلیوں) کا مطلقاً الگ رکھنا تاکہ ان سے کانوں کا مسح کیا جائے اور ہتھیلیوں کا، پچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے

(۱) کفایہ عن المستصفی والنهاية: ۱/۲۹۱

الگ رکھنا تاکہ کنپٹی پر سے ان کو لوٹائے، سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے؛ اس لیے کہ (پانی کا) مستعمل ہونا (عضو) سے جدا ہونے سے قبل ثابت نہیں ہوتا اور پھر کان تو سر ہی (کے حصہ) میں سے ہیں (کماء جاء في الحديث) یہاں تک کہ ان دونوں (سر اور کان) کی تری کا ایک ہونا بھی جائز ہے اور اس لیے کہ رسول اللہ کا وضوء (نقل) کرنے والوں میں سے کسی نے اس (کیفیت) کو نقل نہیں کیا، اگر بالفرض یہ کیفیات مسنونہ میں سے ہوتا تو یہ (صحابہ) ضرور اس کی تصریح کرتے۔^(۱)

اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رد المحتار میں اس کو مختصرًا نقل فرمایا کہ سکوت فرمایا، بلکہ اس سے راضی ہوئے ہیں۔^(۲)
اور بحر الرائق میں بھی علامہ زیلیمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کیفیت مشہورہ پر نکیہ نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے:

”بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہتھیلیوں کو الگ رکھتے تاکہ پانی کے استعمال ہو جانے سے یہ بچے رہیں، یہ بے فائدہ ہے کیوں کہ (مسح) کرنے کے لیے ہاتھ کا رکھنا اور (ان کا آگے یا پیچھے کی طرف) کھینچنا ضروری ہے، پس اگر اول دفعہ رکھنے سے وہ مستعمل ہوتے ہیں، تو دوسری دفعہ سے بھی مستعمل ہوتے ہیں۔ لہذا اس کا موخر کرنا بے سود و بے فائدہ ہے۔“^(۳)

(۱) فتح القديم: ۱/۱۷

(۲) رد المحتار: ۱/۱۲۱

(۳) البحر الرائق: ۱/۲۶

حاصل یہ ہے کہ اول توجیہ کیفیت نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں دوسرے جو اس کیفیت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ استعمال ہونے سے احتراز کرنا ہے یہ بھی بعد التأمل بے فائدہ ہے؛ کیوں کہ جب تک اعضاء وضو سے ہاتھ جدائیں ہو گا اس وقت تک اس ہاتھ کو اور اس کی تری کو مستعمل ہونے کا حکم نہیں لگتا۔

چنانچہ کفایہ میں ہے:

”لأن الماء لا يُعطى له حكم الماء المستعمل حال الاستعمال، نص على ذلك في المبسوط، فقال : فكما أن في المغسلات الماء في العضوء لا يصير مستعملاً ، فكذا في إقامة السنة في الممسوح.“ (۱)

پھر اگر ہاتھ رکھتے ہی مستعمل ہونے کا حکم لگ جاتا ہے تو اول دفعہ ہاتھ سر پر رکھنے سے وہ پانی یا اس کی تری مستعمل ہو گئی؛ لہذا اس سے آگے ہاتھ سے مسح کرنا درست نہ ہونا چاہیے، حال آں کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، معلوم ہوا کہ اعضاء پر ہاتھ رکھنے یا پھیرنے سے ہاتھ اور اس کی تری مستعمل نہیں ہوتی؛ اس لیے پہلی دفعہ کے بعد بھی مسح کو جائز رکھا جاتا ہے۔

یہ تو کلام تحسیح رأس کے متعلق اور مسح رقبہ کا بھی یہی حال ہے کہ ہاتھ کی پشت سے مسح کرنا کسی روایت سے ثابت نہیں، جیسا کہ علامہ عبدالجعی صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ نے سعایہ میں تصریح کی ہے۔ (۲)

اور یہ کہنا کہ پانی یا تری مستعمل ہو جاتی ہے سر کے مسح کرنے سے، اس کا جواب

(۱) الكفاية: ۳۰/۱، مع فتح القدیر

(۲) السعایة

او پر کی سطور سے سہو گیا کہ اعضاء سے ہاتھوں کے الگ ہونے سے قبل استعمال ہو جانے کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔

پھر احادیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سر کا مسح کرتے ہوئے ہی گردن کا مسح فرمایا تھا، اور گردن کا الگ سے مسح کرنا ہماری کوتاہ نظر سے نہیں گزرا۔ لہذا اس خاص کیفیت پر تو زور دینا التزام مالا لیزم معلوم ہوتا ہے۔ البتہ مطلق مسح رقبہ کا انکار سر اسرنا الصافی ہے۔ اور سر کے مسح کے ساتھ گردن کے مسح کرنے پر طلحہ بن مصرف کی روایت کے یہ الفاظ صاف ہیں: "يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق" اسی طرح البتہ والل بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کیا، پھر رقبہ کا مسح کیا، مگر اس میں بھی ہاتھوں کی پشت سے کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص کیفیت منقول نہیں جس طرح چاہے کیا جاسکتا ہے، خواہ سر کے ساتھ یا الگ سے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمَهُ أَتْمٌ وَأَحْكَمٌ .
هذا آخر ما أردتُ إيراده هنا بفضل الله العظيم، اللهم تقبله مني
واجعله ذخراً لالمعادي وعاقبتي.

فقط

محمد شعیب اللہ عفی عنہ

وقد فرغت أنا من تصويفه في التاسع من ربيع الاول: ١٣٠٣
تبیضیہ فی الخامس من ربيع الثاني ١٣٠٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

